

مَجْمَعَتَانِ وَمَعْدَنُ لَيْك

# کتاب فی کلام العاصم بن یزید

جلد ۱۶

کتاب الحظرو الإباحة

اقادات

مفتی اعظم ہند علامہ محمد رفیع الدین عظیمی بن محمد بن عثمان

مؤلف

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دہلی

ملاحظہ

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دہلی

حسبہ ہدایت

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دہلی

ناشر مجلیت بیکر آباد لاہور

افادات  
مفتی اعظم عارباللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رح  
مفتی اول دارالعلوم دیوبند  
(ولادت: سنہ ۱۲۷۵ھ وفات: سنہ ۱۳۳۷ھ)

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند



ملاحظہ

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالہ پوری دہلی  
شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

ترتیب و تعلیق

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالہ پوری  
استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

مَكْمَلًا وَمَدْلَكًا

# فتاویٰ کا اعجاز و دیوبند

جلد ۱۶

کتاب لِحْظِ وَالْإِبَاحَةِ

افادات | مفتی اعظم، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی

مفتی اول دارالعلوم دیوبند (ولادت: سنہ ۱۲۷۵ھ و وفات: سنہ ۱۳۳۷ھ)

مرتب | حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالہ پوری

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

ملاحظہ | حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالہ پوری

شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

حسب ہدایت | حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب انجمانی مدظلہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ناشر

مکتبہ دارالعلوم دیوبند



جملہ حقوق بحق دارالعلوم دیوبند محفوظ ہیں

نام کتاب : مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (جلد ۱۶)

مسل : کتاب الحظر و الاباحہ

افادات : مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی  
مفتی اول دارالعلوم دیوبند (ولادت: سنہ ۱۲۷۵ھ و وفات: سنہ ۱۳۳۷ھ)

مرتب : مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

ملاحظہ : حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری  
شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

سن اشاعت : 2016

تعداد صفحات : ۵۵۲ (تعداد فتاویٰ: ۱۰۹۸)

ناشر : مکتبہ دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ ایچ۔ ایس۔ آفست پرنٹرز، نئی دہلی-۲

## فہرست مضامین

# کتاب الحظر والإباحة مکروہ اور مباح امور کا بیان

## کھانے پینے اور ضیافت کے احکام

- ۴۷ ✽ کھانا شروع کرتے وقت بِسْمِ اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں کوئی دعا پڑھے؟
- ۴۸ ✽ ”کھانا کھاؤ“ کے جواب میں ”بِسْمِ اللہ کرو“ کہنا.....
- ۴۸ ✽ بلا عذر باتیں ہاتھ سے کھانا پینا خلاف سنت ہے.....
- ۴۸ ✽ کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے؟.....
- ۵۰ ✽ چار پائی پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے.....
- ۵۰ ✽ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کپڑے سے خشک کرنا.....
- ۵۰ ✽ کھانے کے بعد کلی کرنا اور خلال کرنا.....
- ۵۱ ✽ جوتا پہن کر کھانا کیسا ہے؟.....
- ۵۱ ✽ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرنا.....
- ۵۲ ✽ میٹھا اور نمکین دونوں قسم کا کھانا موجود ہے تو کون سے کھانے سے ابتداء کرنا بہتر ہے؟
- ۵۳ ✽ سپی سے کھیر وغیرہ کھانا درست ہے.....



۵۳	تانبے اور پیتل کے برتن میں کھانا پینا
۵۳	تانبے، پیتل اور کانسے کے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟
۵۴	مشرکین کے استعمالی برتنوں میں رکھا ہوا گھی، دودھ اور دہی خریدنا اور کھانا
۵۵	چھار کا مٹکا دھو کر استعمال کرنا درست ہے
۵۵	مغرب اور عصر کے درمیان کھانا پینا درست ہے
۵۵	قضاے حاجت کے وقت پان کھانا
۵۵	جو غذا دانتوں میں رہ جاتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟
۵۶	آنحضرت ﷺ نے گندم کی روٹی تناول فرمائی ہے
۵۷	عورتوں کو غیر محرم مرد اور بزرگوں کا جھوٹا کھانا اور پانی استعمال کرنا کیسا ہے؟
۵۷	میاں بیوی کا ایک پیالہ میں دودھ چاول کھانا درست ہے
۵۷	حلال جانور کے بچے کو عورت نے دودھ پلایا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے
۵۸	جذامی کے ساتھ کھانا کھانا
۵۹	بھنگی اور چھار کے ساتھ ایک برتن میں کھانا
۵۹	زچہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا درست ہے
۵۹	ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے کھانا درست ہے
۶۰	مجامعت کی حالت میں بچہ کو دودھ پلانا
۶۰	مباح چیزوں سے پرہیز کرنا
۶۱	انڈا کیوں حلال ہے؟
۶۱	مرغی کے پیٹ سے نکلا ہوا انڈا کھانا کیسا ہے؟
۶۲	مچھلی کے انڈے کھانا درست ہے
۶۲	مچھلیوں کو مع آلائش کھانا
۶۳	بدبودار گوشت اور سرٹا ہوا انڈا کھانا کیسا ہے؟
۶۳	مولی، پیاز، اور لہسن کھانے کا حکم

- ✽ حرام آمدنی سے پلے ہوئے بیل اور اس کی کاشت کا حکم ..... ۶۵
- ✽ کھیس کھانا درست ہے ..... ۶۵
- ✽ جائف، جاوتری، زعفران، مشک، الایچی اور عنبر کھانا حلال ہے ..... ۶۶
- ✽ افیون اور خشخاش کا حکم ..... ۶۶
- ✽ کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے ..... ۶۷
- ✽ شکر قندی اور بڑھل کھانا حلال ہے ..... ۶۷
- ✽ مٹی کھانا کیسا ہے؟ ..... ۶۷
- ✽ شکر و چینی کھانا درست ہے ..... ۶۷
- ✽ اس شبہ کی وجہ سے کہ چرخی اور برتنوں کو کتے چاٹتے ہیں بازار کی شکر اور گڑ ناپاک نہیں ..... ۶۸
- ✽ بھنگی وغیرہ نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ..... ۶۹
- ✽ ہندو سے اشیاء خوردنی خرید کر کھانا درست ہے ..... ۷۰
- ✽ ہندو پنواڑی کا بنایا ہوا پان کھانا درست ہے ..... ۷۱
- ✽ ہندو اپنے تہوار کے روز جو مٹھائی بھیجتے ہیں اس کا کھانا درست ہے ..... ۷۲
- ✽ ہندو اپنی شادی غمی میں مٹھائی یا کھانا بھیجے یا دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟ ..... ۷۲
- ✽ پھل دار درخت کی نشوونما کے لیے خنزیر کا گوشت یا خون اور شراب ڈالی گئی ہو تو اس کا پھل کھانا اور اس کی لکڑی پر نماز پڑھنا جائز ہے ..... ۷۳
- ✽ خنزیر کی چربی یا خون یا شراب حلال جانور کے جسم پر ملی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے ..... ۷۳
- ✽ ترکاری وغیرہ کی نشوونما ناپاک پانی سے ہوئی ہو تو اس کا کھانا جائز ہے ..... ۷۴
- ✽ گوشت دم مسفوح میں آلودہ ہو جائے تو تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے ..... ۷۴
- ✽ کھانے میں پسینہ اور آنسو گر جائے تو کھانا حلال ہے ..... ۷۴
- ✽ عورت کا دودھ آٹے میں گر جائے تو اس آٹے کی روٹی اس کا شوہر کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ..... ۷۵
- ✽ کھانے میں چوہے کی میٹگنی پک جاوے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ ..... ۷۵
- ✽ جس جانور کے ساتھ وٹی کی گئی ہو اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ ..... ۷۶



- ✽ جواری نے جوے کی رقم سے جو مٹھائی خریدی ہے اس کا کھانا درست نہیں ..... ۷۶
- ✽ تاش کھیلنے والے کا کھانا کیسا ہے؟ ..... ۷۶
- ✽ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والوں کے ہاتھ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ ..... ۷۷
- ✽ بے نمازی نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اس کا کھانا جائز ہے ..... ۷۷
- ✽ افطاری کا کھانا جو مسجد میں بھیجا جاتا ہے اس کو کون کھا سکتا ہے؟ ..... ۷۷
- ✽ جو گوشت کا فر خرید کر لایا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ..... ۷۷
- ✽ قبرستان میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۷۸
- ✽ لاعلمی میں ناپاک چیز کھالی تو کچھ مواخذہ نہیں ..... ۷۹
- ✽ ریلوے کی زمین میں ترکاری بوکر کھانا کیسا ہے؟ ..... ۷۹
- ✽ برادری کے نام سے موسوم کھانا مَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں داخل نہیں ..... ۸۰
- ✽ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جو کھانا پکایا گیا ہے اس کا کھانا درست نہیں ..... ۸۰
- ✽ جو شیرینی اولیاء کے مقابر پر چڑھائی جاتی ہے اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ ..... ۸۰
- ✽ کندوں اور ایلوں سے کھانا پکنا جائز ہے ..... ۸۱
- ✽ جس گھی میں حرام جانوروں کی چربی ملانے کا شبہ ہو اس کا کھانا کیسا ہے؟ ..... ۸۲
- ✽ کوئی حلال و طاہر چیز احتمال غلاظت سے ناپاک نہیں ہوتی ..... ۸۲
- ✽ میت کے پسماندگان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا دیگر رشتہ دار کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ .... ۸۳
- ✽ اہل میت کا اپنے گھر کھانا پکنا کیسا ہے؟ ..... ۸۳
- ✽ ایام ماتم میں کھانا کھانا درست نہیں ..... ۸۴
- ✽ میت کے نام کا کھانا کھانا ..... ۸۴
- ✽ سود خوار کے یہاں کھانے کا حکم اور اغنیاء کو کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ .... ۸۴
- ✽ برائے ایصال ثواب جو چیز دی جائے وہ صدقہ ہے ..... ۸۵
- ✽ مدارس میں زکاۃ کی رقم سے جو کھانا پکتا ہے اس کو مدرسین خرید کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ .... ۸۶
- ✽ مشترک کھانے میں سے کوئی کم کوئی زیادہ کھائے تو کیا حکم ہے؟ ..... ۸۶

- ۸۷ ..... \* بالغ اور نابالغ بھائیوں کا کھانا شرکت میں پکتا ہے، ان کی دعوت کھانا کیسا ہے؟
- ۸۷ ..... \* جس کی آمدنی سود کی ہے وہ کھانا بھیجے تو جس کے یہاں کھانا بھیجا ہے اس کا ملازم کھا سکتا ہے یا نہیں؟
- ۸۷ ..... \* جو شخص صاحبِ نصاب ہے اس کو نذر و نیاز اور سود کی رقم سے تیار کردہ کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے
- ۸۸ ..... \* صاحبِ نصاب امام کا اہل محلہ سے روٹی لینا درست ہے
- ۸۹ ..... \* نابالغ طلبہ کی باقی ماندہ روٹی فروخت کر کے اس کی رقم ان پر خرچ کرنا
- ۸۹ ..... \* معاونینِ مدرسہ کی مدرسہ کے فنڈ سے دعوت کرنا
- ۸۹ ..... \* شادی کا بچا ہوا کھانا اللہ واسطے دینا
- ۸۹ ..... \* ہندو کے گھر کھانا کھانا درست ہے یا نہیں؟
- ۹۰ ..... \* ہندو کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک ہے
- ۹۰ ..... \* غیر مسلموں کی دعوت میں شریک ہونا
- ۹۱ ..... \* ہندو کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنا
- ۹۱ ..... \* عیسائی کے گھر یا اس کے ساتھ کھانا کھانا
- ۹۲ ..... \* شیعوں کی شادی غمی وغیرہ مجالس میں شریک ہو کر کھانا کھانا
- ۹۳ ..... \* مزدور پیشہ لوگوں کا شیعوں اور ہندوؤں کے یہاں کھانا پینا
- ۹۳ ..... \* شیعوں کی دعوت قبول کرنا اور ان سے میل جول رکھنا
- ۹۴ ..... \* قادیانی کی دعوت میں شریک ہونا اور ان سے لین دین کرنا
- ۹۴ ..... \* مرزائی کے ساتھ کھانا پینا
- ۹۵ ..... \* سود خوار کے گھر دعوت کھانا
- ۹۶ ..... \* سود خوار کے مکان میں رہنا
- ۹۶ ..... \* رشوت خور کی دعوت کھانا
- ۹۶ ..... \* رشوت خور کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟



- ۹۸ ..... سود خوار نے توبہ کر لی ہو تو اس کے یہاں کھانا درست ہے یا نہیں؟
- ۹۸ ..... رشوت خور کی دعوت اور پان کھانا
- ۹۹ ..... سودی قرض لے کر تجارت کرنے والوں کے یہاں کھانا پینا درست ہے
- ۹۹ ..... طوائف کے یہاں کھانا پینا اور ان کی شادی غمی میں شریک ہونا
- ۱۰۰ ..... زانی کے گھر کا کھانا کھانا
- ۱۰۰ ..... شرابی کے ساتھ کھانا پینا اور اس کی شادی غمی میں شریک ہونا
- ۱۰۰ ..... چور کے یہاں ضیافت کھانا جائز ہے یا نہیں؟
- ۱۰۱ ..... شراب فروش کے یہاں کھانا پینا
- ۱۰۱ ..... مخلوط آمدنی والے کے گھر کھانا درست ہے
- ۱۰۱ ..... جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ان کی دعوت کھانا
- ۱۰۲ ..... مخلوط آمدنی والے کی دعوت، ملازمت اور چندہ کا حکم
- ۱۰۲ ..... خالص حرام آمدنی والے کا کھانا کھانا درست نہیں
- ۱۰۲ ..... گانا بجانے والے کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟
- ۱۰۳ ..... ناچ رنگ والی شادی اور دعوت میں شرکت کرنا
- ۱۰۵ ..... گانا فروش کے گھر کھانا کھانا
- ۱۰۶ ..... مسلمان دھوبی کے گھر کا کھانا کھانا درست ہے
- ۱۰۶ ..... مسلمان حجام اور خاکروب کا کھانا کھانا درست ہے
- ۱۰۶ ..... جس نے خاکروب کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھا لیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟
- ۱۰۷ ..... ہمجڑے کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے
- ۱۰۷ ..... مسلمان دایہ کے گھر کا کھانا کھانا درست ہے
- ۱۰۷ ..... فقیر مانگے ہوئے پیسوں سے دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۰۷ ..... بے نمازی کے ساتھ کھانا اور دیگر تعلقات رکھنا
- ۱۰۸ ..... بے نمازی کو کھانا کھانا اور قربانی کا گوشت دینا

- ۱۰۸ ..... بے نمازی کی دعوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟
- ۱۰۸ ..... بے نمازی کی دعوت قبول کرنا اور نماز کی تنبیہ کرنا
- ۱۰۹ ..... پولیس کی دعوت کرنا اور اس کے گھر دعوت کھانا
- ۱۰۹ ..... وکیلوں کے گھر کا کھانا کھانا
- ..... جو حکام انگریزی قانون کے موافق فیصلہ کرتے ہیں اور جو وکلاء اس قانون کی رو سے
- ۱۰۹ ..... مقدمات کی پیروی کرتے ہیں ان کی دعوت کھانا کیسا ہے؟
- ۱۱۰ ..... غیر مدعو کو اپنے ہمراہ دعوت میں لے جانا جائز نہیں
- ۱۱۰ ..... جو شخص محکمہ آبکاری میں ملازم ہے اس کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟
- ۱۱۲ ..... فاسق کی دعوت قبول کرنا ممنوع ہے
- ۱۱۳ ..... مرتکب کبار عہدے داران کی دعوت میں شرکت کرنا
- ۱۱۳ ..... جس جگہ ڈاکیہ ملازمت کرتا ہے وہاں کا باشندہ ڈاکیہ کی دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۱۴ ..... تحصیل دار کا تحصیل کے کسی باشندے کی دعوت و تحفہ قبول کرنا
- ۱۱۴ ..... رنڈی کی دعوت کھانا
- ۱۱۴ ..... نصرانیوں کی دعوت کے لیے ناپاک و حرام چیزوں کا انتظام کرنا
- ۱۱۵ ..... غلہ اکٹھا کر کے بھنڈارا کرنا
- ۱۱۵ ..... ختم قرآن اور حج سے واپسی کے بعد دعوت کرنا
- ۱۱۶ ..... ختم قرآن و ختنہ کی تقریب میں دعوت کرنا
- ۱۱۶ ..... بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں کھانا کھانا
- ۱۱۶ ..... حصول برکت کے لیے قرآن شریف ختم کرا کر کھانا کھانا
- ۱۱۷ ..... ختنہ پر دعوت کرنا ضروری نہیں
- ۱۱۷ ..... دس پندرہ سال بعد ولیمہ کرنا
- ۱۱۷ ..... میبج کے عیوب چھپانے والے تاجروں کی دعوت کا حکم
- ۱۱۸ ..... خود عمدہ کھانا کھانا اور مسافر و طلبہ کو معمولی کھانا کھانا



- ۱۱۸ ..... کونسا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے؟
- ۱۲۰ ..... کھلانا پلانا داہنی طرف سے شروع کیا جائے یا بڑے بزرگ سے؟
- ۱۲۱ ..... سرکاری نیلام کے جانوروں کا دودھ، گھی استعمال کرنا
- ۱۲۱ ..... بہن: نابالغ بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے
- ۱۲۱ ..... بھابھ: نابالغ دیور کو دودھ پلا سکتی ہے
- ۱۲۱ ..... عورت کو بھی اپنا دودھ پینا حرام ہے
- ۱۲۱ ..... پھٹا ہوا دودھ کھانا کیسا ہے؟
- ۱۲۲ ..... جو گائے، بکری بچہ جنے بغیر دودھ دیتی ہے اس کا پینا کیسا ہے؟
- ۱۲۲ ..... گا بھن جانور کا دودھ حلال ہے
- ۱۲۲ ..... دودھ نکالنے کے لیے بھینس کے آگے مصنوعی بچھڑا بنا کر کھڑا کرنا
- ۱۲۳ ..... گائے بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے لباس تبدیل کرنا
- ۱۲۳ ..... ذبیحہ کا دودھ نکال کر استعمال کرنا
- ۱۲۳ ..... گڈریا کے یہاں سے بکری کا دودھ لینا اور پینا
- ۱۲۳ ..... چھار بھینس کا دودھ نکالے تو حلال ہے یا نہیں؟
- ۱۲۴ ..... سہواً بھنگی یا چھار کا حقہ پانی پی لینے میں کوئی گناہ نہیں
- ۱۲۴ ..... جس بھینس نے غیروں کی کھیتی کھائی ہو اس کا دودھ پینا کیسا ہے؟
- ۱۲۴ ..... توبہ کے بعد شرابی کا جھوٹا حلال ہے یا حرام؟
- ۱۲۴ ..... گائے بھینس کی پیشاب گاہ میں انگلی ڈال کر دودھ نکالنا
- ۱۲۵ ..... ولایتی دودھ اور تیل استعمال کرنا
- ۱۲۵ ..... ہندوؤں سے پانی بھروا کر استعمال کرنا
- ۱۲۶ ..... فوجیوں سے پانی کی کچی خرید کر پانی پینا
- ۱۲۶ ..... پاخانہ کا پانی نہر میں جاتا ہو تو اس نہر کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟
- ۱۲۶ ..... کتے کا جھوٹا دودھ گائے وغیرہ کو پلانا

- ✽ چار قسم کی شراب قطعی حرام ہے ..... ۱۲۷
- ✽ کشمش اور چھوڑے ایک رات دن پانی میں بھگو کر اس کا پانی پینا ..... ۱۲۷
- ✽ شراب سرکہ بنانے سے حلال ہو جاتی ہے ..... ۱۲۸
- ✽ بیمار کا شراب پینا درست ہے یا نہیں؟ ..... ۱۲۸
- ✽ اسپرٹ کا استعمال اور خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۲۹
- ✽ تاڑی پینا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۳۰
- ✽ تاڑی کی روٹی کا حکم ..... ۱۳۱
- ✽ افیون اور تمباکو کھانا پینا کیسا ہے؟ ..... ۱۳۲
- ✽ افیون پاک ہے ..... ۱۳۳
- ✽ افیون نہ کھانے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ ..... ۱۳۳
- ✽ درد زہ کی تکلیف سہنے کے لیے شراب کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۳۴
- ✽ بچے کو سلانے کے لیے افیون دینا ..... ۱۳۴
- ✽ افیون اور بھنگ ملی ہوئی دوا استعمال کرنا ..... ۱۳۴
- ✽ چرس اور سٹم الفار کا حکم ..... ۱۳۵
- ✽ حقہ پینے کا حکم ..... ۱۳۵
- ✽ جو لوگ حقہ پیتے ہیں ان کو آب کوثر ملے گا یا نہیں؟ ..... ۱۳۸
- ✽ حقہ پینے والے کو مرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں؟ ..... ۱۳۸
- ✽ حقہ کا پانی کب بدلنا چاہیے؟ ..... ۱۳۸
- ✽ حقہ نوش کے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ..... ۱۳۹
- ✽ قرآن شریف کی تعلیم کے دوران مکتب میں بیٹھ کر حقہ پینا ..... ۱۴۰
- ✽ تمباکو اور چونا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۴۰
- ✽ تمباکو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۴۱
- ✽ تمباکو کھانے، پینے اور سونگھنے میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ..... ۱۴۱

۱۴۲	..... بیڑی اور سگریٹ پینا	✽
۱۴۲	..... نسوار استعمال کرنا	✽
۱۴۳	..... حلال روزی تلاش کرنا	✽

## لباس، زیور اور زینت کے احکام

۱۴۴	..... اسلامی اور غیر اسلامی لباس	✽
۱۴۶	..... پانچامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے	✽
۱۴۷	..... مردوں کو سرخ کپڑے پہننا کیسا ہے؟	✽
۱۴۸	..... مردوں کو باریک کپڑا پہننا	✽
۱۴۸	..... مردوں کو ریشمی کپڑے استعمال کرنا جائز نہیں	✽
۱۵۰	..... ٹسراور ریشم کا حکم ایک ہے	✽
۱۵۰	..... مردوں کے لیے ریشمی رومال استعمال کرنا درست نہیں	✽
۱۵۱	..... ریشمی کمر بند کا حکم	✽
۱۵۱	..... قرآن شریف کے لیے ریشمی جزدان کا استعمال	✽
۱۵۱	..... ململ کی ٹوپی پہننا درست ہے	✽
۱۵۲	..... ترکی ٹوپی کا حکم	✽
۱۵۲	..... دھوتی باندھنا کیسا ہے؟	✽
۱۵۳	..... شیروانی کا حکم	✽
۱۵۳	..... کوٹ، پتلون کا حکم	✽
۱۵۳	..... بہ وقت شکار کوٹ پہننا	✽
۱۵۴	..... کوٹ، پتلون پہن کر نماز پڑھنا	✽
۱۵۴	..... چادر کس طرح اوڑھنا چاہیے؟	✽
۱۵۴	..... کھڑے ہو کر پانچامہ پہننا	✽

۱۵۴	✽ نماز پاءجامہ میں افضل ہے یا لنگی میں؟
۱۵۵	✽ آنحضرت ﷺ نے پاءجامہ پہنا ہے یا نہیں؟
۱۵۵	✽ حضور ﷺ کے زمانے میں مستورات پاءجامہ پہنتی تھیں یا تہبند؟
۱۵۶	✽ کلی دار پاءجامہ مستورات پہن سکتی ہیں یا نہیں؟
۱۵۷	✽ مستورات کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟
۱۵۸	✽ ساڑی اور گھاگرا پہننا جائز ہے یا نہیں؟
۱۵۹	✽ عورتوں کو لہنگا پہننا
۱۵۹	✽ ایسا لباس پہننا جس میں گھٹنے کھلے رہیں جائز نہیں
۱۶۰	✽ انگریزی لباس پہننے والی عورت کو طلاق دینا
۱۶۰	✽ عورتوں کو کھڑا جوتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟
۱۶۱	✽ مردوں کو آہنی کڑے پہننا
۱۶۱	✽ جس جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا لباس ایک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
۱۶۲	✽ دستار کا شملہ چھوڑنے کا مسنون طریقہ
۱۶۳	✽ دستار کے اوپر پھندا چھوڑنا
۱۶۳	✽ دستار کے نیچے ٹوپی پہننا بہتر ہے
۱۶۳	✽ دستار کی مقدار
۱۶۳	✽ سر پر رومال اوڑھنا عمامہ کے حکم میں ہے یا نہیں؟
۱۶۳	✽ نماز میں دستار نہ باندھے تو کیا حکم ہے؟
۱۶۵	✽ مردوں کو پھولوں کا ہار اور گجر استعمال کرنا
۱۶۵	✽ کن کن جگہوں میں عطر لگانا مسنون ہے؟
۱۶۵	✽ مردوں کو سونا چاندی پہننا درست ہے یا نہیں؟
۱۶۶	✽ مردوں کو ہیرے والی انگوٹھی پہننا
۱۶۶	✽ زربھری ہوئی ٹوپی پہننا



- ❖ مردوں کو سونے چاندی کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۶۷
- ❖ تانبے اور پیتل کے بٹن استعمال کرنا ..... ۱۶۹
- ❖ مردوں کے لیے گھڑی کی چین سونے چاندی کی استعمال کرنا کیسا ہے؟ ..... ۱۷۰
- ❖ مردوں کو سونے چاندی کی زنجیر والے بٹن لگانا ..... ۱۷۱
- ❖ مردوں کو موتی وغیرہ جواہرات پہننا حرام ہے ..... ۱۷۲
- ❖ مردوں کو صرف ساڑھے چار ماشہ چاندی کی انگوٹھی پہننا درست ہے ..... ۱۷۲
- ❖ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے ..... ۱۷۲
- ❖ مستورات کو ناک میں زیور پہننا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۱۷۳
- ❖ عورتوں کا ناک کان چھیدنا اور ان میں زیورات پہننا ..... ۱۷۳
- ❖ پازیب وغیرہ زیورات کا حکم ..... ۱۷۵
- ❖ سونے چاندی کے سوا کس کس چیز کا زیور پہننا درست ہے؟ اور عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ ..... ۱۷۵
- ❖ پیتل، لوہے وغیرہ کے زیور پر سونے چاندی کا ملمع ہو تو کیا حکم ہے؟ ..... ۱۷۶
- ❖ عورتوں کو شیشہ اور کانچ کی چوڑیاں پہننا درست ہے ..... ۱۷۶
- ❖ سونے چاندی کی کمانی کا چشمہ استعمال کرنا درست نہیں ..... ۱۷۷
- ❖ پلنگ کے پایوں پر چاندی کا خول چڑھانا ..... ۱۷۷
- ❖ سونے چاندی کی سرمہ دانی اور آئینہ کا حکم ..... ۱۷۸
- ❖ سونے چاندی کے نب والا قلم اور دوات استعمال کرنا درست نہیں ..... ۱۷۹
- ❖ سونے کے دانت لگوانا ..... ۱۸۰
- ❖ گھوڑے بیل وغیرہ کو سونا چاندی کا زیور پہننا ..... ۱۸۲

## پردہ اور ستر کے احکام

- ❖ پردہ کی شرعی حیثیت اور اہمیت ..... ۱۸۳

- ۱۸۵ ..... پردہ شرعی اور نامحرم کی تعریف ❀
- ۱۸۶ ..... شرعی پردہ کس قدر ہے؟ اور نقاب رکھنا کیسا ہے؟ ❀
- ۱۸۶ ..... برقع کیسا ہونا چاہیے؟ ❀
- ۱۸۸ ..... پردہ فرض ہے یا سنت یا مباح؟ ❀
- ۱۸۸ ..... کتنی عمر کے لڑکوں سے پردہ فرض ہے؟ ❀
- ۱۸۹ ..... سالی کو بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے ❀
- ۱۹۰ ..... سلج (سالے کی بیوی) کو خاوند کے بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے ❀
- ۱۹۰ ..... چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی زاد بھائیوں سے پردہ کرنا چاہیے ❀
- ۱۹۰ ..... پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے ❀
- ۱۹۱ ..... نوکروں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے ❀
- ۱۹۱ ..... بیوی یا شوہر کی وفات کے بعد پردے کا کیا حکم ہے؟ ❀
- ۱۹۱ ..... خاوند کے بھتیجے سے پردہ کرنا چاہیے ❀
- ۱۹۲ ..... پڑوسیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے ❀
- ۱۹۲ ..... پرورش کردہ یا منکوحہ کے ہمراہ آئے ہوئے لڑکے سے پردہ کا حکم ❀
- ۱۹۳ ..... طلاق شدہ عورت کا اپنے سابق خاوند سے پردہ کرنا فرض ہے ❀
- ۱۹۳ ..... باپ کے چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا لازم ہے ❀
- ۱۹۳ ..... سوتیلی ساس سے پردہ کا حکم ❀
- ۱۹۴ ..... دیور وغیرہ اجنبی کی طرح ہیں ❀
- ۱۹۴ ..... جیٹھ، دیور، خسر اور خاوند کے نانا سے پردہ ہے یا نہیں؟ ❀
- ۱۹۵ ..... سالی کی بالغ بیٹی، چچی، ممانی اور خالو، پھوپھا سے پردہ کرنا ❀
- ۱۹۵ ..... باپ اور بھائی سے پردہ نہیں ہے ❀
- ۱۹۶ ..... فتنہ کا خوف ہو تو محرم سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ ❀
- ۱۹۶ ..... سوتیلی ماں سے پردہ لازم نہیں مگر احتیاط ضروری ہے ❀

- ✽ مدخولہ زوجہ کی لڑکی سے پردہ نہیں ..... ۱۹۷
- ✽ رضاعی رُبیبہ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ..... ۱۹۸
- ✽ رضاعی باپ سے پردہ کرنا ضروری نہیں ..... ۱۹۸
- ✽ ایک ہی مکان میں رہنے والوں کے درمیان پردہ کا کیا حکم ہے؟ ..... ۱۹۹
- ✽ مدت گزر جانے کے بھی بعد پھوپھا اور ان کے بیٹے وغیرہ سے پردہ کرنے کا حکم ہے ..... ۲۰۱
- ✽ پردہ کا حکم شرعی کسی رواج سے ساقط نہیں ہو سکتا ..... ۲۰۱
- ✽ عورتوں کو بے پردہ رکھنے کا کوئی عذر معتبر نہیں ..... ۲۰۱
- ✽ والدین کا بیٹے کی بیوی کو پردہ نہ کرنے پر مجبور کرنا ..... ۲۰۲
- ✽ بلا پردہ غیر محارم کے سامنے آنا خاوند کی اجازت سے بھی درست نہیں ..... ۲۰۲
- ✽ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کب منع ہے؟ ..... ۲۰۲
- ✽ فتنہ کا خوف نہ ہو تو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کیسا ہے؟ ..... ۲۰۵
- ✽ عورت کا نامحرم کے ساتھ سفر کرنا ..... ۲۰۵
- ✽ مستورات کا پردے میں رہ کر نامحرم مرد سے پڑھنا ..... ۲۰۶
- ✽ خواتین کا پردے میں رہ کر اپنے استاذ سے بات کرنا ..... ۲۰۶
- ✽ بالغ لڑکی کا تنہائی میں غیر محرم عالم سے قرآن پڑھنا ..... ۲۰۷
- ✽ مستورات کو مردوں کے بیانات سننا درست ہے ..... ۲۰۷
- ✽ مستورات کا مجالس وعظ میں شرکت کرنا ..... ۲۰۷
- ✽ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا ..... ۲۰۸
- ✽ اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں اور پڑھانے والی عورتوں کو بہ وجہ ضرورت دیکھنا ..... ۲۱۵
- ✽ کیا خوب صورت عورتوں کو دیکھنا عبادت ہے؟ ..... ۲۱۵
- ✽ توبہ کے بعد نامحرم عورتوں کو دیکھنا ..... ۲۱۶
- ✽ نامحرم عورت کو اس غرض سے دیکھنا کہ یہ کون عورت ہے؟ اور پڑوسی کے مکان میں دیکھنا ..... ۲۱۶
- ✽ لڑکیوں کو اسکول میں تعلیم دینا ..... ۲۱۶

۲۱۷	✽ لڑکیوں کی تعلیم مدارس میں مناسب نہیں.....
۲۱۸	✽ عورتوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کا بہترین طریقہ.....
۲۱۸	✽ لڑکیوں کا اجلاس عام میں قراءت، اشعار وغیرہ پڑھنا.....
۲۱۹	✽ پردہ کے سلسلہ میں باپ وغیرہ کی لاپرواہی باعث گناہ ہے.....
۲۱۹	✽ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے پردہ کرنے کی وجہ؟.....
۲۲۰	✽ محارم عورتوں کا ستر.....
۲۲۰	✽ حجاب اور ستر عورت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟.....
۲۲۰	✽ ستر عورت کے احکام اور حجابِ نساء میں فرق.....
۲۲۲	✽ مرد اور عورت کا ستر ایک ہے.....
۲۲۲	✽ عورت کے لیے حجاب ہے اور وہ تین مرحلوں میں ہے.....
۲۲۴	✽ کیا ستر چھپانا ہر وقت فرض ہے؟.....
۲۲۴	✽ نظر بر قدم رکھنا.....
۲۲۴	✽ پہلوانوں کی کشتی دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟.....
۲۲۵	✽ لنگوٹ باندھ کر ڈنڈ کرنا اور کشتی لڑنا.....
۲۲۵	✽ بالکل برہنہ ہو کر سونا اور جماع کرنا.....
۲۲۶	✽ ننگا صحن میں نہانا مکروہ ہے.....
۲۲۶	✽ اجنبی کے گھر اور صحن کو دیکھنا.....
۲۲۶	✽ ولادت کے وقت زچہ کا ستر دیکھنا.....
۲۲۶	✽ ملازمت کے لیے برہنہ ہو کر ڈاکٹری معائنہ کرانا.....
۲۲۷	✽ بلا ضرورت اجنبی عورتوں سے باتیں کرنا.....
۲۲۸	✽ بھابھی کو خط لکھنا اور بھابھی اور سالی سے ہم کلام ہونا.....
۲۲۸	✽ اجنبی عورت سے بدن دلوانا جائز نہیں.....
۲۲۸	✽ بہو سے گفتگو کرنا اور خدمت لینا.....

- ✽ بیٹی، بہن، والدہ وغیرہ سے سر میں تیل لگوانا یا دیگر خدمات لینا ..... ۲۲۹
- ✽ عورت کا اپنے مکان میں ننگے سر رہنا ..... ۲۲۹

## بالوں اور ختنہ کے احکام

- ✽ بال رکھنے کی مقدار ..... ۲۳۱
- ✽ سر کے بال کتر وانا اور منڈانا ..... ۲۳۲
- ✽ بالوں کی بدہیئتی سے بچنے کا حکم ..... ۲۳۲
- ✽ سر کے کچھ بال منڈانا ..... ۲۳۲
- ✽ سر کے بال آگے اور پیچھے سے منڈانا ..... ۲۳۳
- ✽ اچھی نیت سے انگریزی بال رکھنا اور ڈاڑھی منڈانا ..... ۲۳۳
- ✽ پشت اور سینہ کے بال مونڈنا ..... ۲۳۴
- ✽ ماتھا رخسار اور گردن پر استرا پھیرنا ..... ۲۳۴
- ✽ پنڈلی کے بال اتارنا ..... ۲۳۴
- ✽ انگریزی بال رکھنا ..... ۲۳۵
- ✽ ہنود کی طرح چوٹی رکھنا کیسا ہے؟ ..... ۲۳۵
- ✽ عورتوں کی طرح چوٹی باندھنا کیسا ہے؟ ..... ۲۳۶
- ✽ خط بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۲۳۶
- ✽ قلمیں بنوانا اور گردن و گلے کے بال منڈانا ..... ۲۳۷
- ✽ چھوٹی لڑکی کا سر منڈانا ..... ۲۳۸
- ✽ ڈاڑھی کو رنگنا اور سفید رکھنا ..... ۲۳۸
- ✽ مہندی وغیرہ کا خضاب جائز ہے ..... ۲۳۹
- ✽ سیاہ خضاب کرنا مکروہ ہے ..... ۲۴۰
- ✽ علاج کی غرض سے سیاہ خضاب کرنا ..... ۲۴۱



- ۲۴۲ ..... ❁ جوان بیوی کی دل جوئی کے لیے سیاہ خضاب کرنا
- ۲۴۳ ..... ❁ جائز اور ناجائز خضاب کی تفصیل
- ۲۴۵ ..... ❁ مستورات کو مہندی لگانا مستحب ہے
- ۲۴۵ ..... ❁ بچہ وغیرہ کے بالوں کا برش بالوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنا
- ۲۴۶ ..... ❁ مستورات بالوں کو کھلا چھوڑیں یا جوڑا باندھیں؟
- ۲۴۶ ..... ❁ جمعہ کے دن حجامت بنوانا افضل ہے
- ۲۴۶ ..... ❁ حالت جنابت میں حجامت بنوانا
- ۲۴۷ ..... ❁ زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی کا طریقہ
- ۲۴۷ ..... ❁ زیر ناف کی صفائی کی مدت
- ۲۴۷ ..... ❁ صابون وغیرہ سے زیر ناف کی صفائی
- ۲۴۸ ..... ❁ عورتوں کو پیشانی کے بال صاف کرنا جائز نہیں
- ۲۴۹ ..... ❁ دوسرے کی کنگھی استعمال کرنا
- ۲۴۹ ..... ❁ ڈاڑھی رکھنے کا حکم حدیث سے ثابت ہے
- ۲۵۰ ..... ❁ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے
- ۲۵۰ ..... ❁ ڈاڑھی اور مونچھ کی مقدار
- ۲۵۲ ..... ❁ ہر جانب سے ڈاڑھی ایک مشت ہونی چاہیے
- ۲۵۲ ..... ❁ ایک مشت ڈاڑھی کہاں سے ناپی جائے؟
- ۲۵۲ ..... ❁ ایک مشت سے کم ڈاڑھی رکھنا حرام ہے
- ۲۵۳ ..... ❁ ڈاڑھی منڈانے والا متقی نہیں بلکہ فاسق ہے
- ۲۵۳ ..... ❁ ڈاڑھی منڈانا اور خش خش کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے
- ۲۵۴ ..... ❁ ڈاڑھی منڈانے اور خش خش کرانے کی سزا
- ۲۵۵ ..... ❁ مجاہد کو بھی ڈاڑھی منڈانا روا نہیں
- ۲۵۶ ..... ❁ ڈاڑھی منڈانے کو سنت کہنا گناہ کبیرہ ہے

- ✽ ۲۵۶ ..... ڈاڑھی شرعی مقدار سے کم ہو تو بالوں کو یکساں کرانا کیسا ہے؟
- ✽ ۲۵۶ ..... نیچے کے ہونٹ کے بال کاٹنا کیسا ہے؟
- ✽ ۲۵۷ ..... کسی کی ڈاڑھی منڈنا یا کترنا حجام کے لیے جائز نہیں
- ✽ ۲۵۷ ..... حجام ڈاڑھی مونڈنے سے گنہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟
- ✽ ۲۵۷ ..... مونچھوں کو کس قدر کتر وانا چاہیے؟
- ✽ ۲۵۷ ..... مونچھیں کاٹنا سنت ہے یا منڈانا؟
- ✽ ۲۵۸ ..... ختنہ کیوں کرایا جاتا ہے؟
- ✽ ۲۵۸ ..... زخم کی وجہ سے چمڑی کٹ کر گر گئی ہو تو ختنہ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟
- ✽ ۲۵۹ ..... جس کا حشفہ ظاہر ہو اس کا ختنہ ضروری نہیں
- ✽ ۲۵۹ ..... جو شخص مختون پیدا ہوا ہے اس کا ختنہ ضروری نہیں
- ✽ ۲۵۹ ..... بالغ ہونے کے بعد بھی ختنہ کرانا ضروری ہے
- ✽ ۲۶۱ ..... عورت کا ختنہ کرنا کیسا ہے؟
- ✽ ۲۶۱ ..... عورت کا ختنہ عورت ہی کر سکتی ہے
- ✽ ۲۶۲ ..... قوی عذر کے بغیر ختنہ ترک کرنا درست نہیں
- ✽ ۲۶۳ ..... جو بچہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے اس کا ختنہ کرانا
- ✽ ۲۶۳ ..... بالغ نو مسلم کا بھی ختنہ کرانا ضروری ہے
- ✽ ۲۶۴ ..... ختنہ کی تقریب میں اقرباء اور احباب کی دعوت کرنا اور نیوٹا لینا
- ✽ ۲۶۵ ..... مردہ بچہ کی ناف نہ کاٹی جائے

## کھیل، تماشے اور تصاویر وغیرہ کے احکام

- ✽ ۲۶۶ ..... کبڈی اور گیند بلا سے کھیلنا کب جائز ہے؟
- ✽ ۲۶۶ ..... نکاح میں ناچ، آتش بازی اور ڈھول باجا وغیرہ بجا نا حرام ہے
- ✽ ۲۶۷ ..... حمد و نعت کے ساتھ دف بجانا سوائے ادبی ہے

۲۶۷	تھیٹر کا تماشا کرنا اور دیکھنا
۲۶۹	صحابی کا ڈراما کرنا جائز ہے یا نہیں؟
۲۶۹	میلہ یا نمائش میں جانا کیسا ہے؟
۲۷۰	کفار کے میلوں میں شریک ہونا کیسا ہے؟
۲۷۰	کفار کے مذہبی میلوں میں خرید و فروخت کے لیے جانا
۲۷۱	پٹا (کنڑی کا تماشا) کھیلنا
۲۷۱	سرکس دیکھنا کیسا ہے؟
۲۷۲	بائس کوپ کا حکم
۲۷۲	ہولی کھیلنا حرام ہے
۲۷۲	گشتی لڑنا درست ہے یا نہیں؟
۲۷۳	گشتی کا دنگل قائم کرنا اور ٹکٹ مقرر کرنا
۲۷۴	گشتی میں ہارجیت کے لیے روپیہ مقرر کرنا اور گشتی جیتنے کے لیے اکھاڑا پر قرآن ختم کرنا
۲۷۴	تاش کھیلنا کیسا ہے؟
۲۷۵	بہ وقت ورزش بینڈ بجا بجانا حرام ہے
۲۷۷	گھنٹہ بجانے والی گھڑیوں کا حکم
۲۷۸	نماز کی آگاہی کے لیے مسجد میں نقارہ بجانا
۲۷۹	سحر و افطار کی آگاہی کے لیے نقارہ بجانا
۲۸۰	مدارس میں اوقات کی آگاہی کے لیے گھنٹہ بجانا
۲۸۱	توالی کا حکم
۲۸۳	گراموفون میں قرآن پاک بھرنا اور سننا
۲۸۴	تیتربازی اور مرغ بازی سکھانا
۲۸۵	کبوتر پالنا اور اڑانا کیسا ہے؟
۲۸۵	بلا شرط مرغ لڑانا کیسا ہے؟

۲۸۵	.....	✽	ناچنا اور گانا حرام ہے
۲۸۶	.....	✽	گانے کی اجرت میں کچھ دینا
۲۸۶	.....	✽	مسجد کے سامنے باجا بجانا
۲۸۸	.....	✽	ورزش کے لیے فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کھیلنا
۲۸۸	.....	✽	فٹ بال وغیرہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟
۲۹۰	.....	✽	اظہارِ مسرت کے لیے تالیاں بجانا
۲۹۱	.....	✽	پتنگ سازی اور پتنگ فروشی جائز ہے یا نہیں؟
۲۹۱	.....	✽	جوا کھیلنا
۲۹۱	.....	✽	نرد شیر اور شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟
۲۹۳	.....	✽	گنجفہ کھیلنا حرام ہے
۲۹۳	.....	✽	جنم اشمی کے دن ہلدی اور دہی کا مخلوط پانی ہندو مسلمان پر ڈال دے تو کیا کرنا چاہیے؟
۲۹۴	.....	✽	فوٹو کھینچنا کیسا ہے؟
۲۹۶	.....	✽	پاسپورٹ اور ویزا کے واسطے فوٹو کھینچنا
۲۹۷	.....	✽	ذی روح کی تصویر کھینچنا، کھینچوانا اور رکھنا
۲۹۸	.....	✽	گروپ فوٹو کھینچنا
۲۹۹	.....	✽	ہاتھ وغیرہ پر تصویر یا نام کندہ کرنا
۲۹۹	.....	✽	ہرن کا چہرہ دیوار پر آویزاں کرنا
۲۹۹	.....	✽	ضرورتِ طبی کے لیے ذی روح کی تصویر بنانے اور رکھنے کا حکم
۳۰۰	.....	✽	بچوں کی آگاہی اور ذہنی نشوونما کے لیے کتب درسیہ میں تصاویر کا اندراج کرنا
۳۰۲	.....	✽	تصویر والی کتب کی خرید و فروخت
۳۰۲	.....	✽	جاندار چیزوں کا مارکہ بنانا جائز نہیں
۳۰۴	.....	✽	قرآن شریف سے اوپر تصویروں کا لٹکانا درست نہیں
۳۰۴	.....	✽	مٹی کے بت فروخت کرنا حرام ہے

- ✽ ..... ۳۰۴ ناچ گانے والی شادی میں شرکت اور دعوت کا حکم
- ✽ ..... ۳۰۵ جاندار کی شکل والے شکر کے کھلونے فروخت کرنا جائز نہیں
- ✽ ..... ۳۰۵ عیدین کی نماز کا اعلان بذریعہ ڈھول کرانا کیسا ہے؟
- ✽ ..... ۳۰۶ آتش بازی، بارود اور دیوالی کے کھلونے بنانے کا حکم
- ✽ ..... ۳۰۶ گانے والی عورتوں کا مدرسہ میں چندہ دینا
- ✽ ..... ۳۰۷ جس گھر میں شکاری یا محافظ کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟

## دوا و علاج کے احکام

- ✽ ..... ۳۰۸ بیماری کا علاج کرانا مسنون ہے
- ✽ ..... ۳۰۹ علاج کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں
- ✽ ..... ۳۰۹ چیچک، طاعون اور حفظ ما تقدم کے لیے ٹیکا لگوانا
- ✽ ..... ۳۱۰ ہومیو پیتھک ادویات کا حکم
- ✽ ..... ۳۱۰ انگریزی ادویہ کا استعمال
- ✽ ..... ۳۱۱ انگریزی ادویہ کا بائیکاٹ
- ✽ ..... ۳۱۱ دوا کی غرض سے مردوں کو مہندی لگانا
- ✽ ..... ۳۱۱ علاج کی غرض سے عورت کا دودھ پینا
- ✽ ..... ۳۱۳ اپنی بیوی کا دودھ پینا حرام ہے
- ✽ ..... ۳۱۴ زوجہ کا دودھ آنکھ میں ڈالنا
- ✽ ..... ۳۱۴ علاج کے لیے بچہ کو گدھی کا دودھ پلانا
- ✽ ..... ۳۱۵ جانور کا پتہ دوا میں ڈالنا
- ✽ ..... ۳۱۶ سانپ کے پھنے میں دوا جلا کر تیار کرنا
- ✽ ..... ۳۱۶ ناپاک چیز کا خارجی استعمال درست ہے یا نہیں؟
- ✽ ..... ۳۱۷ جس مرہم میں خنزیر کی چربی شامل ہے اس کا حکم



- ✽ مینڈک اور جونک وغیرہ کے تیل سے تیار کی ہوئی دوا کا حکم ..... ۳۱۸
- ✽ شیر اور سانڈا کی چربی کا خارجی استعمال ..... ۳۱۸
- ✽ جس دوا میں شراب ملی ہوئی ہو اس کا حکم ..... ۳۱۹
- ✽ مجبوری کی حالت میں دوا کے طور پر شراب استعمال کرنا ..... ۳۲۰
- ✽ زندہ مرغ کا پیٹ چاک کر کے مریض کے سر پر باندھنا ..... ۳۲۰
- ✽ مجبوری میں دوا کے طور پر افیون کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت کا حکم ..... ۳۲۱
- ✽ مجبوری میں مانع حمل دوا استعمال کرنا ..... ۳۲۱
- ✽ پانچ چھ ماہ کا حمل گرانا حرام ہے ..... ۳۲۲
- ✽ ٹوٹا یا گرا ہوا دانت دوبارہ لگوانا ..... ۳۲۳
- ✽ کھوکھلی ڈاڑھ میں مصالحو بھرنا کیسا ہے؟ ..... ۳۲۴
- ✽ پتھر یا ہڈی کا دانت لگانا جائز ہے ..... ۳۲۵
- ✽ عرق کشی سے پہلے دوا اور پانی سے بھرا ہوا مٹی کا گھڑا گھوڑے کی لید میں رکھنا ..... ۳۲۵
- ✽ علاج کی غرض سے چاندی کا تھلا استعمال کرنا ..... ۳۲۶
- ✽ پاخانہ کے کیڑوں کا لعاب آنکھ میں لگانا ..... ۳۲۶
- ✽ تندرستی برقرار رکھنے کے لیے شراب اور برانڈی کا استعمال درست نہیں ..... ۳۲۶
- ✽ فوت شدہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا ..... ۳۲۷
- ✽ بچہ کی نال تجربہ کار سے کٹوانا چاہیے؟ ..... ۳۲۷
- ✽ انسان کی ہڈیوں کو توڑنا اور چیر پھاڑ کر اپنے ہمراہ رکھنا ..... ۳۲۸
- ✽ کشتہ خنثی الحدید کو شراب میں حل کرنا اور خشک ہونے کے بعد اس کو کھانا ..... ۳۲۸
- ✽ طاعون یا ہیضہ سے مرنے والا شہید ہے ..... ۳۲۹
- ✽ تبدیل آب و ہوا کی غرض سے طاعون کی جگہ سے نکلنا؟ ..... ۳۳۰
- ✽ طاعون کی جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو یہ گناہ کس طرح معاف ہو سکتا ہے؟ ..... ۳۳۳
- ✽ طاعون کی ابتدا کب سے ہے؟ اور اس کے دفعیہ کی دعائیں کیا ہیں؟ ..... ۳۳۴

- ۳۳۶ ..... صدقہ، خیرات سے بیماریاں اور بلائیں دفع ہوتی ہیں
- ۳۳۷ ..... طاعون وغیرہ وبائی امراض کے دفعیہ کی چند خود ساختہ تدبیریں اور ان کا شرعی حکم
- جس جگہ طاعون ہو وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اور اطباء کا علاج کے لیے جانا
- ۳۴۱ ..... درست ہے
- ۳۴۲ ..... ضرورت سے طاعون کی جگہ جانا درست ہے
- ۳۴۲ ..... معالج کی غلطی سے مریض مر گیا تو معالج القتل کا مجرم ہوگا یا نہیں؟
- ۳۴۲ ..... طبیب کا امیر و غریب سے فیس لینا
- ۳۴۳ ..... فیس لے کر علاج کرنا
- ۳۴۴ ..... عطار کا بالقصد دوائیں کم دینا
- ۳۴۴ ..... طبیب کے لیے جنازے میں شرکت کرنا ضروری ہے یا مریض کو دیکھنا؟
- ۳۴۴ ..... فائدہ نہ ہونے کے باوجود طبیب سے جو روپیہ ملے ہوا تھا اتنا ہی روپیہ دینا ضروری ہے
- ۳۴۴ ..... جذامیوں سے اختلاط رکھنے والوں سے نفرت کرنا
- ۳۴۵ ..... علاج کے لیے ستر کھولنا اور طبیب کا دیکھنا درست ہے
- ۳۴۵ ..... ڈاکٹر عورت کا پیٹ دیکھ سکتا ہے
- ۳۴۶ ..... نصف بدن دھوپ میں اور نصف سایہ میں رکھنا

## تعویذات اور عملیات کے احکام

- ۳۴۷ ..... کیا عملیات ہر بیماری کے لیے شفا ہیں؟
- ۳۴۷ ..... آیات قرآنی سے عملیات کرنا درست ہے
- ۳۴۸ ..... تعویذ کا جواز ثابت ہے
- ۳۴۹ ..... تعویذ میں قرآنی آیات ہندسوں میں لکھنا جائز و مفید ہے یا نہیں؟
- ۳۴۹ ..... تعویذ دینے کے لیے طبی تجربہ ضروری نہیں
- ۳۵۰ ..... قرآن پڑھ کر دم کرنا اور اس پر اجرت لینا

- ✽ عالم کو بلا کر عمل کرانا اور روپیہ دینا درست ہے یا نہیں؟ ..... ۳۵۱
- ✽ تعویذ کا نذرانہ واپس مانگنا ..... ۳۵۱
- ✽ آیت کے اعداد لکھ کر باندھنا اور پینا کیسا ہے؟ ..... ۳۵۱
- ✽ آیت کے اعداد لکھ کر دفع جن کے لیے جلانا ..... ۳۵۲
- ✽ جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو ہندو کو دینا اور ان پر قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا ..... ۳۵۲
- ✽ فاسق و فاجر سے تعویذ لینا اور تعویذ کے نیچے اپنا نام لکھنا ..... ۳۵۲
- ✽ تعویذ گلے میں ڈال کر بیت الخلاء میں جاسکتے ہیں یا نہیں؟ ..... ۳۵۳
- ✽ ناپاکی کی حالت میں تعویذ پاس میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۳۵۳
- ✽ امساک کے لیے آیات لکھ کر جماع کے وقت ران پر باندھنا ..... ۳۵۳
- ✽ جنات کو آیات کے ذریعہ پکڑنا اور جلانا جائز ہے ..... ۳۵۴
- ✽ آسیب اور جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ..... ۳۵۴
- ✽ کیل پڑھ کر گھر کے گوشوں میں گاڑنا ..... ۳۵۴
- ✽ جنات کا ایذا پہنچانا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ..... ۳۵۵
- ✽ حضرات کا عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ ..... ۳۵۶
- ✽ غیر مسلم سے جھاڑ پھونک کرانا ..... ۳۵۹
- ✽ سفلی عمل کروانا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۳۶۲
- ✽ پادری کے پاس بہ غرض علاج جانا ..... ۳۶۲
- ✽ نظراتارنے کے لیے ٹوٹکا کرنا ..... ۳۶۲
- ✽ نظر بد کا لگنا ثابت ہے ..... ۳۶۳
- ✽ نظر بد لگنا صحیح ہے اور اس کا علاج ..... ۳۶۳
- ✽ دشمن کو زیر کرنے کے لیے ناجائز عمل کرنا ..... ۳۶۴
- ✽ دشمنوں کے شر سے نجات کا مجرب عمل ..... ۳۶۵
- ✽ زبان بندی کا عمل کرنا اور قرآن کریم کی آیتوں کو آمدورفت کے راستہ میں گاڑنا ..... ۳۶۵

۳۶۶	کلام اللہ سے فال لینا.....
۳۶۶	اَلُو کو منحوس سمجھنا غلط ہے.....
۳۶۶	نیک فال لینا درست ہے.....
۳۶۷	چھینک سے نیک فال لینا اور اسے گواہ عادل قرار دینا.....
۳۶۹	کسی کے ٹوکنے یا چھینک دینے پر کام سے رکنا.....
۳۶۹	سحر کی تائید حق ہے.....
۳۷۰	سحر کرنا حرام ہے.....
۳۷۰	سحر کرنے والوں پر سحر کرنا.....
۳۷۰	کاہن اور نجومی سے غیب کی باتیں دریافت کرنا.....
۳۷۱	غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے عمل کرنا.....
۳۷۱	جفر کے قاعدہ سے کوئی امر دریافت کرنا حرام ہے.....
۳۷۲	رافضی کو ہلاک کرنے کے لیے تعویذ کرنا.....
	شداد، ہامان، نمرود، فرعون، قارون کے ناموں کے فلیتے کی دفع بلیات کے
۳۷۲	لیے دھونی دینا.....
۳۷۳	رمضان شریف میں ختم قرآن کے وقت حفاظ سے پانی پڑھوانا.....
۳۷۳	شفائے مریض کے لیے صدقہ کرنا.....
۳۷۴	انگشتی پر آیت قرآنیہ کندہ کرنا.....
۳۷۴	وبادور کرنے کے لیے دودھ اور شراب گلی کو چہ میں بہانا اور منتر پڑھنا.....
۳۷۴	جس مکان کے بارے میں برا خیال ہے اس کو چھوڑنا درست ہے.....
۳۷۵	کسی کو مطیع بنانے کے لیے ناخن کھلانا.....
۳۷۵	چور کی شناخت کے لیے کوئی عمل کرنا.....
۳۷۶	جنون کو دفع کرنے کے لیے منتر پڑھنا.....
۳۷۷	کتا کا ٹٹے کا ایک جائز منتر.....

- ✽ ۳۷۷ ..... مرغ کے خون سے قرآن کریم کی آیت لکھنا
- ✽ ۳۷۸ ..... خاوند سے طلاق لینے کے لیے تعویذ کرانا
- ✽ ۳۷۹ ..... مسمریزم کا حکم

## کفار و مرتدین سے میل جول رکھنے کا بیان

- ✽ ۳۸۰ ..... غیر مسلم کی عیادت جائز ہے
- ✽ ۳۸۰ ..... کفار کی عیادت، تعزیت، خدمت اور غیر مسنون طریقہ پر کفن و دفن کرنا
- ✽ ۳۸۱ ..... کفار کے کفن و دفن میں شریک ہونا اور وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہ کی تفسیر
- ✽ ۳۸۲ ..... مسلمانوں کا ہندوؤں کے مرگھٹ تک جانا
- ✽ ۳۸۲ ..... یہود و نصاریٰ اور مجوس کی میت کے ساتھ قبرستان تک جانا
- ✽ ۳۸۳ ..... قادیانی کو چائے کی پارٹی میں شریک کرنا
- ✽ ۳۸۳ ..... قادیانی سے رشتہ ناتا اور میل جول رکھنا درست نہیں
- ✽ ۳۸۴ ..... جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا
- ✽ ۳۸۴ ..... مرزائیوں سے میل جول رکھنا
- ✽ ۳۸۵ ..... قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور مناکحت کرنا جائز نہیں
- ✽ ۳۹۰ ..... قادیانیوں کے ساتھ مل کر کوئی انجمن قائم کرنا
- ✽ ۳۹۰ ..... قومی اور اسلامی جلسوں میں قادیانیوں کو شریک کرنا
- ✽ ۳۹۰ ..... رافضیوں سے تعلق رکھنے والی عورت سے احتیاط کرنا
- ✽ ۳۹۱ ..... شیعوں کے ساتھ خور و نوش اور میل جول رکھنا
- ✽ ۳۹۲ ..... شیعہ تہرائی سے علیحدگی ضروری ہے
- ✽ ۳۹۳ ..... شیعہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟
- ✽ ۳۹۳ ..... شیعوں کے جلوس کو جائز سمجھنا اور اس کا انتظام کرنا
- ✽ ۳۹۴ ..... مسلمانوں کو ”وندے ماترم“ کہنے سے احتراز کرنا چاہیے



- ۳۹۴ ..... مہاتما گاندھی کی جے پکارنا ❀
- ..... غیر مسلم اللہ کو جن ناموں سے یاد کرتے ہیں مسلمان ان کے جلسوں میں ان ناموں ❀
- ۳۹۴ ..... کو استعمال کر سکتے یا نہیں؟ ..... ❀
- ۳۹۵ ..... جو مسلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اُن سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے ..... ❀
- ۳۹۵ ..... ہنود کی طرح پوجا کرنے والے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ ..... ❀
- ۳۹۶ ..... سکھ اور ہنود کے جلسوں میں تبلیغ اسلام کی غرض سے جانا ..... ❀
- ۳۹۶ ..... ہنود مسجد کے سامنے باجا بجانے پر مصر ہوں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ❀
- ..... جس نے عیسائی عورت سے شادی کر کے مذہب تبدیل کر دیا ہے اس کے ساتھ کیا ❀
- ۳۹۶ ..... برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ❀
- ..... جو مسلمان عیسائی عورت سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اس کے ❀
- ۳۹۷ ..... لیے کیا حکم ہے؟ ..... ❀
- ۳۹۷ ..... ہنود کی مجلس میں جانا ..... ❀
- ۳۹۸ ..... ہنود کے مذہبی امور میں شرکت کرنا ..... ❀
- ۳۹۹ ..... ہنود کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں میں شامل ہونا ..... ❀
- ۴۰۰ ..... دنیاوی مفاد کی غرض سے مشرکین سے ملنا جلنا اور دوستی رکھنا ..... ❀
- ۴۰۰ ..... مرتد سے میل جول رکھنا حرام ہے ..... ❀
- ۴۰۱ ..... ہنود سے اس قدر میل جول رکھنا کہ وہ مذہبی امور میں مذاق کرنے لگیں جائز نہیں .... ❀
- ۴۰۱ ..... تالیفِ قلوب کے لیے شعار کفار میں شرکت کرنا ..... ❀
- ۴۰۲ ..... جلسہ میں ہنود کو صدر بنانا ..... ❀
- ۴۰۲ ..... مجبوری میں رسم رام لیلا کی اجازت دینا ..... ❀
- ۴۰۳ ..... نصاریٰ کے ساتھ ترک موالات کرنا ..... ❀
- ۴۰۳ ..... ہنود کے میلوں میں شریک ہونا اور مذہبی امور میں ان کی اعانت کرنا ..... ❀
- ۴۰۴ ..... دسہرا دیکھنا بڑا گناہ ہے ..... ❀

- ❖ بیماروں کو ہندو سادھو کے پاس برائے شفا لے جانا اور اس کی تعظیم کرنا ..... ۴۰۴
- ❖ ہندو مسلمانوں کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں ویسا ہی برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ..... ۴۰۵
- ❖ بھنگی، چمار کے یہاں کا کھانا کیسا ہے؟ ..... ۴۰۶
- ❖ چمار نے حقہ اٹھایا تو وہ قابل استعمال رہا یا نہیں؟ ..... ۴۰۶
- ❖ جو شخص ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و عائشہؓ کو کافر، منافق اور غاصب قرار دے اور اس کو کافر
- ❖ ثواب سمجھے اس سے دینی و دنیاوی برتاؤ کس حد تک جائز ہے؟ ..... ۴۰۶
- ❖ شریعت، حدیث اور رسول خدا کی شان میں گالیاں بکنے والا مرتد ہے، اس کے
- ❖ ساتھ مرتد جیسا معاملہ کرنا چاہیے ..... ۴۰۹
- ❖ ہندو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ..... ۴۱۰

## فاسق و گمراہ لوگوں سے میل جول رکھنے کا بیان

- ❖ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مالی جرمانہ مقرر کرنا ..... ۴۱۲
- ❖ ایک میراثی کے قصور کی وجہ سے سب میراثیوں کا حقہ پانی بند کرنا ..... ۴۱۳
- ❖ ایک شخص کے قصور کی وجہ سے سارے خاندان سے متارکت کرنا ..... ۴۱۳
- ❖ سودخور سے میل جول رکھنا ..... ۴۱۴
- ❖ بیٹی کو سود خوار باپ کے پاس آنے جانے سے روکنا ..... ۴۱۴
- ❖ بے نمازیوں کا حقہ پانی بند کرنا اور ان کے جنازہ میں شریک نہ ہونا ..... ۴۱۵
- ❖ بے نمازی کی شادی غمی میں بہ غرض تنبیہ شریک نہ ہونا ..... ۴۱۵
- ❖ چماری وغیرہ کو بیوی بنا کر گھر میں رکھنے والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ .... ۴۱۶
- ❖ بے نکاحی عورت رکھنے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟ ..... ۴۱۶
- ❖ جس شخص نے غیر کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ..... ۴۱۸
- ❖ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے والے سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۱۹
- ❖ خالہ سے بدکاری کرنے والے کو برادری سے خارج کرنا ..... ۴۱۹

- ۴۱۹ ..... بھینچی سے زنا کرنے والے سے متارکت کرنا
- ۴۲۰ ..... بہو سے حرام کاری کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۱ ..... برائے زنا کاری اپنی لڑکی کو ہندو کے گھر آباد کرنے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟
- ۴۲۱ ..... دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۲ ..... جن لوگوں نے زنا کاری اور ناچنے گانے کو پیشہ بنا رکھا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۳ ..... بھانجی سے زنا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۳ ..... زانی اور جو نیم ملا زنا کی ترغیب دیتا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۳ ..... حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۵ ..... توبہ کے بعد قطع تعلق کرنا درست نہیں
- ۴۲۶ ..... سوتیلی ماں سے زنا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۶ ..... رشوت لے کر زانی کو برادری میں شامل کرنا
- ۴۲۷ ..... جو لوگ اپنے گھروں میں زنا کاری کراتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۷ ..... جس کی بیوی خاکروب کے ساتھ بھاگی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۲۷ ..... شوہر بیوی کو زنا کاری سے نہ روکے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
- ۴۲۸ ..... بھاگی ہوئی زنا کاری بیوی کو توبہ کرا کے رکھنے والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟
- ۴۲۸ ..... بھنگی سے ناجائز تعلق رکھنے والی عورت اور اس کے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟
- ۴۲۹ ..... چمار کے ساتھ فرار ہونے والی عورت کی اولاد کی شادی برادری میں کرنا کیسا ہے؟
- ۴۲۹ ..... توبہ کے بعد چمار کے ساتھ بھاگی ہوئی عورت اور اس کے شوہر کو شریک برادری کرنا
- ۴۳۰ ..... جس کو برادری سے علیحدہ کر دیا ہے وہ توبہ پر آمادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
- ..... جو شخص چچا زاد بھائی کی بیوی کو بھگا کر لے گیا اور کافروں کے سپرد کردی اس کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۳۰ ..... زانی اور اس کی حمایت کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟
- ۴۳۱ ..... بدچلن بیوی کو طلاق نہ دینے کی وجہ سے حقہ پانی بند کرنا

- ❖ فرقِ باطلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کھانا پینا ..... ۴۳۱
- ❖ لاہوری جماعت کے کسی فرد کو صدر بنانا کیسا ہے؟ ..... ۴۳۲
- ❖ انگریزوں کا باورچی سو رکاوٹ پکاتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ .. ۴۳۲
- ❖ خنزیر کا ٹھیکا لینے والے سے میل جول ترک کرنا ضروری ہے ..... ۴۳۲
- ❖ منشیات کے ٹھیکے دار کو مقتدا بنانا ..... ۴۳۳
- ❖ شراب و سور فروخت کرنے والے سے میل جول رکھنا ..... ۴۳۳
- ❖ شرابی کے ساتھ کھانے پینے سے احتراز کرنا ..... ۴۳۳
- ❖ جو بے نمازی رمضان میں بھی افطار کے بعد شراب پیتا ہے اس سے قطع تعلق ضروری ہے ۴۳۴
- ❖ جو مسلمان توبہ کے بعد شراب پیتا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۴۳۴
- ❖ سمجھانے کے باوجود شراب کے ٹھیکہ دار باز نہ آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۴۳۵
- ❖ تازی پینے والے اور ڈاڑھی منڈانے والے سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ ..... ۴۳۶
- ❖ جو شخص شراب کو جائز کہتا ہے اس کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟ ..... ۴۳۶
- ❖ بھائی سے رشوت خوری کی بنا پر قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ..... ۴۳۶
- ❖ بیٹا سنی ہے اور باپ قادیانی؛ تو بیٹے کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ .... ۴۳۷
- ❖ مسلمان سے ترکِ موالات کرنا ..... ۴۳۷
- ❖ جو لوگ تبلیغ اسلام میں حارج ہیں ان سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۳۸
- ❖ گستاخ رسول و گستاخ ازواجِ مطہرات سے ترکِ مجالست ..... ۴۳۸
- ❖ آلِ نبی اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والے سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے ..... ۴۳۹
- ❖ جو شخص علماء کو گالیاں دیتا ہے اور بدعتی ہے اس سے میل جول رکھنا ..... ۴۳۹
- ❖ جو شخص جمعیۃ العلماء سندھ پر سرکار کے خلاف تحریک چلانے کا الزام لگاتا ہے اس سے میل جول رکھنا ..... ۴۴۰
- ❖ جو شخص مسلمانوں کی قائم کردہ تنظیم پر غلط الزام لگاتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۴۰

- ✽ جو شخص خلافت کی مخالفت کرتا ہے یا مخالفت کرنے والوں کی تائید کرتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۴۱
- ✽ جو شخص امن سبھایا کو نسل کا ممبر ہے اور نصاریٰ کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۴۱
- ✽ جو شخص اسلام کا مخالف ہے اس سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۴۱
- ✽ زکاۃ ادا نہ کرنے والے سے میل جول رکھنا ..... ۴۴۲
- ✽ سود خور اور زکاۃ نہ دینے والے سے میل ملاپ درست نہیں ..... ۴۴۲
- ✽ اس زمانہ کے غیر مقلدین سے میل جول ترک کرنا چاہیے ..... ۴۴۲
- ✽ علمائے اہل سنت سے بغض رکھنا اور غیر مقلدین سے ربط و ضبط رکھنا ..... ۴۴۳
- ✽ غیر مقلد کا وعظ سننا ..... ۴۴۳
- ✽ جو شخص شعائر اسلام (گاؤ کشی) کے انسداد میں کوشاں ہے اس سے قطع تعلق کرنا ..... ۴۴۳
- ✽ ہم وطنوں کی رعایت میں گائے کی قربانی نہ کرنا اور جو کرے اس سے عداوت رکھنا ..... ۴۴۵
- ✽ جو شخص مسجد کی تعمیر رکوانے میں کفار کی حمایت کرتا ہے اس سے متارکت کرنا ..... ۴۴۶
- ✽ بد باطن اور مفسد سے علیحدہ رہنا چاہیے ..... ۴۴۷
- ✽ ڈھول بجانے والے، بچہ کی ناف کاٹنے والے اور نو مسلم بھنگی کے ساتھ سلوک کرنا ..... ۴۴۷
- ✽ جس شخص کی شادی میں منکرات ہوں اس میں شرکت کرنا ..... ۴۴۷
- ✽ جو مسلمان لڑکا ایک عرصہ ہندوؤں میں رہا اور سور کا گوشت کھاتا رہا اس کو اپنی جماعت میں ملانا ..... ۴۴۸
- ✽ سنی شیعہ ہو گیا پھر سنی مذہب اختیار کر لیا تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۴۴۹
- ✽ گاؤں کی اکثریت بد دین ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۴۴۹
- ✽ فاسق و مبتدع کو نکاح خوانی کے عہدہ سے معزول کرنا ..... ۴۴۹
- ✽ جو شخص اپنے آپ کو بد دین کہتا ہے اس سے میل جول رکھنا ..... ۴۵۰
- ✽ جو بے نمازی اذان کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ ..... ۴۵۰

- ۴۵۰ ..... بے نمازی کی دعوت اور بیاہ شادی میں شریک ہونا
- ۴۵۱ ..... بے نمازی دھوبیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟
- ۴۵۱ ..... جو شخص نماز کے بارے میں نازیبا بات کہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے
- ۴۵۱ ..... جس شخص کا حال مشتبہ ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے
- ۴۵۲ ..... طلاق کی وجہ سے شوہر کی بستی والوں کا حقہ پانی بند کرنا
- ۴۵۲ ..... احکام شرع سے ناواقف دہقانوں سے میل جول رکھنا
- ..... جو امام سرکاری ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مخبری کرتا ہے اس سے میل جول رکھنا
- ۴۵۳ ..... دھوکے باز سے میل جول رکھنا
- ۴۵۴ ..... جس شخص کو جماعت سے خارج کر دیا ہے اس کو مسجد سے روکنا درست نہیں
- ۴۵۵ ..... جو شخص بچے کو مسجد میں لایا اس کو شیطان کہہ کر مسجد سے نکال دینا
- ۴۵۶ ..... جو شخص اپنی بہنوں کا نکاح کرنے سے انکار کرتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا
- ۴۵۶ ..... پچھلی باتوں کا خیال کر کے متارکت کرنا درست نہیں
- ۴۵۷ ..... فاسق معلن سے کنارہ کشی بہتر ہے
- ۴۵۷ ..... لوگوں کی حق تلفی کرنے والے سے میل جول رکھنا
- ..... عاشق نے معشوقہ کی لڑکی کو جو جائداد دی ہے وہ حلال ہے اور اس کی شادی غمی میں شرکت کرنا جائز ہے
- ۴۵۸ ..... جو پورپین طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے وہ انجمن اسلامیہ کا صدر ہو سکتا ہے؟
- ۴۵۸ ..... جو اپنے استاذ کو گالیاں دیتا ہے اس سے میل جول رکھنا
- ۴۵۹ ..... جو شخص پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس سے مقاطعت کرنا
- ۴۵۹ ..... نابالغ کا حقہ پانی بند کرنا ظلم ہے
- ۴۶۰ ..... خوف ضرر کی وجہ سے قطع تعلق کرنا

- ✽ جو لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں مگر مسلمانوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۴۶۰
- ✽ جس نے گناہ سے توبہ کر لی اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے ..... ۴۶۱
- ✽ بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کا مطلب ..... ۴۶۲

## جن ذاتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے اُن سے میل جول رکھنے کا بیان

- ✽ ذاتیں اور خاندان محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں ..... ۴۶۳
- ✽ مسلمان دھوبی کو کمتر سمجھ کر امتیازی معاملہ کرنا ..... ۴۶۳
- ✽ جاگیرداروں کا دوسری قوموں پر فخر کرنا ..... ۴۶۴
- ✽ مسلمان بھنگی سے نفرت کرنا ..... ۴۶۵
- ✽ جو نو مسلمہ شرک کی باتیں کرتی ہو اس کا حقہ پانی بند کرنا ..... ۴۶۵
- ✽ اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا رسوم جاہلیت سے ہے ..... ۴۶۶
- ✽ بے نمازی سید سے نمازی غیر سید افضل ہے ..... ۴۶۷

## نومسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کا بیان

- ✽ نو مسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۴۶۸
- ✽ نو مسلم کو حقیر و ذلیل سمجھنا اور اس کا بایکاٹ کرنا ..... ۴۶۸
- ✽ نو مسلم کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے ..... ۴۷۰
- ✽ چمار وغیرہ چھوٹی قوم مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۴۷۰
- ✽ نو مسلمہ سے شادی کرنے پر جرمانہ مقرر کرنا ..... ۴۷۲
- ✽ رذیل قوم کے قبول اسلام پر اظہار نفرت کرنا ..... ۴۷۲

- ✽ چماری کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرنے والے کو برادری سے خارج کرنا ..... ۴۷۲
- ✽ جس نے نصرانیہ کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا ہے اس سے میل جول ترک کرنا درست نہیں ..... ۴۷۳

## میاں بیوی کے حقوق و احکام

- ✽ عورتوں کی ناشکری اور کفرانِ نعمت ..... ۴۷۴
- ✽ عورت پر شوہر کی اطاعت تمام رشتہ داروں کی اطاعت سے مقدم ہے ..... ۴۷۶
- ✽ میاں بیوی کے حقوق اور گناہ کے کاموں میں شوہر کی اطاعت نہ کرنا ..... ۴۷۶
- ✽ عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو عند اللہ ماخوذ ہوگی ..... ۴۷۷
- ✽ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ..... ۴۷۸
- ✽ دیانۃ عورت پر امور خانہ داری کا انتظام لازم ہے ..... ۴۷۸
- ✽ فاجرہ عورت کو طلاق دینا شوہر پر واجب نہیں ..... ۴۷۹
- ✽ جو عورت شوہر کا کہنا نہیں مانتی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ..... ۴۷۹
- ✽ فاحشہ اور آوارہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ..... ۴۸۰
- ✽ بدچلن بیوی کو قتل کر دینا ناقابلِ عفو جرم ہے ..... ۴۸۰
- ✽ شرابی شوہر کو اس کی جائداد سے بے دخل کرنا ..... ۴۸۱
- ✽ بیوی کو کہاں رکھنا چاہیے؟ ..... ۴۸۲
- ✽ جو عورت اپنے ماں باپ کے یہاں ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی رشتہ دار کے یہاں جاسکتی ہے یا نہیں؟ ..... ۴۸۳
- ✽ شوہر کی اجازت کے بغیر بھائی کی شادی میں جانا ..... ۴۸۳
- ✽ شوہر، بیوی کو اپنے وطن لے جاسکتا ہے یا نہیں؟ ..... ۴۸۴
- ✽ منع کرنے کے باوجود عورت کا کسی تقریب میں شریک ہونا ..... ۴۸۴
- ✽ عورت کو کتنی مدت کے بعد میکے جانا اور واپس آنا چاہیے؟ ..... ۴۸۴
- ✽ فتنہ کا اندیشہ ہو تو زوجہ کو میکے نہ بھیجنا جائز ہے ..... ۴۸۵



- ❖ بیوی کو اس کے والدین سے ملنے کے لیے نہ جانے دینا ..... ۴۸۵
- ❖ عورت کا شوہر سے لڑکر میکے چلا جانا اور باپ کا اپنی بیٹی کو سہارا دینا ..... ۴۸۷
- ❖ عورت میکے میں پردہ نہ کرتی ہو تو شوہر بیوی کو وہاں جانے سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ ..... ۴۸۷
- ❖ شوہر کے کہنے کے باوجود بیوی پردہ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ ..... ۴۸۸
- ❖ بیوی کو اس کے خالو سے پردہ کرنے کا حکم دینا ..... ۴۸۸
- ❖ لحاف وغیرہ میں ننگا سونا اور حالت جماع میں باتیں کرنا ..... ۴۸۸
- ❖ زوجین کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا ..... ۴۸۸
- ❖ حاملہ عورت سے وطی کرنا ..... ۴۸۹
- ❖ بے نمازی بیوی سے صحبت کرنا ..... ۴۹۰
- ❖ شوہر کو ”مولوی صاحب“ یا ”ملا جی“ کہہ کر پکارنا ..... ۴۹۰
- ❖ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا ..... ۴۹۰
- ❖ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز دینا ..... ۴۹۰
- ❖ دو بیویوں کے درمیان زیورات میں عدل و انصاف کرنے کی وضاحت ..... ۴۹۱
- ❖ میاں بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ ..... ۴۹۱
- ❖ شوہر کو اس کے گھر میں آنے سے روکنا ..... ۴۹۲
- ❖ بیوی کو زنا پر مجبور کرنا ..... ۴۹۲
- ❖ آخرت میں بیوی آخری شوہر کو ملے گی ..... ۴۹۲
- ❖ شوہر کی اجازت سے منکوحہ عورت زچہ کی خدمت کر سکتی ہے ..... ۴۹۳
- ❖ تنبیہ کے لیے چند دن صحبت ترک کرنا جائز ہے ..... ۴۹۴
- ❖ بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے شوہر زنا کرے تو گناہ کس پر ہوگا؟ ..... ۴۹۴
- ❖ غیر کے ساتھ بھاگی ہوئی عورت کو شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ..... ۴۹۴
- ❖ روشنی کر کے بیوی سے صحبت کرنا ..... ۴۹۴
- ❖ شوہر کی نافرمانی کرنے پر بیوی کو سزا دینا ..... ۴۹۵

- ❖ ۴۹۵ ..... دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی کے حقوق ساقط نہیں ہوتے
- ❖ ۴۹۵ ..... اپنی بیوی کا زیور چھین لینا درست نہیں
- ❖ ۴۹۶ ..... سسرال میں رہنے کی شرط پر نکاح کرنا اور شرط کو پورا نہ کرنا
- ❖ ۴۹۶ ..... بیوی کو باپ کے ترکہ میں سے اپنا حصہ لانے پر مجبور کرنا
- ❖ ۴۹۷ ..... میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر پکارنا
- ❖ ۴۹۷ ..... بیوی شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو بیوی کی ماں روک نہیں سکتی

## ماں باپ اور اولاد کے حقوق و احکام

- ❖ ۴۹۹ ..... باپ کی بیوی حقیقی ماں نہیں
- ❖ ۴۹۹ ..... دُنیا کے کاموں میں بھی والدین کی اطاعت فرض ہے
- ❖ ۵۰۱ ..... ماں باپ اور اولاد کے حقوق کیا ہیں؟
- ❖ ۵۰۱ ..... ماں باپ کے حقوق بیٹا اور بیٹی پر یکساں واجب ہیں
- ❖ ۵۰۱ ..... ماں باپ کے ساتھ ادنیٰ گستاخی اور بے ادبی بھی روا نہیں
- ❖ ۵۰۲ ..... جو بیٹے باپ کو مارتے اور گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟
- ❖ ۵۰۳ ..... ماں باپ کو گالی دینا اور مارنا حرام ہے
- ❖ ۵۰۴ ..... محتاج والدین کا نفقہ اولاد پر واجب ہے
- ❖ ۵۰۴ ..... باپ کی امداد نفل عبادت سے افضل ہے
- ❖ ۵۰۵ ..... باپ جس کام کا حکم دیتا ہے ماں اس سے منع کرتی ہے تو اولاد کس کی اطاعت کرے؟
- ❖ ۵۰۶ ..... باپ سے میل جول رکھنے پر ماں ناراض ہوتی ہے تو بیٹا کیا کرے؟
- ❖ ۵۰۶ ..... باپ جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے بیٹا اس کے کرنے سے عاجز ہے تو کیا کرے؟
- ❖ ۵۰۶ ..... باپ بیٹے کو تکلیف پہنچاتا ہے تب بھی باپ کی اطاعت کرنا چاہیے
- ❖ ۵۰۷ ..... ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا استاذ کا؟
- ❖ ۵۰۸ ..... ماں باپ کی خدمت مقدم ہے یا استاذ و پیر کی؟

- ❖ کیا پیر کے حقوق والدین سے زیادہ ہیں؟ ..... ۵۰۸
- ❖ بھائی بہن سے ماں باپ کا درجہ بلند ہے ..... ۵۰۸
- ❖ جو بیٹا ماں کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو ایذا دیتا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا ..... ۵۰۸
- ❖ بیٹے نے باپ پر زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ..... ۵۰۹
- ❖ والدین ناراض فوت ہوئے ہوں تو معافی کی کیا صورت ہے؟ ..... ۵۱۰
- ❖ والدہ سے دودھ بخشوانا ..... ۵۱۰
- ❖ باپ بیٹے کا قصور معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے ..... ۵۱۰
- ❖ شادی کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق باقی رہتے ہیں ..... ۵۱۱
- ❖ شادی کے بعد عورت ماں باپ کی اطاعت کرے یا شوہر کی؟ ..... ۵۱۱
- ❖ خلاف شرع امور میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ..... ۵۱۲
- ❖ باپ زانی ہو پھر بھی جائز امور میں اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے ..... ۵۱۲
- ❖ فاسق باپ کے ساتھ اولاد کو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ..... ۵۱۲
- ❖ باپ نے بیٹے کی پرورش نہ کی ہو تب بھی باپ کی اطاعت فرض ہے ..... ۵۱۳
- ❖ ماں نماز نہ پڑھتی ہو تب بھی خدمت کرنا ضروری ہے ..... ۵۱۳
- ❖ باپ کی خوشنودی کے لیے رافضی سے میل جول رکھنا جائز نہیں ..... ۵۱۴
- ❖ ماں باپ: نانا، نانی یا خالو سے قطع تعلق پر مجبور کریں تو کیا حکم ہے؟ ..... ۵۱۴
- ❖ ماں باپ اور بڑا بھائی زکاۃ ادا کرنے سے روکیں تو کیا حکم ہے؟ ..... ۵۱۴
- ❖ ماں نے بڑے بیٹے کو مکان سے نکال دیا تو کیا حکم ہے؟ ..... ۵۱۵
- ❖ بیٹے کا باپ کی اطاعت و خدمت سے انحراف کرنا اور باپ کا بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا ..... ۵۱۶
- ❖ اولاد کو عاق کرنا درست نہیں ..... ۵۱۶
- ❖ جو اولاد ماں باپ سے کلام ترک کر دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ..... ۵۱۷
- ❖ نافرمان اولاد کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ ..... ۵۱۸

- ✽ نافرمان اولاد سے قطع تعلق کرنا درست ہے ..... ۵۱۹
- ✽ بیٹے کو گھر سے نکال دینا اور نان و نفقہ بند کر دینا ..... ۵۱۹
- ✽ والدین کو بالغ اولاد سے جبراً خدمت لینا درست ہے ..... ۵۲۰
- ✽ ماں باپ کے کہنے پر بے قصور بیوی کو طلاق دینا ..... ۵۲۰
- ✽ ساس اور بہو میں نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۵۲۲
- ✽ نادار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب نہیں ..... ۵۲۲
- ✽ والدین اجازت نہ دیں تب بھی بہ قدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ضروری ہے ..... ۵۲۲
- ✽ ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی بچوں کے ضائع ہونے کی صورت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ..... ۵۲۳
- ✽ باپ پر دعویٰ کرنا اور نالاش کرنا روا نہیں ..... ۵۲۳
- ✽ ہارے ہوئے مکان کو چھڑانے اور جوا کے لیے باپ کو روپیہ دینا ..... ۵۲۵
- ✽ ماں شادی سے ناراض ہو تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۵۲۵
- ✽ کیا بہو پر ساس کی اطاعت اور خدمت فرض ہے؟ ..... ۵۲۶
- ✽ شوہر بیوی کو ساس کی خدمت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ..... ۵۲۷
- ✽ برادری نے بلا وجہ ماں کو برادری سے علیحدہ کر دیا ہو تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۵۲۷
- ✽ ماں نے بیٹوں کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیا تو بیٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ..... ۵۲۷
- ✽ جس شخص نے ایک بیوہ عورت سے عشق و محبت کی وجہ سے نکاح کیا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ..... ۵۲۸
- ✽ باپ دینی تعلیم دینے اور تراویح میں قرآن سنانے سے روکتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟ ..... ۵۲۸
- ✽ باپ مشترک تجارت میں کوئی کام خلاف شرع کرتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟ ..... ۵۲۹
- ✽ باپ کو بدون اجازت بیٹے کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ..... ۵۲۹
- ✽ باپ بیٹوں کا مکان جبراً نہیں لے سکتا ..... ۵۲۹
- ✽ والدین کا سودی قرض ادا کرنے کے لیے اولاد سے رقم طلب کرنا ..... ۵۳۰

- ۵۳۰ ..... والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا ❁
- ۵۳۰ ..... بھائی کی اولاد فرع نہیں ہے ..... ❁
- ۵۳۱ ..... بزرگوں کو قبلہ و کعبہ وغیرہ لکھنا ..... ❁

## یتیموں کے حقوق و احکام

- ۵۳۲ ..... یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ..... ❁
- ۵۳۲ ..... یتیم بچے کا نفقہ دادا کے ذمے ہے یا والدہ کے؟ ..... ❁
- ۵۳۲ ..... نابالغوں کے مال کا ولی کون ہے؟ ..... ❁
- ۵۳۴ ..... غیرولی یتیم کی جائیداد فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ..... ❁
- ۵۳۵ ..... ثمنِ مثل لے کر یتیم کی زمین مسجد میں دینا ..... ❁
- ۵۳۵ ..... یتیم بچوں کے مال سے مدرسہ جاری رکھنا ..... ❁
- ۵۳۵ ..... یتیموں کی روٹی یا کوئی چیز کھانی جائز ہے یا نہیں؟ ..... ❁
- ۵۳۶ ..... یتیم کی ماں کا تحفہ اور دعوت قبول کرنا ..... ❁
- ۵۳۶ ..... یتیم کے مال میں سے کسی کو کھانا دینا اور خیرات کرنا ..... ❁
- ۵۳۶ ..... یتیم کی تعلیم کے اخراجات اس کے مال سے وصول کرنا ..... ❁
- ۵۳۷ ..... یتیم کو اس کا مال کب سپرد کیا جائے؟ ..... ❁
- ۵۳۷ ..... یتیم کا مال تجارت میں لگانا یا سرمایہ کے بغیر اپنی تجارت میں یتیم کو شریک کرنا .... ❁
- ۵۳۸ ..... یتیموں کا مال تجارت میں لگا ہوا ہو تو کیا کرے؟ ..... ❁
- ۵۳۸ ..... یتیم خانہ کے نام سے کیا ہوا چندہ دیگر مصارف میں صرف کرنا ..... ❁
- ۵۳۹ ..... یتیم کا مال جو استعمال کیے بغیر خراب ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ..... ❁


## احباب و اقرباء کے حقوق و احکام

- ۵۴۰ ..... چچا کے برے افعال ظاہر کرنا بے ادبی نہیں ❁
- ۵۴۰ ..... باہمی رنجش کی وجہ سے سلام و کلام ترک کرنا ❁
- ۵۴۱ ..... باہمی رنجش ختم کر کے صلہ رحمی کرنا بہتر ہے ❁
- ۵۴۱ ..... قصور معاف کر کے باہمی رنجش کو ختم کرنے میں بہت ثواب ہے ❁
- ۵۴۲ ..... بہنوئی کے جرم کی وجہ سے بہن سے قطع رحمی کرنا درست نہیں ❁
- ۵۴۲ ..... بڑے بھائی کو مارنا اور ان کے ساتھ گستاخی کرنا سخت گناہ اور ظلم ہے ❁
- جن رشتہ داروں کی شادیوں میں منکر باتیں ہوتی ہیں ان سے تعلقات قطع کرنے میں ❁
- ۵۴۳ ..... جلدی نہ کرنی چاہیے ❁
- ۵۴۳ ..... اہل علم کے فعل کو کبر و غرور پر محمول کرنا مناسب نہیں ❁
- ۵۴۴ ..... خلاف شرع معاہدہ کی پابندی جائز نہیں ❁
- ۵۴۴ ..... عرصہ دراز تک بہن اپنا حصہ طلب نہ کرے تو اس کا حق ساقط نہیں ہوتا ❁
- ۵۴۵ ..... کسی کی جائیداد جبراً ادا بالینا ❁
- ۵۴۵ ..... دفع فساد کے لیے کسی کا حق دبا دینا ❁
- ۵۴۶ ..... سرال، ہمسایہ اور محلّہ والوں کے حقوق کیا ہیں؟ ❁
- ۵۴۶ ..... پڑوسی کی دیوار میں کھوئی گاڑنا ❁

## اسماء و القاب کے احکام

- ۵۴۷ ..... ساتویں دن عقیقہ ہو تو عقیقہ کے دن نام رکھنا مستحب ہے ❁
- ۵۴۷ ..... بچہ نام رکھنے سے پہلے مر جائے تو کیا حکم ہے؟ ❁
- ۵۴۷ ..... منظور الحسن نام رکھنا ❁
- ۵۴۸ ..... مخزن الرشید نام رکھنا ❁

۵۴۸	محمد بخش، میر بخش، رسول بخش اور عبدالرسول نام رکھنا
۵۴۸	ارشاد احمد، رشاد احمد، مشہود احمد اور فضل الرحمن نام رکھنا
۵۴۹	محمد نبی یا سبط نبی نام رکھنا
۵۴۹	غلام مرتضیٰ، غلام رسول اور غلام علی نام رکھنا
۵۴۹	نبی بخش، سالار بخش، اور رسول بخش نام رکھنا
۵۵۰	محمد نبی، احمد نبی اور عبدالنبی، عبدالرسول اور عبدالمصطفیٰ نام رکھنا
۵۵۰	مناف یا عبد مناف نام رکھنا
۵۵۱	جس کا نام عبدالرزاق، عبدالخالق ہے اس کو رزاق، خالق کہہ کر پکارنا
۵۵۱	کسی کو برے لقب سے پکارنا



## آگاہی

اس جلد میں جن کتابوں کے حوالے بار بار آئے ہیں وہ درج ذیل کتب خانوں کی مطبوعات ہیں

اسمائے کتب	مطبوعہ
صحاح ستہ	مکتبہ بلال دیوبند
موطین	مکتبہ بلال دیوبند
شرح معانی الآثار	مکتبہ بلال دیوبند
مشکوٰۃ شریف	کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
ہدایہ	الامین کتابستان دیوبند
فتاویٰ شامی	دارالکتب دیوبند
فتاویٰ ہندیہ	دارالکتب دیوبند
بدائع الصنائع	دارالکتب دیوبند
شرح وقایہ	دارالکتب دیوبند
حلبی کبیری	دارالکتب دیوبند
طحطاوی علی مرآۃ الفلاح	دارالکتب دیوبند
البحر الرائق	زکریا بک ڈپو دیوبند
قواعد الفقہ	اشرفی بک ڈپو دیوبند
مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح	مکتبہ امدادیہ، ملتان، پاکستان



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## کتاب الحظر والإباحة

### مکروہ اور مباح امور کا بیان

#### کھانے پینے اور ضیافت کے احکام

کھانا شروع کرتے وقت بِسْمِ اللّٰہ پڑھنا

بھول گیا تو درمیان میں کونسی دعا پڑھے؟

سوال: (۱) کھانے کے شروع میں اگر بِسْمِ اللّٰہ کہنا بھول گیا تو پھر درمیان میں کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۸۰۵ھ)

الجواب: حدیث شریف میں وارد ہے کہ کھانے کے شروع کے وقت اگر کوئی شخص بِسْمِ اللّٰہ کہنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اس طرح کہہ لیوے: بِسْمِ اللّٰہِ اَوَّلَہُ وَاٰخِرَہُ (۱) اس کہنے سے وہی ثواب و برکت حاصل ہو جائے گی جو اول پڑھنے میں ہے۔

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فأنسى أن يذكر الله على طعامه، فليقل: بسم الله أوله وآخره، رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة المصابيح، ص: ۳۶۵، كتاب الأطعمة، الفصل الثاني)

## ”کھانا کھالو“ کے جواب میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کرو“ کہنا

سوال: (۲) اگر کھاتے وقت کوئی شخص آوے اور اس کو یہ کہا جاوے کہ کھانا کھالو، اور وہ جواب میں کہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ کرو، تو یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ سنا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ کرو کہنا کفر ہے۔  
(۱۳۴۱/۳۷۱ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ کہہ کر کھانا شروع کرو، اور کفر اور گناہ کہنا غلط ہے۔ فقط

## بلا عذر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا خلاف سنت ہے

سوال: (۳) بائیں ہاتھ سے کھانا اور خیرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۱۵۹۷ھ)  
الجواب: بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا بلا عذر خلاف سنت ہے (۱) اور صدقہ کرنا داہنے ہاتھ سے بہتر ہے (۲) اور بائیں ہاتھ سے بھی درست ہے۔ فقط

## کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے؟

سوال: (۴) بکر پالتی مار کر کھانا کھاتا تھا، زید نے بکر سے کہا: پالتی مار کر کھانا منع ہے۔  
(۱۳۳۸/۱۰۷۲ھ)

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، رواه مسلم .

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يأكلن أحدكم بشماله ، ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ۳۶۳، كتاب الأطعمة ، الفصل الأول)

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يُظْلَمُ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ..... ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الحديث (صحيح البخاري: ۱/ ۹۱، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد)

الجواب: شرح شرعہ الاسلام میں ہے کہ کھانے کے وقت تکیہ لگا کر نہ بیٹھے، کیونکہ تکیہ لگا کر کھانے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے (۱) اور چہار زانوں بیٹھنا بھی بلا ضرورت اچھا نہیں ہے، اور بہ ضرورت درست ہے، بلکہ مستحب اور موافق طریقہ سنت یہ ہے کہ کھانے کے وقت دو زانوں بیٹھے (۲) یا اکڑوں بیٹھے (۳) یا دائیں پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پیر پر بیٹھے (۴) یہ صورتیں درست ہیں اور حضرت ﷺ سے ثابت ہیں (۵)

(۱) عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل مُتَكِنًا (جامع الترمذي: ۵/۲، أبواب الأطعمة - باب ما جاء في كراهية الأكل مُتَكِنًا) (۲) دوزانوں یعنی گھٹنوں کے بل جیسے نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں — اکڑوں بیٹھنا: تلوں کے بل اس طرح بیٹھنا کہ گھٹنے کھڑے رہیں ۱۲۔ سعید احمد پالن پوری (۳) اکڑوں بیٹھ کر کھانا مسنون نہیں۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں حضور اقدس ﷺ کا اکڑوں بیٹھ کر کھانا ثابت ہو ..... لہذا یہ جو مشہور ہے کہ ”اکڑوں بیٹھ کر کھانا سنت ہے“ یہ درست نہیں (اصلاحی خطبات: ۱۸۵/۵)

اور غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ غیر اہل لسان اردو بولنے والے ”اکڑوں“ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پیر پر بیٹھے، حالانکہ یہ اکڑوں بیٹھنا نہیں ہے۔ ۱۲۔ سعید احمد پالن پوری (۴) علامہ ابن قیم نے اس طریقے کو افضل و نفع اور مسنون کہا ہے:

قال ابن القَيِّم: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوكأ على ركبته ويضع بطن قدمه اليسرى تواضعاً لله عز وجل وأدبا بين يديه. قال: وهذه الهيئة أنفع هيآت الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عليه (مرواة المفاتيح: ۱۶۴/۸، كتاب الأطعمة، الفصل الأول)

(۵) ويجلس على الطعام جلسة المتواضعين بحيث (لا يتكى) على شيء وإن كان على إحدى يديه (ولا يضطجع) على جنبه (ولا يعتمد على شيء) أي بحيث لا يسند ظهره إلى شيء ولا يقعد على وجه التمكن من الأرض والاستواء جالساً على هيئة التربع، بل السنة فيه أن يقعد عند الأكل مائلاً إلى الطعام منحنيًا نحوه كذا نقله شارح المصابيح عن الخطابي (ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى نصبا) — كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (شرح شرعہ الإسلام، ص: ۲۴۴، فصل في سنن الأكل والشرب)

### چار پائی پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے

سوال: (۵) آنحضرت ﷺ نے کبھی چار پائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۸۶) الجواب: چار پائیوں کا اس زمانہ میں دستور نہ تھا، اب بھی عرب میں اس کا رواج نہیں ہے، زمین یا تخت پر بستر گدے تکیہ ہوتے ہیں، اسی پر بیٹھتے سوتے ہیں، اس لیے ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چار پائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہو، لیکن اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لہذا اس کے جواز میں کچھ تردد اور شبہ نہیں ہے جیسا کہ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے جواز میں کچھ شبہ نہیں ہے، ویسا ہی چار پائی پر بھی کچھ شبہ نہیں ہے۔ فقط

### کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کپڑے سے خشک کرنا

سوال: (۶) طعام کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کپڑے سے خشک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۰۶۶)

الجواب: کھانے سے پہلے جو ہاتھوں کا دھونا مستحب لکھا ہے اس کے متعلق شرح شرعۃ الاسلام میں یہ ہے کہ ہاتھوں کو رومال سے نہ خشک کرے، عبارت اس کی یہ ہے: (ومن سنن الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام لنفي الفقر) الخ لكن الأدب ..... أن لا يمسح يده بالمندبل ليكون أثر الغسل باقياً وقت الأكل الخ (۱) فقط

### کھانے کے بعد کلی کرنا اور خلل کرنا

سوال: (۷) ایک شخص حدیث کا مضمون بتلاتا ہے کہ جس نے کھانا کھا کر خلل نہ کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر خلل کر کے کلی نہ کی تو حضور اکرم ﷺ پر ظلم کیا، آیا وہ شخص گنہ گار ہوا یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۷۳۳)

الجواب: کھانا کھا کر کلی کرنا اور اگر دانتوں میں ریشہ وغیرہ ہو تو خلل کرنا مستحب ہے، لیکن

(۱) شرح شرعۃ الإسلام، ص: ۲۴۷، فصل في سنن الأكل والشرب .

اگر کلی یا خلل نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہے، اور یہ حدیث جو سوال میں مذکور ہے حدیث نہیں ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔

### جوتا پہن کر کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۸) جوتا پہنے ہوئے روٹی کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۶۷۴)

الجواب: درست ہے (۱) فقط

### کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرنا

سوال: (۹) کھانا کھانے کی ابتدا نمک کھانے سے کرنے کو اور ختم طعام نمک کھانے سے کرنے کو اکثر کتب متداولہ معتبرہ میں من جملہ آداب و سنن طعام لکھا ہے، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، درر المنتقی، عین العلم، رد المحتار، فتاویٰ ہندیہ وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے، مگر ایک شخص اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ثبوت اس کا قول یا فعل رسول اللہ ﷺ سے یا کسی صحابی کے قول یا فعل سے نہ ملے، محض فقہائے حنفیہ و بعض صوفیہ کے لکھنے پر اس کا ادب و مستحب ہونا قابل تسلیم و وثوق نہیں۔ (۱۳۳۳ھ-۳۲/۱۶۲۴)

الجواب: اس بارے میں سوائے اس حدیث کے سید إدامکم الملح (۲) کوئی دوسری حدیث جس سے ابتدا یا انتہا نمک پر ہونظر سے نہیں گزری، ممکن ہے کہ ان حضرات کو کوئی روایت ایسی ملی ہو، پس اس پر نہ اصرار کی کوئی وجہ ہے نہ انکار کی، جن بزرگوں نے اس کو مستحسن سمجھا ہے وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ یہ نافع ہے اور ہضم کے لیے مفید ہے یا امراض سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ شرح شریعۃ الاسلام میں ہے: (و یبدأ بالملح فإن فیہ شفاء من الأمراض) کما روی عن رسول اللہ

(۱) لیکن جوتا اتار کر کھانا بہتر ہے، حدیث شریف میں ہے: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم (مشكاة المصابيح، ص: ۳۶۸، كتاب الأطعمة، الفصل الثالث)

(۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح (سنن ابن ماجه، ص: ۲۳۸، أبواب الأطعمة، باب الملح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَلِيَّ ! اِبْدَأْ طَعَامَكَ بِالْمَلْحِ ، فَإِنَّ الْمَلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً ، مِنْهَا الْجَنُّونُ وَالْجَذَامُ وَالْبَرَصُ وَوَجَعُ الْبَطْنِ وَوَجَعُ الْأَضْرَاسِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْعَوَارِفِ (۱) باقی یہ کہ یہ روایت کیسی ہے صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا حال کچھ معلوم نہیں، کیونکہ سند کچھ بیان نہیں کی گئی، مگر ظاہر یہ ہے کہ حضرت شیخ نے اس کو قابل سند سمجھ کر عوارف میں نقل کیا ہے، کیونکہ عمل حدیث ضعیف پر بھی درست ہے، بہر حال اگر یہ ثابت ہو جاوے تب بھی اس سے یہ واضح ہے کہ یہ ارشادِ حقیقت ہے نہ تشریفاً، یا حدیث: سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمَلْحُ (۲) کی وجہ سے ابتدا اور انتہا اس پر اختیار کی ہوگی، مگر درحقیقت شریعت میں اس قسم کی تنگی نہیں کی گئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جس کو امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے: كُلْ مَا شِئْتَ وَابْسُ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ (۳)

## میٹھا اور نمکین دونوں قسم کا کھانا موجود ہے تو

## کون سے کھانے سے ابتداء کرنا بہتر ہے؟

سوال: (۱۰) میٹھا اور نمکین دونوں قسم کا کھانا موجود ہے کس کھانے سے شروع کرنا مسنون ہے اور کس پر ختم کرنا؟ (۱۵۵۲/۱۳۴۳ھ)

الجواب: صحیح حدیثوں میں اس میں کچھ قید نہیں ہے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو کھانا مرغوب ہو وہ کھاوے، اور خواہ میٹھے سے شروع کرے اور اس پر ختم کرے، یا نمکین سے شروع کرے اور اس پر ختم کرے، لیکن شرعۃ الاسلام میں منقول ہے کہ نمکین سے شروع کرنا بہتر ہے اور مفید ہے۔ ویداً

(۱) شرح شرعۃ الإسلام، ص: ۲۳۹، فصل فی سنن الأكل والشرب .

(۲) سنن ابن ماجہ، ص: ۲۳۸، أبواب الأطعمة ، باب الملح .

(۳) صحيح البخاري: ۸۶۰/۲، أوائل كتاب اللباس .

ترجمہ: کھا جو چیز چاہے تو یعنی مباح چیزوں میں سے، اور پہن جو چیز چاہے تو جب تک نہ پہنچیں تجھ کو دو چیزیں اسراف اور تکبر یعنی طعام و لباس میں توسع اسراف و تکبر کی وجہ سے مکروہ ہے، اور جب کہ تکبر اور اسراف نہ ہو تو مباح ہے (مظاہر حق قدیم: ۲۹۴/۳، قبیل باب الخاتم)

بالمَلَح فَإِنْ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ إلخ (۱) اور اس وجہ سے اخیر میں نمکین کھانا بھی غالباً مفید ہوگا اس لیے یہی بہتر ہوگا۔

سوال: (۱۱) اگر بیٹھا اور نمکین دونوں قسم کا کھانا ہے تو کس سے شروع کرے؟ اور کس پر ختم کرے؟ سنت اس میں کیا ہے؟ (۱۱/۲۷۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس میں کچھ قید نہیں ہے جیسی رغبت ہو درست ہے، شرعاً ان امور میں وسعت ہے کچھ تنگی نہیں ہے، البتہ شرح شرعۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ ابتدا نمکین کھانے سے کرنا بہتر ہے کہ اس میں شفا ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سپی سے کھیر وغیرہ کھانا درست ہے

سوال: (۱۲) دیسی سپی سے کھیر وغیرہ کھانا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۳۹/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: سپی (سپ کے خول) سے کھیر وغیرہ کھانا درست ہے۔ فقط

تانے اور پیتل کے برتن میں کھانا پینا

سوال: (۱۳) تانے اور پیتل کے برتن میں کھانا پینا کیسا ہے؟ (۹۳۴/۱۳۴۳ھ)

الجواب: بلا قلعی کے کھانا پینا ان میں اچھا نہیں ہے (۳)

تانے، پیتل اور کانسے کے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۴) کانسے (۴) کے برتن کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۳۴/۱۳۴۵ھ)

(۱) شرح شرعۃ الإسلام، ص: ۲۴۹، فصل في سنن الأكل والشرب .

(۲) شرح شرعۃ الاسلام میں نمک سے ابتدا و انتہا کو لکھا ہے: نمکین کھانے کو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے نمک کے حکم میں لیا ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

(۳) (وبكره الأكل في الصفر ..... وفي النحاس) أي الغير المطلى بالترصاص (شرح شرعۃ الإسلام، ص: ۲۴۴، فصل في سنن الأكل والشرب)

(۴) کانسا: ایک قسم کی دھات (فیروز اللغات)

الجواب: درمختار میں ہے: و یکرہ الأکل فی نحاس أو صفر والأفضل الخنزف (۱) یعنی مکروہ ہے کھانا تانبے اور پیتل کے برتن میں اور بہتر مٹی کے برتن ہیں، اور شامی میں نقل کیا ہے کہ تانبا اور پیتل میں کھانا مکروہ اس وقت ہے کہ اس پر رانگ کی قلعی نہ ہو، ورنہ بعد قلعی کے مکروہ نہیں ہے (۲) پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کانسے کے برتن میں بھی کھانا مکروہ ہے لیکن جن برتنوں پر قلعی مراد آبادی ہو وہ جائز ہیں۔

سوال: (۱۵) پھول (۳) ایک دھات ہے جس کے برتن بنتے ہیں، اور جس پر قلعی قطعی نہیں ہو سکتی وہ زیادہ تر اہل ہندو میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹۰۷/۱۳۴۵ھ)

الجواب: معلوم نہیں پھول کیا دھات ہے، اگر از قسم پیتل ہے جس کو اکثر اہل ہندو استعمال کرتے ہیں تو ان میں کھانا بدون قلعی کے مکروہ ہے، اور اگر الوینیئم (Aluminium) مراد ہے جو آج کل بہ کثرت رائج ہے، اور اس پر قلعی نہیں ہوتی اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان کو ہندو، مسلمان دونوں استعمال کرتے ہیں، تو ان میں کھانا درست ہے۔

مشرکین کے استعمالی برتنوں میں رکھا ہوا گھی، دودھ اور دہی خریدنا اور کھانا

سوال: (۱۶) گروہ مشرکین جو مردار جانور اور خنزیر بھی کھاتے ہیں، ان کے مستعمل ظروف میں دودھ نکالا جائے اور دہی جما کر گھی نکالا جائے اور ان کے مستعمل ظروف میں رکھا جائے، اس کا خریدنا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۸۱۷/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: جن برتنوں کا ناپاک ہونا یقینی طور سے معلوم ہو یا بہ گمان غالب وہ ظروف ناپاک ہوں ان میں جو دودھ یا دہی و گھی رکھا جائے گا اس کا خریدنا اور کھانا درست نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ برتن ناپاک تھے تو پھر فتویٰ یہ ہے کہ وہ دودھ وغیرہ پاک ہے، اس کا خریدنا اور کھانا درست ہے، احتیاط دوسرا امر ہے۔ فقط

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۴۱۷/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

(۲) قال فی الشامی: ثم قید النحاس بالغير المطلي بالبرصاص ..... و أما بعده فلا اھـ

(الشامی: ۴۱۷/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة)

(۳) پھول: کانسی، ایک قسم کی دھات جو تانبے اور رانگ کی آمیزش سے تیار ہوتی ہے (فیروز اللغات)



### چهار کا مٹکا دھو کر استعمال کرنا درست ہے

سوال: (۱۷) ایک سائیس (۱) قوم کا چہار ہے اس کا مٹکا ایک مسلمان دھو کر استعمال کرتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ (۳۲/۷۹-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے وہ مٹکا اور پانی پاک ہے۔ فقط

### مغرب اور عصر کے درمیان کھانا پینا درست ہے

سوال: (۱۸) مغرب و عصر کے درمیان کھانا پینا درست ہے کہ نہیں؟ (۱۲۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: کھانا درست ہے۔ فقط

سوال: (۱۹) عصر مغرب کے درمیان بعض اشخاص کھانے پینے سے بچتے ہیں، اس وجہ سے کہ سكرات کے وقت ہمیشہ یہی وقت محسوس ہوتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ (۸۰۵/۱۳۳۹ھ)

الجواب: بعد نماز عصر مغرب تک کھانا پینا شرعاً ممنوع و مکروہ نہیں ہے، اور سكرات موت کے وقت یہ وقت محسوس ہونا مقتضی ترک طعام و آب کو نہیں ہے اور شارع اور فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھانے پینے کو منع نہیں فرمایا۔ فقط

### قضاے حاجت کے وقت پان کھانا

سوال: (۲۰) پاخانہ میں بیٹھ کر پان کھانا کیسا ہے؟ (۳۲/۲۱۲۸-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مکروہ ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### جو غذا دانتوں میں رہ جاتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۲۱) کھانا کھاتے وقت جو غذا دانتوں میں رہ جاتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہاں

(۱) سائیس: گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا (فیروز اللغات)

(۲) یعنی پاخانہ میں بیٹھ کر کھانا پینا مکروہ ہے، پس اگر پان پہلے سے منہ میں رکھا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ۱۲

مشہور ہے کہ حرام ہے۔ (۱۳۳۸/۶۵۱ھ)

الجواب: وہ پاک ہے اور کھانا اس کا حلال ہے، البتہ بہتر یہ ہے جیسا حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو زبان کے پھیرنے سے دانتوں سے علیحدہ ہو اس کو کھالیوے، اور جو خلال کرنے سے درمیان دانتوں سے نکلے اس کو پھینک دے (۱) اور یہ بھی بہ وجہ کراہت طبعی اور اندیشہ مضرت کے ہے، ورنہ پاک و حلال سب ہے۔ فقط

### آنحضرت ﷺ نے گندم کی روٹی تناول فرمائی ہے

سوال: (۲۲) آنحضرت ﷺ نے گندم کی روٹی کھائی ہے یا نہیں؟ اور حضرت ﷺ کے زمانے میں گندم (گیہوں) تھے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۴۹ھ)

الجواب: آنحضرت ﷺ نے گیہوں کی روٹی کبھی کبھی کھائی ہے جیسا کہ ترمذی میں منقول ہے: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثاً تباعاً من خبز البُر حتى فارق الدنيا وفيه أيضاً: وكان أكثر خبزهم خبز الشعير (۲) اور آنحضرت ﷺ کے زمانے میں گیہوں کا ہونا احادیث صدقہ فطر سے ظاہر ہے جیسا کہ ابوداؤد و ترمذی و نسائی وغیرہ میں ہے: عن الحسن قال: خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم ..... فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير (۳)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..... ومن أكل فمات خلل فليلفظ، و مالاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (سنن أبي داؤد، ص: ۶، كتاب الطهارة - باب الاستتار في الخلاء)

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث . و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ..... وكان أكثر خبزهم الحديث (جامع الترمذی: ۶۱/۲، أبواب الزهد - باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله)

(۳) سنن أبي داؤد، ص: ۲۲۹، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح . و جامع الترمذی: ۱۴۳/۱، أبواب الزكاة - باب ما جاء في فضل الصدقة . و سنن النسائي: ۲۶۹/۱، كتاب الزكاة - مکیلة زكاة الفطر .

عورتوں کو غیر محرم مرد اور بزرگوں کا جھوٹا

کھانا اور پانی استعمال کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۲۳) عورت کو غیر محرم کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ اور بزرگوں کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟

(۱۳۹۸/۱۳۳۷ھ)

الجواب: غیر محرم مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورتوں کو اچھا نہیں ہے، لیکن بزرگوں اور صلحاء کا جھوٹا تبرک درست ہے (۱) فقط

میاں بیوی کا ایک پیالہ میں دودھ چاول کھانا درست ہے

سوال: (۲۴) ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ ایک پیالہ میں دودھ چاول کھائے، درست

ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۲۷۷ھ)

الجواب: درست ہے، اس سے کچھ حرمت زوجین میں نہیں ہوتی۔

حلال جانور کے بچے کو عورت نے دودھ پلایا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے

سوال: (۲۵) ہندہ نے کسی حلال جانور کے بچے کو دودھ پلایا، تو اس جانور کا کھانا جائز ہے یا

(۱) یکرہ سؤرھا للرجل کعکسہ للاستلذاذ واستعمال ریق الغیر، وهو لایجوز. مجتبیٰ (الدر) وفي الشامي: قوله: (واستعمال ریق الغیر) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة، فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر اهـ.: أي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويعطى الإناء لمن عن يمينه ويقول: الأيمن فالأيمن. نعم عبر في المنح بالأجنبية، وفيه نظر أيضاً. والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط. ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ لا كراهة، ولا سيما إذا كان يعافه (الدر المختار و رد المحتار: ۱/۳۳۹-۳۴۰، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في السؤر)

و يفهم منه إلخ سے معلوم ہوا کہ مہمانوں کا بچا ہوا کھانا گھر میں آیا اور عورتوں کو معلوم نہیں کہ کس کا بچا

ہوا ہے تو اس کو کھانا جائز ہے، کیونکہ علت استلذاذ منتفی ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

نہیں؟ (۵۲۶/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس جانور کو کھانا حلال ہے کیوں کہ رضاعت کا حکم انسان کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ درمختار میں ہے: باب الرضاع: هولغة: ..... مص الثدي وشرعاً: مص من ثدي آدمية الخ قوله: (آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة الخ (۱) (شامی) فقط

### جذامی کے ساتھ کھانا کھانا

سوال: (۲۶) جذامی (۲) کے ساتھ میل معاملہ کرنا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/۹۰۷ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہر دو امر وارد ہیں، آنحضرت ﷺ نے جذامی کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے اور یہ فرمایا کہ کُلْ ثَقَّةً بِاللَّهِ: یعنی کھاؤ ہمارے ساتھ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے (۳) اور یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے: فَرَمَنَ الْمَجْذُومَ كَمَا تَفَرَّمَنَ الْأَسَدَ (۴) یعنی جذامی سے علیحدہ رہو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، پس تطبیق اس میں اس طرح ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کھالے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر دل میں تردد اور شبہ ہو تو علیحدہ رہے۔

سوال: (۲۷) جذامی کے ساتھ تندرست کو کھانا درست ہے یا نہ؟ (۱۳۳۰/۱۲۸۵ھ)

الجواب: نہیں کھانا چاہیے اور اس سے علیحدہ رہنا چاہیے جیسا کہ وارد ہے کہ جذامی سے ایسا

(۱) الدر المختار والشامی: ۲۹۱/۴-۲۹۲، کتاب النکاح، باب الرضاع.

(۲) جذام: ایک بیماری جو فساد خون سے پیدا ہوتی ہے، اطراف بدن متورم ہو جاتے ہیں اور انگلیاں وغیرہ کٹ کٹ کر گرنے لگتی ہیں، اس کو کوڑھ بھی کہتے ہیں اور کوڑھ اس بیماری کو بھی کہتے ہیں جس سے بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، مگر یہاں وہ مراد نہیں، اوّل معنی مراد ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

(۳) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: كُلْ ثَقَّةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. رواه ابن ماجه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۹۲، باب الفال والطيرة، الفصل الثاني)

(۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد (صحيح البخاري: ۸۵۰/۲، كتاب الطب، باب الجذام)

بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہیں، اور جس شخص کا توکل قوی ہو وہ کھا بھی سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جذامی کے ساتھ کھایا ہے اور فرمایا ہے: کل ثقة باللہ .

### بھنگی اور چمار کے ساتھ ایک برتن میں کھانا

سوال: (۲۸) کفار اور مشرکین میں سے چوہڑے بھنگی اور چمار کے ساتھ ایک برتن میں کھانا مسلمان کو جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۰ھ)

الجواب: یہ تو کتب فقہ درمختار وغیرہ میں تصریح ہے کہ آدمی کا جھوٹا اگرچہ وہ کافر ہو پاک ہے (۱) اس لیے گنجائش جواز ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ایک برتن میں کھانا وغیرہ کھاوے۔ فقط

### زچہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا درست ہے

سوال: (۲۹) جس عورت کے بچہ پیدا ہو اس کے ہاتھ کا کھانا چالیس روز کے اندر جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۱۸ھ)

الجواب: چالیس روز سے قبل اس عورت کے ہاتھ کا کھانا پاک ہوا کھانا درست ہے۔ فقط

### ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے کھانا درست ہے

سوال: (۳۰)..... (الف) بعد از جماع قبل از غسل کسی قسم کی چیز کھانا درست ہے یا نہیں؟

(ب) بعد از جماع دودھ وغیرہ لینا یا شیرینی قبل از غسل کھانا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵-۲۳/۹۴۹ھ)

الجواب: (الف) درست ہے۔ (ب) درست ہے۔ فقط

سوال: (۳۱) حالت جنابت میں شرعاً کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۱۲۲ھ)

(۱) فسور آدمی مطلقاً ولو جنباً أو کافراً أو امرأة ..... طاهر الفم ..... طاهر (الدر مع الشامي:

۱/۳۳۹-۳۴۰، کتاب الطهارة، مطلب في السور)

الجواب: حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے (۱) فقط

### مجامعت کی حالت میں بچہ کو دودھ پلانا

سوال: (۳۲) مجامعت کی حالت میں عورت بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟

(۱۱۹۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس حالت میں دودھ پلانا درست ہے۔

### مباح چیزوں سے پرہیز کرنا

سوال: (۳۳) بعض صوفیائے کرام نے خبربوزہ تمام عمر اس واسطے نہیں کھایا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کا کھانا ثابت نہیں ہے اور بعض صوفیائے کرام چارپائی پر نہیں لیٹے، اور بعض بزرگوں نے بیس تیس سال تک گوشت نہیں کھایا حالانکہ یہ شرعاً جائز ہے، اس کا کیا حکم ہے؟

(۲۶۶۲/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: جو اشیاء مباح ہیں اس کے جواز میں کلام نہیں ہے باقی کسی کا ان کو نہ کرنا مثلاً خبربوزہ نہ کھانا یہ ایک حال ہے کہ صاحب حال کے ساتھ خاص ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہو سکتی۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (سورہ اعراف، آیت: ۳۲) (۲)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَاَنْسَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَنُتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنْ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ (صحيح البخاري: ۴۲/۱، كتاب الغسل، باب الجنب يَخْرُجُ وَيَمْسِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ)

(۲) حدیث شریف سے آنحضرت ﷺ کا خبربوزہ کھانا ثابت ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرَّطْبِ (جامع الترمذی: ۶/۲، أبواب الأَطْعَمَةِ - باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب) اور چارپائی پر لیٹنا بھی ثابت ہے۔ قالت عائشة: كُنْتُ إِذَا حَضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمَثَالِ (السَّيرِ) عَلَى الْحَصِيرِ (أَبُو دَاوُدَ، ص: ۳۶، كتاب الطَّهَارَةِ، باب في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجَمَاعِ)

## انڈا کیوں حلال ہے؟

سوال: (۳۴) انڈا کیسے حلال ہو گیا جب کہ اس پر بسم اللہ پڑھنی شرط نہیں ہے؟  
(۱۳۳۴-۳۳/۴۲۹ھ)

الجواب: انڈا کوئی جاندار چیز اور جانور نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جاوے اور بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بہ وقت ذبح کہنا ضروری ہوتا، بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذبح کے وقت جانور پر کہنا شرط ہے نہ کہ غیر جانور پر، بلکہ علاوہ جانوروں کے جن چیزوں کی حرمت وارد نہیں ہے اور قاعدہ حلت ان پر صادق آتا ہے وہ حلال ہیں اور انڈا ان چیزوں میں سے ہے کہ شریعت میں اس کی حلت ثابت ہے، اور قرآن شریف میں ہے: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (سورہ اعراف، آیت: ۱۵۷) انڈا طیبات میں سے ہے، لہذا حلال ہے۔

## مرغی کے پیٹ سے نکلا ہوا انڈا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۳۵) دجاجہ یعنی مائیاں مردہ کے شکم سے جو بیضہ (انڈا) سخت یا نرم نکلے وہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۵۴۲ھ)

الجواب: درمختار میں لکھا ہے: وکذا کل ما لا تحلُّه الحیاءُ حتّٰی الإنفحۃ واللبن (۱) کہ میتہ کا دودھ وغیرہ پاک و حلال ہے، اس قاعدہ سے مرغی کا بیضہ بھی حلال و پاک ہے، لیکن بعض فقہاء نے دودھ میتہ کے بارے میں مذہب صاحبین کو ترجیح دی ہے وہ ناپاک فرماتے ہیں (۲) پس احتیاط اسی میں ہے، اور بیضہ کے بارے میں بھی یہی احتیاط ہے۔

سوال: (۳۶) مرغی کو ذبح کیا جائے اور اس میں سے انڈے نکلیں وہ حلال ہیں یا نہیں؟

(۱۳۳۲/۱۲۹ھ)

(۱) الدرّ مع الشامی: ۳۲۰/۱، کتاب الطہارۃ، باب المیاء - مطلب فی احکام الدبّاغۃ.

(۲) وکذا لبن المیتۃ وینفختھا (طاهر) و نَجَسَاھا وھو الاظھر إلا أن تكون جامدة فتطھر بالغسل اھـ وافاد ترجیح قولھما (ردّ المحتار: ۳۲۱/۱، کتاب الطہارۃ - باب المیاء - مطلب فی احکام الدبّاغۃ)

الجواب: حلال ہیں۔ فقط

مچھلی کے انڈے کھانا درست ہے

سوال: (۳۷) مچھلی کے انڈے کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۷۵۱)

الجواب: درست ہے۔ فقط

مچھلیوں کو مع آلائش کھانا

سوال: (۳۸)..... (الف) مچھلیاں مع آلائش سکھائی جاتی ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) جن چھوٹی مچھلیوں کی آلائش صاف نہیں ہو سکتی ان کو مع آلائش کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳/۱۴۵۲)

الجواب: (الف - ب) چھوٹی مچھلیوں کے حق میں فقہاء کی تصریح موجود ہے کہ اگر ان کی

آلائش نہ نکالی گئی تو بھی وہ حلال ہیں۔ كما في الشامي نقلاً عن معراج الدرّاية : ولو وجدت

سمكة في حوصلة طائر تؤكل ، وعند الشافعي لا تؤكل لأنه كالرجيع ، ورجيع الطائر

عنده نجس ، و قلنا : إنما يعتبر رجيعاً إذا تغيّر وفي السمك الصغار التي تقلّ من غير أن

يشق جوفه فقال أصحابه : لا يحل أكله لأن رجيعه نجس وعند سائر الأئمة يحل اهـ (۱)

(شامي: باب الذبائح جلد خامس) اس تعلیل سے مستفاد ہوتا ہے کہ بڑی مچھلیوں کا حکم بھی بہ

صورت مسئلہ حل اکل ہونا چاہیے، لیکن آلائش کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ كما في الشامي: قال

أبو حنيفة: الدّم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

وَالدَّمُ الْآيَةُ﴾ (سورة مائدہ: آیت: ۳) فلمّا تناوله النصّ قطع بتحريمه وكرهه ماسواه ، لأنه ممّا

تستخبشه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية الخ (۲) (۴۷/۵) وفيه أيضا

نقلاً عن القنية: أنّ الذّكر أو الغدّة لو طبخ في المرقّة لا تكره المرقّة الخ (۳) فقط

(۱) ردّ المحتار: ۳۷۵/۹، کتاب الذبائح .

(۲) ردّ المحتار: ۳۹۵/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۳) ردّ المحتار: ۳۹۶/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی .



### بدبودار گوشت اور سرٹا ہوا انڈا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۳۹) جو لحم یعنی گوشت بدبودار ہو جائے یا بیضہ بگڑ جائے وہ کھائے جائیں یا پھینک دیے جائیں؟ بینواتو جروا (۵۴۲/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: جو گوشت اور بیضہ بگڑ جائے اور سرٹا جائے وہ نہ کھایا جائے، پھینک دیا جاوے (۱) فقط سوال: (۴۰) گندا انڈا کونسی صورت میں جائز ہے اور کونسی صورت میں نہیں؟ (۲۳۶۱/۱۳۳۷ھ) الجواب: جب انڈا گندا ہو جائے یعنی اس میں خون ہو جائے اور متعفن ہو جائے تو ناجائز ہے۔

### مولی، پیاز، اور لہسن کھانے کا حکم

سوال: (۴۱) مولی، پیاز، لہسن خام کھانے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء مولی کھانے کو اور حقہ پینے کو مکروہ فرماتے ہیں۔ (۶۷۳/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: ان چیزوں کا کھانا درست ہے مگر اچھا نہیں، لیکن مسجد میں کچی پیاز یا لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر جانا مکروہ تحریمی ہے (۲) اور اگر پکا کر کھایا جائے تو پھر کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم سوال: (۴۲) کچی پیاز اور لہسن کھانا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟ کچی پیاز لہسن کھا کر اور تمباکو پی کر بغیر کلی اور بغیر دور کیے بدبو کے مسجد میں جانا مکروہ ہے یا نہیں؟ (۶۸۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: کچی پیاز یا لہسن کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم بہ اتفاق روایت

(۱) واللحم إذا أتنن يحرم أكله، والسمن واللبن والزيت والدّهْن إذا أتنن لا يحرم، والطعام إذا تغيّر واشتدّ نجس والأشربة بالتّغير لا تحرم كذا في خزائنة المفتیین (الفتاویٰ الہندیة:

۵/۳۳۹، کتاب الکراہیة، الباب الحادی عشر فی الکراہیة فی الأکل وما یتصل بہ)

(۲) فی الشّامی قولہ: (وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه ممّا له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري. قلت: علّة النهي أذي الملائكة وأذي المسلمين..... وإنما خصّ الثوم هنا بالذّكر، وفي غيره أيضًا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها (الدرّ والرّد: ۲/۳۷۵-۳۷۸، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: في الغرس في المسجد)

کرتے ہیں کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے: كُلْ فَبَانِي أَنَا جِي مِنْ لَا تَنَاجِي (۱) اور مسلم میں ہے کہ فرمایا: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهَ رِيحُهَا (۲) ہاں اس کو کھا کر یا حقہ پی کر بدون ازالہ بدبو کے مسجد میں جانا مکروہ تحریمی ہے کہ احادیث صحیحہ میں لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں حاضر ہونے سے نہی وارد ہے، چنانچہ مسلم میں ہے: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكِرَاثَ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (۳) اور فقہ حنفی میں بھی پیاز اور لہسن یا کوئی اور بدبودار شے کے ساتھ مسجد میں جانا مکروہ تحریمی ہے، چنانچہ درمختار میں ہے: وَأَكْلُ نَحْوِ ثُومٍ وَيَمْنَعُ مِنْهُ وَكَذَا كُلُّ مَوْذٍ (۴) اور کبیری میں ہے: يَجِبُ أَنْ تَصَانَ عَنْ إِدْخَالِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ (۵) اور اسی پر قیاس کر کے حضرات علماء رحمہم اللہ نے علاوہ مسجد کے مجالس ذکر میں بھی بدبودار شے کو لے جانا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، چنانچہ نووی شرح مسلم میں نقل کرتے ہیں: قَالَ الْقَاضِي: وَقَاسَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا مَجَامِعَ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْمَسْجِدِ كَمَصَلَى الْعِيدِ وَالْجَنَائِزِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَجَامِعِ الْعِبَادَاتِ وَكَذَا مَجَامِعَ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْوَلَائِمِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَلْتَحِقُ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَحْوُهَا (۶) الحاصل کچی پیاز اور لہسن کھانا بلا کراہت جائز ہے، البتہ اس کو کھا کر یا حقہ پی کر بلا ازالہ رائحہ کریہہ کے مسجد یا مجلس ذکر میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔

(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَكَلَ صَوْمًا أَوْ بَصَلًا ..... فَقَالَ: كُلْ فَبَانِي أَنَا جِي مِنْ لَا تَنَاجِي (صحيح البخاري: ۱/۱۱۸، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيّ والبصل والكراث الخ)

(۲) عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ..... فقال: أَيُّهَا النَّاسُ الْحَدِيثُ (الصَّحِيحُ لِمُسْلِمٍ: ۲۰۹/۱، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كَرَاثًا إلخ)

(۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومَ وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ الْحَدِيثُ (حوالہ سابقہ)

(۴) الدر المختار مع الشامی: ۳۷۷/۲، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد .

(۵) الحلبي الكبير: ص: ۵۲۶، فصل في أحكام المسجد .

(۶) شرح الصحيح لمسلم للنووي: ۲۰۹/۱، كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب مَنْ أَكَلَ ثُومًا إلخ .

## حرام آمدنی سے پلے ہوئے بیل اور اس کی کاشت کا حکم

سوال: (۴۳) مسلمان رنڈی نے اپنی ناجائز آمدنی سے ایک چھڑا پالا پھر اس کو ایک کافر نے اس رنڈی سے خرید لیا، بعدہ ایک مسلمان کے ہاتھ فروخت کر دیا، اس صورت میں اس بیل کے ذریعہ سے جو کاشت وغیرہ کی آمدنی اس مسلمان کو ہوگی وہ پاک ہے یا نہیں؟ اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۴/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: وہ آمدنی حلال اور پاک ہے اور اس بیل کا گوشت کھانا بعد ذبح شرعی کے درست ہے۔ فقط

## کھیس کھانا درست ہے

سوال: (۴۴) گائے بھینس، بکری کی پیوسی (۱) کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کھانے کی ترکیب یہ ہے کہ بچہ ہونے کے بعد اس کا دودھ نکال کر اس دودھ کو مٹھائی میں ملا کر پکا کر کھاتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو انڈری کہتے ہیں۔ (۹۰۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس کو یہاں کھیس (۱) کہتے ہیں، کھانا اس کا بلا کراہت درست ہے۔ فقط  
سوال: (۴۵) گائے بھینس وغیرہ کے جب بچہ ہوتا ہے تو اول بجائے دودھ کے کھیس ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۹۴/۱۳۳۸ھ)

الجواب: جائز ہے۔ فقط  
سوال: (۴۶) جب گائے بھینس بچہ دیتی ہے تو دو تین یوم تک پیوسی رہتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے یا مکروہ؟ (۲۶۴۰/۱۳۳۱ھ)

الجواب: یہاں اس کو کھیس کہتے ہیں کھانا اس کا بلا کراہت جائز ہے۔

(۱) پیوسی و کھیس: وہ گاڑھا دودھ جو گائے، بھینس، بکری وغیرہ کو بچہ پیدا ہونے پر پہلے تین روز نکلتا ہے۔  
(فیروز اللغات)

جائفل، جاوتری، زعفران، مشک، الائچی اور عنبر کھانا حلال ہے

سوال: (۴۷) جائفل و جاوتری و زعفران و مشک و الائچی و عنبر کھانا حلال ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۳۳ھ)

الجواب: جائفل و جاوتری و زعفران وغیرہ سب حلال ہیں، ردالمحتار میں زعفران و جائفل وغیرہ کو کھانا حلال لکھا ہے حرام نہیں لکھا، زعفران ہر قسم کی حلال ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### افیون اور خشخاش کا حکم

سوال: (۴۸) افیون اور خشخاش حلال ہیں یا حرام؟ مع حوالہ تحریر فرمائیں۔ (۱۳۳۳/۲۷۹۸ھ)

الجواب: افیون جب کہ حد سکر کو پہنچ جائے تو بہ اتفاق حرام ہے۔ لأن کل مسکر حرام (۲)

شامی میں ہے: کالبنج والافیون فلا یحرم قلیلها بل کثیرها المسکر — إلى أن قال — أما الجامدات فلا یحرم منها إلا الکثیر المسکر (۳) علی ہذا پوست (خشخاش) اگر حد سکر کو نہ (۱) ولم نر أحداً ..... بنجاسة نحو الزعفران مع أن کثیره مسکر، و لم یحرموا أکل قلیلہ ایضاً (رد المحتار: ۳۶/۱۰، کتاب الأشربة)

والمسک طاهر حلال فیؤکل بکل حال (الدر) و فی الشامی: (فیؤکل بکل حال) أي فی الأطعمة والأدوية لضرورة أو لا ..... والزباد طاهر و کذا العنبر ..... و أما العنبر فالصحيح أنه عین فی ”البحر“ بمنزلة القیر، و کلاهما طاهر من أطيب الطيب اہـ ملخصاً. و ”فی تحفة ابن حجر“: و لیس العنبر روئاً خلافاً لمن زعمه، بل هو نبات فی ”البحر“ (رد المحتار: ۳۳۴/۱، کتاب الطہارة، باب المیاء، مطلب فی المسک و الزباد و العنبر)

جاوتری: جائفل کا پوست۔ الزباد: بلی کے برابر ایک جانور جس کے اندر خوشبو کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں سے ایک خوشبودار مادہ نکلتا ہے، جسے بہ طور خوشبو استعمال کیا جاتا ہے، اسے زباد کہتے ہیں۔ ۱۲ سعید احمد (۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر و كل مسكر حرام و من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يد منها لم يتب، لم يشربها في الآخرة رواه مسلم (مشكاة المصابيح: ص ۳۱۷، کتاب الحدود، باب بیان الخمر و وعید شاربها، الفصل الأول) (۳) رد المحتار الشامی: ۳۶/۱۰، کتاب الأشربة.

پہنچے تو حلال ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے

سوال: (۴۹) ایک شخص کہتا ہے کہ کبوتر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ وہ غیر کا حق کھاتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جانور تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ (۲۸۹/۳۵-۱۳۳۶ھ)  
الجواب: یہ وہم غلط ہے، جانور مکلف نہیں ہیں۔ فقط

### شکر قندی اور بڑھل کھانا حلال ہے

سوال: (۵۰) زمین قند (شکر قندی) اور بڑھل کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ (۹۱۳/۱۳۳۰ھ)  
الجواب: زمین قند اور بڑھل حلال ہیں۔

### مٹی کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۵۱) مٹی کا کھانا کیسا ہے؟ (۴۳۳/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: مٹی کا کھانا بہ وجہ مضرت کے ممنوع ہے، اس لیے اگر قلیل یا مخلوط ہو تو درست ہے (۱)

### شکر و چینی کھانا درست ہے

سوال: (۵۲) انگریزی شکر، چینی کی بابت مجھ کو ایک ملازم کا رخانہ ہڈی اور دیگر افواہ عامہ سے معلوم ہوا ہے کہ بہ وقت تیار شکر مذکور کے ہڈی کے ذریعہ سے صفائی کی جاتی ہے، اس لیے عرصہ

(۱) أكل الطين مكروه، هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى، و ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة لا يُباح له تناول، وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين وإن كان يتناول منه قليلاً أو كان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به ..... و سئل بعض الفقهاء عن أكل الطين البخاري ونحوه قال: لا بأس بذلك ما لم يضر و كراهية أكله لا للحرمة بل لتهييج الذاء (الفتاوى الهندية: ۳۴۰-۳۴۱، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهية في الأكل وما يتصل به)

سے اس کا استعمال ترک کر دیا ہے، اگر دیگر شیرینی وغیرہ میں اس کی آمیزش کا شک ہوتا ہے وہ بھی داخل پرہیز ہوتی ہے، ہڈی حرام حلال ہر قسم کے جانوروں کی مذبوح و مردار کی جمع ہو کر کارخانہ میں آتی ہے؛ اب آپ فرمائیے کہ اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ (۲۹/۲۳۷-۱۳۳۰ھ)

الجواب: شکر و چینی کا کھانا درست ہے، اگر ہڈی جانوروں کی اس میں ڈالی جاتی ہے تو اول تو سوائے خنزیر کے کسی جانور کی ہڈی ناپاک نہیں اور ناپاک ہڈی جل کر اور خاکستر ہو کر پاک ہو جاتی ہے اگرچہ وہ خنزیر کی ہو، اس میں شک و تردد فضول ہے۔ کما قال فی الدر المختار (۱) فقط

اس شبہ کی وجہ سے کہ چرخی اور برتنوں کو کتے

چاٹتے ہیں بازار کی شکر اور گڑ ناپاک نہیں

سوال: (۵۳) جس چرخی میں گنوں کا رس نکالتے ہیں اور جن برتنوں میں گڑ مٹھائی بناتے ہیں ان سب برتنوں کو کتے چاٹتے ہیں، یہ گڑ وغیرہ پاک ہے یا ناپاک؟ (۳۲/۱۱۷۱-۱۳۳۳ھ)

الجواب: قواعد شرعیہ (۲) سے وہ گڑ وغیرہ پاک ہے کھانا اس کا درست ہے۔ فقط

سوال: (۵۴) رس نکالنے کی چرخی کو شب و روز کتے چاٹتے ہیں اور جن برتنوں میں رس ڈالا جاتا ہے اور گڑ وغیرہ بنایا جاتا ہے ان کو بھی کتے چاٹتے ہیں اور ان کو پاک نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ گڑ اور مٹھائی بازاروں میں فروخت ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۲/۲۳۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ایسے شبہات سے بازار کی شکر اور گڑ ناپاک نہیں سمجھا جاتا۔ فقط

(۱) قوله: (و يطهر زيت الخ) ..... فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة، و كان فيه بلوى عامة ..... وعذرة صارت رماداً أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف الخ (رد المحتار: ۱/۴۵۰، كتاب الطهارة - باب الأنجاس) قوله: (والحرق كالغسل) لأن النار تاكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء ..... ولهذا لو أحرقت العذرة و صارت رماداً طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت الخ (الشامي: ۳۷۹/۱۰، كتاب الخنثى - مسائل شتى)

(۲) اليقين لا يزول بالشك (قواعد الفقہ، ص: ۱۴۳، قاعدة: ۴۲۱، المطبوعة: اثرنی بک ڈپو، دیوبند)

## بھنگی وغیرہ نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۵۵) مشرکین مردار خوار بھنگی و چمار وغیرہ کے ہاتھ کی تر چیز کھانا مثل رس وغیرہ کے اور کولہو میں ان لوگوں سے مٹھائی بنوانا درست ہے یا نہیں؟ ان کا جھوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ان کے ہاتھ سے پانی نکلوا کر وضو کیا جائے تو طہارت کامل ہو جائے گی یا نہیں؟ ﴿إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (آیۃ) میں نجاست ظاہری مراد ہے یا ایمانی؟ (۲۵/۷۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: قال في الدر المختار: فسؤر آدمي مطلقاً ولو جنباً أو كافراً الخ طاهر الفم الخ طاهر (۱) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کا جھوٹا پاک ہے جب کہ اس نے منہ پاک کر لیا ہو مثلاً اگر نجاست کھائی ہو تو منہ کو صاف کر لیا ہو، دھولیا ہو، اور جب کہ ان کا جھوٹا پاک ہے تو ان کے ہاتھ کا پانی اور رس اس حالت میں پینا درست ہے اور اس پانی سے وضو درست ہے، الحاصل قاعدہ فقہیہ: یقین لا یزول بالشک (۲) پر عمل کرے اور توہمات کو چھوڑے۔ ﴿إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (آیۃ) (سورہ توبہ، آیت: ۲۸) میں نجاست سے مراد نجاست باطنی اور عقیدہ کی خرابی اور ناپاکی مراد ہے۔ فقط سوال: (۵۶) آیا کافر نجس ہے یا طاہر ہے؟ اگر نجس ہے تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا یا ہاتھ لگایا ہوا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر پاک ہے تو کیوں کر پاک ہے؟ اور اس کے ہاتھ کی چیز پکائی ہوئی کا کھانا درست ہے یا نہ؟ (۲۹/۷۰۰-۱۳۳۰ھ)

الجواب: کافر بہ اعتبار عقائد باطنیہ کے نجس ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ﴿إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (سورہ توبہ، آیت: ۲۸) قال في الشامي: فالمراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ النجاسة في اعتقادهم الخ (۳) پس جب کہ معلوم و محقق ہوا کہ نجاست کافر کی بہ اعتبار اعتقاد کے ہے نہ بہ اعتبار ظاہر کے، تو اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست ظاہری نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا یا ہاتھ لگایا ہوا کھانا پاک ہے اور درست ہے، آنحضرت ﷺ نے بھی کفار کے ہاتھ کا پکایا ہوا

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۱/۳۳۹-۳۴۰، کتاب الطہارۃ - باب المیاء - مطلب في السؤر.

(۲) رد المحتار: ۱/۲۵۱، کتاب الطہارۃ - مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكرهه مذهبه.

(۳) رد المحتار: ۱/۳۳۹، کتاب الطہارۃ - باب المیاء، فصل في البئر، مطلب في السؤر.

کھانا تناول فرمایا ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### ہنود سے اشیاء خوردنی خرید کر کھانا درست ہے

سوال: (۵۷) ہندو جو اس ملک کے دستور کے موافق عموماً سود خوار ہیں، اور ہمارے ملک کے دیہات وغیرہ میں مسلمانوں کی کوئی دکان نہیں، سو اگر کوئی ہے وہ بھی معمولی ہے، اور اشیائے خوردنی ہندو لوگوں سے لے کر فروخت کرتے ہیں، بہ وقت ضرورت ہندوؤں سے اشیائے خوردنی خریدی جاتی ہیں؛ آیا وہ اشیائے خوردنی مٹھائی وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ اور دیگر اشیاء یعنی ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی وغیرہ بہ وقت ضرورت یا بغیر ضرورت جائز ہے یا نہیں؟ (۲۹/۳۲۸-۱۳۳۰ھ)

الجواب: ہندو کی بنائی ہوئی مٹھائی اور روٹی وغیرہ اشیائے خوردنی ان سے خرید کر کھانا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۵۸) ہنود کے ہاتھ کی پکی ہوئی اشیاء کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۰۵/۱۳۴۳ھ)

الجواب: اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، مسلمانوں کے لیے ان کا استعمال جائز ہے، جب کہ ان کے یہاں دعوت میں جانا جائز ہے تو پھر ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی شے کے استعمال میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ مگر مناسب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ قال فی الشامی: إن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشرع ومجازاة الإحسان من المروءة إلخ (۲) فقط

سوال: (۵۹) ہندو لوگ جو ہر وقت نجس رہتے ہیں اور کتے کے پس خوردہ (جھوٹا) کو پاک سمجھتے ہیں، اور مسلمان کے ہاتھ لگانے سے اشیاء کو ناپاک سمجھتے ہیں، اور گائے کے گوبر کو پاک سمجھتے ہیں، اور کتے کے چائے ہوئے برتنوں میں مٹھائی بناتے ہیں، آیا ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی کھانی شرعاً درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۲۳۷-۱۳۳۳ھ)

(۱) عن ابن شہاب قال: کان جابر بن عبد اللہ یحدث أن یهودیة من أهل خیبر سمّت شاة مصلیة ثم أهدتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه الحديث (سنن أبي داود، ص: ۶۲۰، کتاب الدیات - باب فیمن سقی رجلاً سما الخ)

(۲) الشامی: ۱۰/۴۰۳، کتاب الخنثی، مسائل شتی .



الجواب: جب کہ کوئی خاص خبر اس خاص مٹھائی وغیرہ کے نجس ہونے کی نہ ہو تو کھانا اس کا

درست ہے۔ فقط

سوال: (۶۰) جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور یہی لوگ ڈبل روٹی و بسکٹ وغیرہ بنا کر فروخت کرتے ہیں، آیا ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی اشیاء مذکورہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۲۹۰)

الجواب: جب تک علم وقوع نجاست کا خاص اس ڈبل روٹی وغیرہ میں نہ ہو، فتویٰ جواز کا دیا

جاوے گا۔ لأن الطهارة لا تزول بالشك (۱)

سوال: (۶۱) ہندو کی دکان سے مٹھائی خرید کر کھانا جو پاکی کا بالکل خیال نہیں کرتے پاک ہے

یا نہیں؟ اور اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۶ھ/۳۵-۳۶)

الجواب: فتویٰ کے موافق یہ حکم ہے کہ جب تک کسی مٹھائی اور کھانے وغیرہ میں نجاست نہ

دیکھی جائے ازراہ فتویٰ اس کا کھانا اور خریدنا درست ہے، احتیاط کی بات دوسری ہے، اگر کوئی شخص

احتیاط کرے اور بچے اچھا ہے، لیکن ازراہ فتویٰ شرعی حکم ناپاکی کا بدون دیکھے نہ کیا جائے۔ فقط

سوال: (۶۲) یہاں ہندو کے ہاتھ کی بنی مصری بعض مسلمان نہیں کھاتے، اس کے متعلق شرعی

حکم کیا ہے؟ کیا نہ کھانا تقویٰ میں شمار ہوگا؟ (۱۳۳۷ھ/۲۵-۲۶)

الجواب: جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں، اور اس کا کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔

سوال: (۶۳) چمار کے گھر کا گھی خرید کر اگر استعمال کرے جائز اور پاک ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳ھ/۳۲-۳۵)

الجواب: احتیاط یہ ہے کہ نہ خریدے، اگر خریدا اور استعمال کیا درست ہے، پاک ہی سمجھا جاتا

ہے، جب تک کہ کوئی نجاست اس میں معلوم نہ ہو۔

ہندو پنواڑی کا بنایا ہوا پان کھانا درست ہے

سوال: (۶۴) ہندو حلوائی کی دکان کی مٹھائی اور ہندو پنواڑی کے ہاتھ کا بنایا ہوا پان کھانا

(۱) لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك (بدائع الصنائع: ۱/۱۲۲، کتاب الطهارة،

آداب الوضوء، فصل ما ينقض الوضوء)

درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۶۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ہندو حلوائی کی دکان کی مٹھائی اور ہندو پنواڑی کے ہاتھ کا بنایا ہوا پان کھانا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ہندو اپنے تہوار کے روز جو مٹھائی بھیجتے ہیں اس کا کھانا درست ہے

سوال: (۶۵) اکثر ہندو اپنے تہوار کے روز مٹھائی بھیجا کرتے ہیں، اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۷۷۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: درست ہے۔ فقط

سوال: (۶۶) اہل ہندو دیوالی کو کھیل (۱) اور بتا شاز مینداروں کے یہاں بھیجتے ہیں، مسلمانوں کو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۲۵۸۰-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اہل اسلام کو اس کا کھانا درست ہے۔ فقط

سوال: (۶۷) جو شخص ہولی دیوالی وغیرہ تہوار ہندوؤں کا پکوان وغیرہ کھاوے اور مرغ وغیرہ بکرا مینڈھا کہ جس کے بارے میں قرآن شریف میں ﴿مَا أَهْلٌ بِهِ لَبِغٍ لِلَّهِ﴾ ہے اس کو کھاوے (تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟) (۷۰۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: کفار اگر اپنے تہوار دیوالی وغیرہ میں مسلمانوں کو کچھ ہدیہ مٹھائی وغیرہ کا حسب رواج دیویں مسلمانوں کو اس کا کھانا درست ہے، یہ امر لائق اعتراض کے نہیں ہے، اور جو جانور بتوں پر چڑھایا جاوے یا بتوں کے نام پر چھوڑا جاوے وہ ﴿مَا أَهْلٌ بِهِ لَبِغٍ لِلَّهِ﴾ ہے، اس کا کھانا مسلمانوں کو درست نہیں ہے۔

ہندو اپنی شادی غمی میں مٹھائی یا کھانا بھیجے یا دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۶۸)..... (الف) اگر ہندو اپنی شادی غمی کی تقریب میں کوئی کھانا مٹھائی وغیرہ مسلمان کے یہاں بھیجے وہ کھانا پاک ہے یا نہیں؟ اور اس کا کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

(۱) کھیل: بھنے ہوئے چاول یا انانج جو پھول گیا ہو (فیروز اللغات)

(ب) اگر ہندو مسلمان کی دعوت کرے تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ ان کے گھر مزامیر، تاشہ، باجا وغیرہ نہ ہو تو ان کے گھر جا کر کھانا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر ہو لیکن مکان دعوت میں نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۸/۱۳۵۲)

الجواب: (الف) وہ کھانا پاک سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس کا کھانا درست ہے۔  
(ب) اگر باجا مزامیر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے، اور جب کہ مزامیر مکان دعوت میں نہیں ہے تو گنجائش ہے کہ مسلمان وہاں کھانا کھالیں۔ فقط

پھل دار درخت کی نشوونما کے لیے خنزیر کا گوشت یا خون اور شراب

ڈالی گئی ہو تو اس کا پھل کھانا اور اس کی لکڑی پر نماز پڑھنا جائز ہے  
سوال: (۶۹) گوشت یا خون وغیرہ خنزیر کا یا شراب کسی پھل دار درخت میں بجائے کھاتے کے ڈالا جائے اور اس کی نشوونما اس سے ہوئے تو اس کا پھل کھانا اور اس کی لکڑی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۹۶)

الجواب: اس درخت کا پھل کھانا اور اس کے تختہ وغیرہ پر نماز پڑھنا درست ہے اور وہ پھل اور لکڑی پاک ہے۔

خنزیر کی چربی یا خون یا شراب حلال جانور کے

جسم پر ملی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے

سوال: (۷۰) خون یا چربی خنزیر کی یا شراب اگر حلال جانور کے جسم پر ملی گئی ہو، تو اس کا گوشت کھانا اور اس کے چمڑے پر نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہ؟ (۱۳۳۷/۲۳۹۶)

الجواب: گوشت کھانا اس جانور کا درست ہے اور چمڑا دھونے سے پاک ہو جائے گا، بعد دھونے کے اس پر نماز درست ہے۔

ترکاری وغیرہ کی نشوونما پاک پانی سے ہوئی ہو تو اس کا کھانا جائز ہے

سوال: (۷۱) اکثر بڑے شہروں میں محض غلیظ پانی سے جو شہروں سے نکلتا ہے لوگ ترکاری وغیرہ کاشت کرتے ہیں، اور ان کا نشوونما اس نجس پانی سے ہوتا ہے، ان اشیاء کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۷۶/۱۳۳۵ھ)

الجواب: جائز ہے۔ کما هو ظاهر ومنصوص کیونکہ غلاظت کا اثر ان ترکاریوں اور پھلوں میں سرایت نہیں کرتا، حدیث شریف میں ہے: زكاة الأرض يسهل (۱) اور یہی حکم اشجار و زراعت وغیرہ کا ہے جو کہ متصل بالارض ہیں۔ فقط

گوشت دم مسفوح میں آلودہ ہو جائے تو

تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے

سوال: (۷۲) پاک صاف گوشت اگر دم مسفوح میں آلودہ ہو جائے یا یہود و نصاریٰ کے خون آلودہ ہاتھ لگ جائیں، اس گوشت کو کس طور سے پاک کر کے کھائیں؟ (۱۳۳۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، شامی میں ظہیریہ سے منقول ہے: ولو صببت الخمرة في قدر فيها لحم: إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثاً الخ (۲) (الشامی: ۲۲۳/۱) فقط

کھانے میں پسینہ اور آنسو گر جائے تو کھانا حلال ہے

سوال: (۷۳) اگر کھانے میں پسینہ اور آنسو گر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۵۳۳ھ)

(۱) عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يسهل (المصنف لابن أبي شيبة: ۴۳۰-۴۳۱، كتاب الطهارة، قبيل باب من قال: إذا كانت جافة فهو زكاتها، رقم الحديث: ۶۲۹، المطبوعة: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان)

(۲) رد المحتار: ۴۷۱/۱، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في تطهير الدهن والعسل.

الجواب: آنسو اور پسینہ پاک ہے، اگر وہ کھانے میں گرے کھانا درست ہے۔ فقط

عورت کا دودھ آٹے میں گر جائے تو اس آٹے

کی روٹی اس کا شوہر کھا سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۴) ایک بچہ والی عورت کا آٹا گوندھتے وقت پستان سے اس قدر دودھ خارج ہوا کہ آٹے میں گر گیا، اب وہ آٹا یا اس کی روٹی اس عورت کا شوہر کھا سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۳۱۵)  
الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ سوائے بچہ شیر خوار کے کسی کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس آٹے کو کوئی بھی نہ کھاوے، نہ اس عورت کا شوہر نہ کوئی دوسرا شخص، لیکن حرمت رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوتی، پس اگر اس عورت کے شوہر نے بھی اس آٹے کو کھایا تو اس کی عورت اس پر حرام نہ ہوگی۔ فقط

سوال: (۷۵) اگر آٹا گوندھتی ہوئی عورت کا دودھ آٹے میں گوندھ کر استعمال اور کھانے میں آجاوے تو شوہر اگر کھالیوے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس دودھ کا مالک کون ہے؟  
(۱۳۴۱/۲۴۶۷)

الجواب: اس دودھ کا مالک کوئی نہیں ہے اور شوہر کو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ لہٰذا جزء آدمی (۱) اور اگر شوہر نے وہ آٹا کھالیا یا دودھ اپنی زوجہ کا پی لیا تو اس سے نکاح میں کچھ خلل نہیں آیا، مگر کھانا اس کا حرام ہے۔ فقط

کھانے میں چوہے کی میٹگنی پک جاوے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۷۶) اگر کھانے میں چوہے کی میٹگنی پک جاوے تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟  
(۱۳۴۰/۱۹۹۷)

(۱) لآئہ جزء آدمی والانتفاع بہ لغیر ضرورة حرام علی الصّحیح، شرح الوہابیة (الدرّ مع الردّ: ۲۹۴/۴، کتاب النکاح، باب الرّضاع)

الجواب: اس کا کھانا درست ہے (۱) فقط

جس جانور کے ساتھ وطی کی گئی ہو اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۷۷) زید نے کسی حلال جانور کے ساتھ وطی کی، تو اس جانور کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۵۲۶ھ)

الجواب: شامی میں ہے: اس جانور کو ذبح کر کے جلادیا جاوے یعنی کھایا نہ جاوے، اور یہ حکم استحباً ہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا اس کا مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔ و یعزّر و تذبح البہیمۃ و تحرق علی وجہ الاستحباب ولا یحرم أکل لحمها بہ اھ (۲)

جواری نے جوئے کی رقم سے جو مٹھائی خریدی ہے اس کا کھانا درست نہیں

سوال: (۷۸) جواری جو اکیل کر اسی روپیہ سے مٹھائی لایا تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۸/۵۰۲ھ)

الجواب: کھانا اس کا درست نہیں ہے اور نقدی جو کچھ اس میں سے وہ دیدے اس کا لینا بھی درست نہیں ہے۔ فقط

تاش کھیلنے والے کا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۷۹) تاش کھیلنے والے کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۶۸ھ)

الجواب: تاش کھیلنا حرام ہے، لیکن اس کے گھر کا کھانا درست ہے۔ فقط

(۱) خبزٌ وُجد فی خلّالہ خِرءُ فأرة، فإن کان الخِرءُ ضَلْباً رُمي بہ وأُکِل الخبزُ، ولا یفسد خِرءُ الفأرةِ الدّهنَ و الماءَ و الحنطةَ للضرورةِ إلّا إذا ظہر طعمُہ أو لونُہ فی الدّهنَ و نحوه لفحشہ و إمكان التّحرّز عنہ حیثُذ. خانیة (الدّر المختار) وفي الشّامي: وفي القهستانی عن المحيط: خِرءُ الفأرة لا یفسد الدّهنَ و الحنطةَ المطحونةَ ما لم يتغیّر طعمُہا، قال أبو اللّیث: وبہ نأخذ (الدّر المختار و الشّامي: ۳۷۶/۱۰، کتاب الخنثی مسائل شتی)

(۲) الشّامي: ۲۷۳/۱، کتاب الطّہارة، قبیل مطلب فی رطوبة الفرج .

پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والوں کے ہاتھ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۸۰) جو لوگ طریقہ طہارت نہیں جانتے، پیشاب کے بعد کلوخ تو درکنار پانی بھی نہیں لیتے، اسی کپڑے میں تالاب میں نہاتے ہیں، تمام بدن کو چھینٹ لگتی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ کی چیز کھانا اور ان کا لوٹا وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر سب لوگ ایسے ہوں تو عموم بلوی کی بناء پر جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۹۵۰ھ)

الجواب: جب تک ان کے ہاتھوں کا بالیقین نجس ہونا معلوم نہ ہو درست ہے۔ فقط

بے نمازی نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اس کا کھانا جائز ہے

سوال: (۸۱) إِنْ أَكَلَ مَا مَسَّهُ تَارَكَ الصَّلَاةَ هَلْ يَبَاحُ أَوْ يَكْرَهُ؟ (۱۳۳۴-۳۳/۷۷۷ھ)

الجواب: بياح ولا يكره، كيف! ولا يكره ما مسه الكافر. فقط

ترجمہ: سوال: (۸۱) بے نمازی نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اس کا کھانا مباح ہے یا مکروہ؟  
الجواب: مباح ہے، مکروہ نہیں، کیسے مکروہ ہوگا! جب کہ کافر کا مس کیا ہوا (یعنی کافر نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہو وہ) مکروہ نہیں۔ فقط

افطاری کا کھانا جو مسجد میں بھیجا جاتا ہے اس کو کون کھا سکتا ہے؟

سوال: (۸۲) افطاری جو مسجد میں بھیجی جاتی ہے اس کو غیر صائم بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا افطاری طالب علم و مؤذن کو غیر مالک دے سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۲۳۱۸ھ)

الجواب: اس میں جو کچھ عرف ہو اس کے موافق عمل درآمد ہو سکتا ہے، شرعاً اس میں وسعت ہے کیونکہ افطاری بھیجنے والوں کی نیت تنگی کی نہیں ہوتی۔ فقط

جو گوشت کافر خرید کر لایا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳) اس زمانے میں مسلمان لوگ کافروں سے بازار سے سودا منگاتے ہیں، حتیٰ کہ

گوشت بھی ان سے خریدوا کر منگاتے ہیں، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں عقیقہ و قربانی کا گوشت ان کے ہاتھ بھیجتے ہیں، اس گوشت کا کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۱۷۹ھ)

الجواب: اقول و باللہ التوفیق: یہ صحیح ہے کہ جو امور سوال میں درج ہیں کہ کافروں کے ہاتھ اشیاء بازار سے منگانا اور ان کے ہاتھ ہدایا وغیرہ بھیجنا؛ ان امور میں کافر کا قول معتبر ہے، مگر کافر سے گوشت خریدنے میں اور منگانے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بسا اوقات وہ مذبحہ غیر مسلم یا غیر مذبحہ کا گوشت مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ ذبیحہ مسلم ہے معتبر نہیں ہے۔ کما فی الشامی عن جامع الجوامع لأبي يوسف رحمه الله: من اشترى لحماً فعلم أنه معجوسى و أراد الرد، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله اهـ و مفاده أن مجرد كون البائع معجوسياً يثبت الحرمة، فإنه بعد إخباره بالحل بقوله: ذبحه مسلم كره أكله فكيف بدونه! تأمل (۱) فإنه موضع الاحتياط. فقط

سوال: (۸۴) گوشت مشرک کے ہاتھ منگایا جائے اور دکان سے لاوے اور ہماری نظر سے غائب ہو، جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۵۰۹ھ)

الجواب: گوشت میں احتیاط کرنی چاہیے، مشرک کے ہاتھ نہ منگایا جائے، اس میں فقہاء نے حرمت کا حکم فرمایا ہے۔ کذا فی الشامی (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### قبرستان میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۸۵) قبرستان میں طعام کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ قبروں پر طعام فاتحہ دے کر تقسیم کرنا جائز ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ (۱۳۴۲/۲۷۱۳ھ)

الجواب: جواز میں تو کچھ تردد نہیں ہے، البتہ قبرستان میں کھانا غیر اولیٰ یعنی مکروہ تنزیہی سمجھا گیا ہے، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے: أكثروا ذکرها ذم اللذات یعنی الموت (۲) اس حدیث

(۱) الشامی: ۴۱۹/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

(۲) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الحديث (جامع الترمذی: ۵۷/۲، أبواب الزهد - باب ما جاء في ذكر الموت)



سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکرِ موت لذات میں اشتغال کو روکتا ہے، باقی یہ جو آپ نے نقل کیا ہے کہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ قبروں پر طعام فاتحہ دے کر باٹنا جائز ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ علمائے محققین کے مسلک کے خلاف ہے قبور پر کھانا تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اور فاتحہ کھانے پر دینا بدعت ہے اس کو علمائے محققین نے ناجائز فرمایا ہے۔ فقط

### لا علمی میں ناپاک چیز کھالی تو کچھ مواخذہ نہیں

سوال: (۸۶) دو شخصوں نے غلطی اور نادانگی سے ناپاک چیز کھالی، بعد توبہ کے ان کو شریک کر لیا گیا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۰۵۴ھ)

الجواب: لا علمی کی وجہ سے اگر ناپاک چیز کھائی گئی تو اس میں کچھ مواخذہ نہیں ہے اور کچھ گناہ نہیں ہوا، قرآن شریف میں ہے: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۶) اور حدیث شریف میں ہے: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (۱) پس جب کہ آیت اور حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بھول چوک اور لا علمی میں کوئی امر سرزد ہو جانے سے مواخذہ اور گناہ نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں کو جن سے لا علمی میں کوئی ناپاک چیز کھائی گئی کچھ خطا وار نہ سمجھنا چاہیے، اور ان کو برادری سے علیحدہ کرنا نہ چاہیے، اور کھانا پینا ان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ فقط

### ریلوے کی زمین میں ترکاری بو کر کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۸۷) حدود ریلوے کے اندر جو زمین سرکاری پڑی ہے اس میں ترکاری بونا اور سرکاری ٹل سے پانی دینا اور ترکاری بو کر اور پرورش کر کے ملازمان سرکار کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۸۸۲ھ)

الجواب: جب کہ عرفاً اس سے نہیں روکا جاتا تو درست ہے۔

(۱) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (طب) عن ثوبان (صح) (الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي)، ص: ۲۷۳، رقم الحديث: ۴۴۶۱، حرف الرّاء، المطبوعة: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت)

## برادری کے نام سے موسوم کھانا مَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں داخل نہیں

سوال: (۸۸) ایک قوم میں رواج ہے کہ وہ لوگ شادی میں کچھ طعام یا شیرینی برادری کو تقسیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ طعام اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے تو اس کو نہیں کھاتے، اور کہنے والے کو مطعون کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے نام کا کھاتا ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فقیر اور محتاج ہیں۔ سو یہ طعام جو برادری کے نام سے پکارا گیا ہے یہ مَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں تو نہیں ہے؟ اور اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۱۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: وہ طعام مَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں داخل نہیں ہے، اور کھانا اس کا اس وجہ سے حرام نہیں ہے، لیکن بہ وجہ مداخلت ریاء وسمعه وغیرہ ایسا کھانا اچھا نہیں ہے، اور اللہ کے نام کا کھانا دو قسم کا ہوتا ہے: ایک صدقہ اور ایک ہدیہ، صدقہ فقراء کا حق ہے اور ہدیہ سب کو درست ہے۔ فقط

## غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جو کھانا پکا یا گیا ہے اس کا کھانا درست نہیں

سوال: (۸۹) ہندو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جو کھانا پکاتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے؟ مثلاً تہواروں میں جو کھانا پکا کر تقسیم کریں اس کا کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۴۶/۳۹-۱۳۴۰ھ)

الجواب: غیر اللہ کی تعظیم کا جو کھانا ہندو یا مسلمان پکاوے اس کا کھانا درست نہیں ہے، باقی اگر اپنے تہواروں میں ہندو لوگ مسلمانوں کو شیرینی وغیرہ بہ طور ہدیہ اور خوشی کے دے دیں، اس کا لینا اور کھانا جائز ہے جیسا کہ دیوالی میں ہندو لوگ مٹھائی وغیرہ خوشی کی وجہ سے دیتے ہیں، اس کا لینا اور کھانا درست ہے۔

## جوشیرینی اولیاء کے مقابر پر چڑھائی جاتی ہے

### اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۰) زید کہتا ہے جوشیرینی مقابر اولیاء پر چڑھائی جاتی ہے اس کا کھانا درست ہے،

آیا شرعاً اس شیرینی کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ غیر جاندار چیز مَّا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں داخل ہو کر ممنوع نہیں ہو سکتی، البتہ جاندار ممنوع ہو جاتا ہے۔ (۱۳۳۶ھ-۳۵/۲۷۸)

الجواب: اس کا کھانا درست نہیں ہے، جاندار میں اہلال لغیر اللہ سے وہ جانور قطعی حرام ہو جاتا ہے (۱) اور غیر جاندار دیگر مَّا کولات میں بھی اہلال لغیر اللہ اور تقرب الی غیر اللہ خباثت پیدا کرتا ہے۔ فقط

### کنڈوں اور اپلوں سے کھانا پکانا جائز ہے

سوال: (۹۱)..... (الف) حلال جانوروں کے گوہر سے کھانا پکانا اور کھانا جائز ہے یا نہ؟

(ب) اور حرام جانوروں کے گوہر سے بھی جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۵ھ-۴۳/۵۰۳)

الجواب: (الف) جائز ہے لعموم البلوئی، کذا فی الدر المختار (۲)

(ب) یہ بھی جائز ہے۔ فقط

سوال: (۹۲) کنڈے (اپلوں) سے کھانا پکانا جائز ہے یا نہیں؟ یا کوئی کراہت ہے؟

(۱۳۳۳ھ-۳۲/۱۳۶۱)

الجواب: جائز ہے۔ لایکون نجساً رماداً قذراً وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار (۳) (در مختار) فقط

(۱) تفصیل کے لیے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۴۳۲/۱۵ - ۴۳۴ ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲

(۲) قوله: (و يطهر زيت الخ) ..... فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة، و كان فيه بلوى عامة ..... وعذرة صارت رماداً أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف الخ (رد المحتار: ۴۵۰/۱، کتاب الطهارة - باب الأنجاس)

قوله: (والحرق كالغسل) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء ..... ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رماداً طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت الخ (الشامي: ۳۷۹/۱۰)

کتاب الخنثی - مسائل شتی

(۳) الدر المختار مع الشامي: ۴۶۳/۱، کتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب العرقی الذي يستقطر من دُردي الخمر نجس حرام إلخ .

سوال: (۹۳) گائے بھینس وغیرہ کے ایلوں اور کندوں میں روٹی اور ہانڈی پکانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۲ھ)

الجواب: روٹی اور ہانڈی پکانا اس میں درست ہے۔ فقط

جس گھی میں حرام جانوروں کی چربی ملانے کا شبہ ہو اس کا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۹۴) کلکتہ کے بازاروں میں جو گھی بکتا ہے اس کے متعلق یہ شبہ پہلے سے تھا کہ اس میں چربی ملی رہتی ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ کس چیز کی چربی ملائی جاتی ہے، اب مارواڑی اور برہمنوں نے اس کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی قائم کی، جس میں بعض راجا اور بعض گورنمنٹ افسر بھی شریک تھے، اس کمیٹی نے آڑت دار گھی والوں کی بھی کھانا سے اور ڈاکٹروں کے ذریعہ سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بلا امتیاز ہر قسم کے حلال و حرام جانوروں کی چربی ملائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ کتابلی اور سانپ کی چربی تک ملائی جاتی ہے، اور عموماً بازار کا کوئی گھی بلا چربی کا نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو ان کارخانوں کا گھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء حلال بتاتے ہیں اور بعض حرام بتاتے ہیں۔ (۱۳۳۵/۱۷۱۰ھ)

الجواب: ازراہ فتویٰ حلال ہے (۱) کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے: یقین لا یزول بالشک (۲) فقط

کوئی حلال و طاهر چیز احتمال غلاظت سے ناپاک نہیں ہوتی

سوال: (۹۵) مسلمان کو ہندو اور خصوصاً بھنگی چمار سے گھی خریدنا جائز ہے یا نہ؟ اگر جائز ہے تو وہ گھی ان کی غلاظت کی وجہ سے پاک رہتا ہے یا نہ؟ اگر ایسا گھی کھانے کے بعد معلوم ہو تو کیا کرے؟ اور مسلمان دکان داروں کو اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہ؟ خصوصاً جب کہ غیر مسلم

(۱) لیکن مذکورہ کارخانوں کے گھی میں حرام جانوروں کی چربی ملانے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو

ان کارخانوں کا گھی خریدنا اور کھانا مناسب نہیں، جیسا کہ اگلے سوال کے جواب میں آرہا ہے۔ ۱۲ محمد امین

(۲) الدر مع الرد: ۱/۲۵۱، کتاب الطہارۃ - مطلب فی ندب مراعاة الخلاف إذا لم یرتکب مکروہ مذہبہ .

اقوام ہر طرح مسلمانوں کے خلاف ہوں اور اس گھی میں غلاظت ملا کر فروخت کرنے کا اندیشہ ہو۔

(۱۳۲۵-۲۲/۳۲۵ھ)

الجواب: غیر مسلم خواہ کسی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں شرعاً ان سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، خریدی ہوئی شے کے متعلق جب تک کہ یقینی طور پر غلاظت کا حال معلوم نہ ہو نجاست کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، کسی شے کی طہارت صرف تنفر طبعی یا احتمال نجاست سے مخدوش نہیں ہو سکتی، کوئی حلال و طاهر چیز احتمال غلاظت سے ناپاک نہیں ہو سکتی۔ الیقین لا یزول بالشک (۱) قاعدہ مقررہ ہے، پس صورت مسئلہ میں ایسی قوموں سے گھی خریدنا جائز ہے، البتہ اگر ان کے برتنوں کی ناپاکی کا حال یقینی طور پر معلوم ہے تو پھر عدم جواز ظاہر ہے، غرضیکہ محض غلاظت قومی عدم جواز میں کوئی مؤثر نہیں، اصل مدار شے مشتری (خریدی ہوئی چیز) کی طہارت و عدم طہارت پر ہے، تاہم گھی میں اگر غلاظت کا اندیشہ ہے تو خریدنا مناسب نہیں، مصالح اسلامی اور حمیت دینی کا تو بہر حال یہی اقتضا ہے کہ غیر مسلموں خصوصاً ہنود سے تو کسی قسم کے بھی تجارتی تعلقات نہ رکھے جائیں، جب کہ دوسری قومیں ہر ممکن ذرائع سے مسلمانوں کی تذلیل کے درپے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنی قومیت اور وقار مذہبی کو پائمال کر کے ان سے اس قسم کے معاملات رکھیں، ضرورت ہے کہ تجارتی لین دین کا تمام تر مدار آپس ہی میں رہے۔ فقط

میت کے پسماندگان کو جو کھانا دیا جاتا ہے

وہ کھانا دیگر رشتہ دار کھا سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: (۹۶) میت کے وارثان کو جو کھانا تین یوم تک دیا جاتا ہے تو سوائے وارثان میت

کے دیگر رشتہ داروں کو وہ کھانا درست اور جائز ہے یا نہیں؟ (۲۴۵/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: جو خاص رشتہ دار شریک رنج و راحت ہوں ان کو کھانا درست ہے۔ فقط

اہل میت کا اپنے گھر کھانا پکانا کیسا ہے؟

سوال: (۹۷) اگر اہل میت اپنے گھر کھانا پکائیں تو کیسا ہے؟ (۱۵۲۰/۱۳۴۱ھ)

الجواب: اپنے لیے اگر پکاویں تو جائز ہے اور اگر ضیافت کے طور پر پکاویں تو مکروہ ہے۔ کما فی الشامی عن الفتح: و یکره اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل المیت الخ (۱) فقط

### ایام ماتم میں کھانا کھلانا درست نہیں

سوال: (۹۸) اہل میت ایام ماتم میں اپنے اعزاء و اقرباء کو کھانا کھلاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۸۶/۱۳۳۲ھ)

الجواب: یہ کھانا کھلانا اہل میت کو درست نہیں ہے۔ کما صرح به الفقهاء: یکره اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل المیت، لأنه شرع في السّرور لا في السّرور (۲) فقط

### میت کے نام کا کھانا کھانا

سوال: (۹۹) میت کے نام کا طعام کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۳/۵۹۳ھ)

الجواب: فقراء کو درست ہے اور اغنیاء کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فقط

### سود خوار کے یہاں کھانے کا حکم اور اغنیاء کو

### کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟

سوال: (۱۰۰) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سود خوار کے یہاں دعوت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ بہ صورت عدم جواز شرکت کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ ہے یا نہیں؟ اگر مکروہ ہے تو تحریمی یا تنزیہی؟ اگر کوئی امام مسجد کسی سود خوار کے یہاں برابر خور و نوش رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر کوئی شخص ایصالِ ثوابِ میت کے لیے دعوت عام کرے جس میں اغنیاء کو بھی دعوت دے تو اغنیاء کو کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور ایسی دعوت میں اغنیاء کو

(۱) رد المحتار: ۱۰/۲۹۷، کتاب الوصایا - قبیل باب الوصیة بثلاث المال .

(۲) رد المحتار: ۳/۱۳۸، کتاب الصلوة، باب صلاة الجنابة - مطلب في كراهة الضیافة من أهل المیت.

شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ بہ صورت ممانعت حرام ہے یا مکروہ تنزیہی؟ بیسوا بالاستدلال  
توجروا من العزیز المتعال۔ (۱۶۸۵/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر آمدنی اس کی مخلوط ہے تو اس کے گھر کا کھانا از روئے فتویٰ جائز ہے اور احتیاط  
کرنا اچھا ہے، اور نماز اس کے پیچھے صحیح ہے، اور میت کے لیے ایصالِ ثواب کا جو کھانا ہو وہ خاص  
فقراء و غرباء و مساکین کو کھلانا چاہیے، اغنیاء کے لیے وہ طعام کھانا اچھا نہیں ہے، اگرچہ ثواب اس  
میں بھی ہے مگر فقراء کے کھلانے سے کم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### برائے ایصالِ ثواب جو چیز دی جائے وہ صدقہ ہے

سوال: (۱۰۱) ترجمہ فتاویٰ عزیزی میں ہے کہ اگر کوئی چیز بزرگانِ دین کے نام برائے ایصال  
ثواب لوجہ اللہ تعالیٰ مالیدہ وغیرہ کے فاتحہ کر دیا جائے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا غنی و فقیر  
سب کو جائز ہے، اسی طرح ایک اور حدیث بہ حوالہ فتاویٰ برجندی دوسری کتاب میں دیکھی گئی، جس  
کا حاصل یہ ہے کہ سرورِ عالم ﷺ نے اپنے صاحب زادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا فاتحہ فرمایا، اور  
الحمد و چاروں قل پڑھے، پھر اس کو حاضرین میں تقسیم کی، بزرگانِ دین کا فاتحہ دینے سے وہ متبرک  
ہو جاتی ہے یا نہ؟ اس کھانے کو فقی و فقیر سب کھا سکتے ہیں یا محض مساکین کا حق ہے؟ برجندی کی  
حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۹۲۶ھ)

الجواب: جو چیز برائے ایصالِ ثواب بزرگانِ دین یا عوام مؤمنین لوجہ اللہ دی جائے وہ صدقہ  
ہے، وہ خاص فقراء و مساکین کا حق ہے اگرچہ صدقہ نفل ہونے کی وجہ سے اغنیاء کو بھی دیا جاسکتا ہے،  
لیکن زیادہ ثواب فقراء کے دینے میں ہے، اور اغنیاء کو لینا اور کھانا صدقہ کا اچھا نہیں ہے، اور حدیث  
مذکور جو برجندی سے نقل کی گئی ہے ثابت نہیں ہے، اور صحیح حدیثوں میں صدقہ کو أوساخ الناس  
فرمایا ہے (۱) اس لیے سادات کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور آنحضرت ﷺ نے

(۱) عن عبدالمطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .....  
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس و إنما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه  
وسلم رواه مسلم (الصحيح لمسلم: ۱/۳۳۵، كتاب الزكاة - إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه  
وسلم إلخ)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سے لے کر پھینک دیا تھا اور یہ فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے (۱) فقط

## مدارس میں زکاة کی رقم سے جو کھانا پکتا ہے

اس کو مدرسین خرید کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: (۱۰۲) ایک مدرسہ میں چند یتیم لڑکے پڑھتے ہیں، ان کے خور و نوش کے واسطے متولی مدّ زکاة سے روپیہ دیتا ہے، اور مدرسہ کے بعض مدرسین جو بہ وجہ سادات یا صاحبِ نصاب ہونے کے مستحق زکاة کے نہیں ہیں، اس طرح شریک ہو کر کھاتے ہیں کہ جو خوراک ماہواری فی کس پڑتی ہے اپنی تنخواہ لا کر ہر ماہ میں اسی حساب سے مدّ زکاة میں جمع کر دیتے ہیں؛ آیا ان لوگوں کو اس طرح شریک ہو کر کھانا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۹/۳۲۰ھ)

الجواب: اس طرح شریک ہو کر کھانا اور اپنے کھانے کا روپیہ حساب کر کے دے دینا درست ہے، کیونکہ شریعت میں حرج اور تنگی نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (سورہ حج، آیت: ۷۸) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْيَتَامَى: ﴿وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲) فقط

## مشترک کھانے میں سے کوئی کم کوئی زیادہ کھائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۳) چند آدمی پکوا کر کھانا کھاتے ہیں اور سب کا حصہ برابر ہے، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ضرور کھانے میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی خوراک زیادہ ہے تو کسی کی کم ہے۔ (۱۳۳۵/۱۳۳ھ)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرًا من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كَخْ كَخْ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا ناكل الصدقة. متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۱۶۱، كتاب الزكاة، باب من لا تحل له الصدقة، الفصل الأول)



الجواب: اس طرح پکوا کر کھانا جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم

## بالغ اور نابالغ بھائیوں کا کھانا شرکت میں

پکیتا ہے، ان کی دعوت کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۱۰۴) ایک مورث کے چار لڑکے ہیں، ان میں ایک نابالغ ہے، مال مورث تقسیم نہیں ہوا، کھانا شرکت میں پکیتا ہے، اگر کسی کو دعوت کھلائیں تو کھانا درست ہے یا نہیں؟ کس مدت تک پرہیز چاہیے؟ (۳۳/۲۰۸-۱۳۳۴ھ)

الجواب: بالغین کو اپنے حصہ میں سے ضیافت کرنا اور کھانا کھلانا جائز اور درست ہے، پس کھانے والے کو بھی اس کا کھانا درست ہے، حاصل یہ ہے کہ اس قسم کے اخراجات کو بالغین اپنے حصہ میں لگائیں اور حساب کریں، نابالغ کی طرف ایسے اخراجات نہ لگائیں آمد اور خرچ کا پورا حساب رکھیں، ضروریات نابالغ کا حساب علیحدہ رکھیں، اپنے زائد اخراجات کو اس کے حصہ میں نہ لگائیں، اس کے بالغ ہونے تک اس کی ضرورت ہے، بعد بلوغ جس خرچ کی وہ اجازت دے جائز ہے، اور بلوغ کا حکم پندرہ برس کی عمر میں ہوتا ہے، جب کہ کوئی دوسری علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو۔

جس کی آمدنی سود کی ہے وہ کھانا بھیجے تو جس کے

یہاں کھانا بھیجا ہے اس کا ملازم کھا سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۰۵) ایک شخص نے جس کی آمدنی سود کی ہے کچھ گوشت روٹی اس شخص کو بھیجا جس کے یہاں میں ملازم ہوں، اہل خانہ نے مجھے بھی اس کھانے میں شریک کر لیا، بندہ کے لیے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۵/۲۸۹-۱۳۳۶ھ)

الجواب: ازراہ فتویٰ آپ کو وہ کھانا درست ہے۔ فقط

جو شخص صاحبِ نصاب ہے اس کو نذر و نیاز اور سود کی

رقم سے تیار کردہ کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے

سوال: (۱۰۶) ایک شخص صاحبِ نصاب ہیں، جو ایک محلہ کی مسجد میں امام مقرر ہیں، اہل محلہ نے ان کے کھانے کا انتظام اس طور سے کیا ہے کہ ایک دن ایک گھر سے دو وقتہ کھانا آجائے، اور دوسرے روز دوسرے گھر سے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ موافق رفتار زمانہ کے اہل محلہ رسومات کے پابند ہیں اور موافق عادت و رسم کے جو کھانا اس روز کے واسطے مقرر کر رکھا ہے مثلاً شب براءت کے روز حلویہ، دہم محرم کو کھچڑا، چڑیوں کے روز گلگلے، یار جب کی خاص تاریخ میں مالیدہ وغیرہ وستائسویں رمضان المبارک کو جلیبیاں لاکر مسجد میں تقسیم کرتے ہیں، اور امام صاحب کو ان میں سے دو حصہ امامت کے دیتے ہیں، پس ایام مذکورہ بالا میں اطعمہ مذکورہ ہی امام صاحب کے واسطے جس گھر کے کھانے کا نمبر ہو صاحب خانہ بھیجتا ہے، و نیز جب شادی ہوتی ہے تو اہل شادی وہ کھانا جو اس نے سودی روپیہ لے کر شادی میں کیا، پہلے امام صاحب کو بھیجتا ہے؛ اس صورت میں امام صاحب کو اطعمہ مذکورہ کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ (۱۶۳۶/۱۳۳۷ھ)

الجواب: صاحبِ نصاب کو اس قسم کے کھانے نذر و نیاز و رسومات کے نہ کھانا چاہئیں اور جس کے گھر نمبر ہو اس کے گھر سے جو کھانا آوے اگرچہ اس کا کھانا درست ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ سودی روپیہ سے جس نے کھانا کیا ہو یا رسمیات زمانہ کے موافق کیا ہو اس میں سے نہ کھائے، اگرچہ اس کا نمبر ہی ہو، بلکہ وہ کھانا فقراء کو دے دے، اور دوسرا کھانا اپنے پاس سے ہو یا حلال طریقے سے ملے وہ کھائے۔ فقط

صاحبِ نصاب امام کا اہل محلہ سے روٹی لینا درست ہے

سوال: (۱۰۷) امام مسجد کو محلہ والوں سے روٹی لینا اور صدقات وغیرہ لینا جائز ہے یا نہ؟ اور امام مالکِ نصاب ہے۔ (۳۳/۶۱-۱۳۳۴ھ)

الجواب: امام مسجد اگر مالکِ نصاب بھی ہو تو اس کو روٹی محلہ والوں سے لینا درست ہے۔ فقط

نابالغ طلبہ کی باقی ماندہ روٹی فروخت کر کے اس کی رقم ان پر خرچ کرنا

سوال: (۱۰۸) نابالغ طلباء کی روٹی اگر باقی رہ جائے اور اس کو بلا دریافت روٹی دینے والے کے مدرس یا مہتمم اس روٹی کو فروخت کر کے ان طلباء کے کپڑے وغیرہ میں صرف کر دے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲ھ-۳۳/۶۴۸)

الجواب: روٹی دینے والے سے تو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روٹی ملک اس نابالغ کی ہوگئی، پس باقی ماندہ روٹی کو اگر انہیں طلباء کے کام میں لائی جاوے تو درست ہے۔

معاونین مدرسہ کی مدرسہ کے فنڈ سے دعوت کرنا

سوال: (۱۰۹) بعض دفعہ معاونین مدرسہ کے لیے مدارس کی طرف سے کوئی دعوت یا ارسال پھل وغیرہ یا تحائف پیش کرنے کی نوبت آتی ہے، جس کے پیش کرنے میں محض مدرسہ کی بہبودی و مصلحت اور نفع متصور ہوتا ہے، آیا شرعاً یہ خرچ مدارس سے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۲۶۶)

الجواب: اس قسم کے اخراجات مدرسہ سے کرنا درست ہے کہ مصلحت مدرسہ اس کو مقتضی ہے، اور ایسے مصالح میں خرچ کرنے کی اہل چندہ کی طرف سے دلالت اجازت ہوتی ہے۔

شادی کا بچا ہوا کھانا اللہ واسطے دینا

سوال: (۱۱۰) شادی کا بچا ہوا کھانا اللہ واسطے دیں تو کیسا ہے؟ (۱۳۳۷ھ/۱۸۰۵)

الجواب: یہ درست ہے، فقراء کو اس کا لینا اور کھانا درست ہے۔

ہندو کے گھر کھانا کھانا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۱۱) ہندو کے گھر کی روٹی مسلمان کو کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۰ھ-۲۹/۲۶۶)

الجواب: ہندو کے گھر کی روٹی مسلمان کو کھانا درست اور جائز ہے۔ فقط

سوال: (۱۱۲) مسلمان ہندو کے گھر کا کھا لیتے ہیں، چمار کے اور بھنگی کے گھر کا کیوں نہیں

کھاتے؟ (۲۹/۲۹۶-۱۳۳۰ھ)

الجواب: سب کفار برابر ہیں، اگر ان کے برتنوں اور کھانے کی نجاست کا یقین نہ ہو تو درست ہے۔ لَنْ مَا عَمَّتْ بَلِيَّتُهُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ (۱)

سوال: (۱۱۳) بعض ہندو سور کھاتے ہیں اور بعض جھٹکا کھاتے ہیں اور بعض محض بیاج لیتے ہیں، تو ہندو کے گھر کا طعام کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۳۳/۴۶۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: ہندو کے گھر کا طعام پکا ہوا کھانا درست ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ سور کا گوشت ہے یا جھٹکے کا جانور ہے تو کھانا اس کا درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۱۱۴) ہندو یا دیگر اقوام اہل کتاب وغیرہ کی ضیافت مسلمانوں کو کھانا درست ہے یا نہیں؟ اور ان کے یہاں ناچ و رنگ بھی ہوتا ہے۔ (۳۳/۵۴۹-۱۳۳۴ھ)

الجواب: کھانا ہندوؤں کا کھانا درست ہے، لیکن مجلس ناچ و رنگ میں بیٹھ کر کھانا درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۱۱۵) اگر مسلمان کا حقہ ہندو دانستہ پیوے، اگر کوئی مسلمان ہندو کو اپنے ساتھ کھانا کھلاوے تو ان دونوں باتوں میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۲۲۵ھ)

الجواب: ہر دو امور مستفسرہ میں کچھ حرج شرعاً نہیں ہے، اس میں کچھ وہم نہ کیا جاوے۔

ہندو کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک ہے

سوال: (۱۱۶) ہندو کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۹۹۹ھ)

الجواب: وہ کھانا پاک ہے اور حلال ہے کھانا اس کا درست ہے۔ فقط

غیر مسلموں کی دعوت میں شریک ہونا

سوال: (۱۱۷) مسلمانوں کو غیر مسلم لوگوں کی دعوت میں شریک ہونا جب کہ وہ مسلمانوں کے

لیے بازار سے خرید کر اشیاء منگاویں جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۵/۱۳۰ھ)

(۱) البحر الرائق: ۱/ ۳۹۷، کتاب الطہارۃ، باب الأنجاس .

الجواب: مسلمانوں کو غیر مسلموں کی دعوت میں شریک ہونا جائز ہے جب کہ وہ لوگ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر انتظام کرتے ہیں تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں، مسلمانوں کو غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات رکھنے شرعاً جائز ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام الخ . وفيه: ولا بأس بالذّهاب إلى ضيافة أهل الذّمة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى (۱)

### ہندو کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنا

سوال: (۱۱۸) ہندو کی دعوت قبول کرنا اس طور سے کہ اس ہندو سے کھانے کا سامان لے کر خود انتظام کرے جائز ہے یا نہیں؟ (۴۶/۴۰۰-۱۳۳۷ھ)

الجواب: غیر مسلم کا ہدیہ اور دعوت قبول کرنا جائز ہے خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہاں سے کھانے کا سامان لے کر اپنے طور پر انتظام کیا جائے تو احترام کی کوئی وجہ نہیں۔ مسلم دعاہ نصرانی إلى داره ضيفاً الخ قال بعضهم: يحلّ له أن يذهب إلى ضيافة النصراني لأن هذا نوع من البر وأنه ليس بحرام بل هو مندوب (۲) (فتاویٰ قاضی خان باب الحظر و الإباحة)

### عیسائی کے گھر یا اس کے ساتھ کھانا کھانا

سوال: (۱۱۹) چینی فرما یند علمائے دین در باب تناول طعام اہل اسلام بہ شمولیت عیسائی؟

(۳۲/۱۵۸۵-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اگرچہ درفتویٰ جائز است بصورت کہ طہارت ظروف و طعام و حلت طعام متیقن باشد مگر مصلحت و احتیاط مقتضی خلاف آن است۔

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۵/۳۳۷، کتاب الکراہیۃ - الباب الرابع عشر فی أهل الذّمة والأحكام التي تعود إليهم .

(۲) الفتاویٰ الخانیۃ مع الہندیۃ: ۳/۴۰۱، کتاب الحظر والإباحة وما یکرہ أكله و مالا یکرہ وما یتعلّق بالضیافة .

ترجمہ: سوال: (۱۱۹) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسلمانوں کا عیسائی کے ساتھ کھانا تناول کرنا کیسا ہے؟

الجواب: اگرچہ فتویٰ میں جائز ہے اس صورت میں کہ برتنوں اور طعام کی پاکی اور طعام کی حلت کا یقین ہو، مگر مصلحت و احتیاط کے خلاف ہے۔

سوال: (۱۲۰) ایک شخص نے عیسائیوں کے ساتھ کھاپی لیا، ہم لوگوں کو عیسائیوں سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، جو شخص کلمہ محمدی سے منکر ہے وہ کافر ہے، اس کے ساتھ کھانا حرام ہے، ہمارے اہل کتاب وہ ہیں جو ہماری کتاب کو مانیں، وہ شخص کہتا ہے کہ خدا نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ کیوں کھاتے ہو؟ ہندو کے ہاتھ سے کھانا منع ہے، اگر عیسائی کے ساتھ کھالیا تو کیا منع ہے؟ وہ ہمارے اہل کتاب ہیں، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۲۳۳ھ)

الجواب: یہود اور نصاریٰ اہل کتاب کہلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہود اور نصاریٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام پر تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، پھر یہ فرقے بگڑ گئے اور اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کی، اور گمراہ ہو گئے، لیکن بایں ہمہ اب بھی یہ اہل کتاب ہی کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا مثل ہندو کے درست ہے، لیکن چونکہ وہ غیر محتاط ہیں خمر و خزیان کی غذا ہے جو کہ شریعت اسلام میں حرام ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھانے سے احتراز لازم ہے۔ فقط سوال: (۱۲۱) مسلمانوں کو عیسائی کے ساتھ کھانا درست ہے یا پرہیز کرنا چاہیے؟ اور کہاں تک؟ (۱۳۳۹/۵۱۶ھ)

الجواب: پرہیز کرنا احتیاط کی بات ہے اور مقتضائے اسلام و عمل اہل اسلام یہی ہے کہ احتراز کیا جاوے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے اور بزرگان دین کا اسی پر عمل ہے۔ فقط

### شیعوں کی شادی غمی وغیرہ مجالس میں شریک ہو کر کھانا کھانا

سوال: (۱۲۲) روافض اور شیعوں کی مجالس شادی غمی وغیرہ میں اہل سنت کو شریک ہونا اور کھانا حرام ہے یا نہ؟ (۱۳۳۳-۳۳/۳۹۹ھ)

الجواب: حرام تو نہیں ہے، مگر بچنا اس سے مناسب ہے اور اختلاط ان لوگوں کے ساتھ ممنوع

ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۱۲۳) سنا ہے کہ شیعہ اہل سنت کو بغیر نجس ملائے کوئی چیز نہیں کھلاتے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور ان کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۰/۷۰۳ھ)

الجواب: ایسا اکثر سنا گیا ہے اس لیے ان کے کھانے سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ فقط

### مزدور پیشہ لوگوں کا شیعوں اور ہندوؤں کے یہاں کھانا پینا

سوال: (۱۲۴)..... (الف) ہم لوگ شیعہ مذہب کے یہاں کاروبار کرتے ہیں اور مزدوری لیتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ درست ہے یا نہ؟

(ب) اور اہل ہندو کے یہاں بھی اسی طرح کاروبار کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۸۳۰ھ)

الجواب: (الف) روافض کی محنت مزدوری کرنا اور اجرت ان سے لینا اور کھانا پینا درست ہے۔ فقط

(ب) ہندو کے یہاں بھی درست ہے۔ فقط

### شیعوں کی دعوت قبول کرنا اور ان سے میل جول رکھنا

سوال: (۱۲۵) شیعوں کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کوئی ہدیہ طعام وغیرہ بھیجیں تو رکھے یا واپس کرے؟ کیونکہ اکثر لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کھانے میں کچھ نجس چیز ضرور حتی الامکان شامل کر دیتے ہیں اور اس کو عمدہ جانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، پھر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ لوگ شیخین رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں، اور محرم میں تو تبراکہنا عبادت جانتے ہیں۔ (۱۳۳۷/۱۳۷۴ھ)

الجواب: فرقہ شیعہ سے علیحدہ رہنا چاہیے، اور اختلاط اور موانست ان سے درست نہیں ہے۔ پس ان کی دعوت کھانا اور ان سے ہدیہ لینا دینا درست نہیں ہے، اور شیخین پر تبراکہ کرنے والے روافض

کو بہت سے مشائخ اور فقہاء نے کافر اور مرتد لکھا ہے (۱) اور شامی میں لکھا ہے کہ جو روافض اقل حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معتقد ہیں ان کے ارتداد میں کچھ تردد نہیں ہے (۲)

### قادیانی کی دعوت میں شریک ہونا اور ان سے لین دین کرنا

سوال: (۱۲۶) مرزائی جماعت جو مرزا کو نبی جانتی ہے، اور منکر نبوت مرزا کو کافر خیال کرتے ہیں، ایسے مرزائیوں کی دعوت میں شریک ہونا اور ان سے لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۷/۲۰۹۵ھ)

الجواب: ایسے مرزائیوں کے ساتھ لین دین کرنا اور ان کی دعوت میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ فقط

### مرزائی کے ساتھ کھانا پینا

سوال: (۱۲۷) مرزائی کے گھر کا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۶۸۷ھ)  
الجواب: مرزائی عقیدہ والا مرتد ہے، اس کے ساتھ مواکلت و مشاربت درست نہیں ہے۔  
سوال: (۱۲۸) مرزائی کے گھر کا پکا ہوا طعام کھانا اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۷ھ)

الجواب: مرزائی مرتد اور کافر ہیں، انبیاء علیہم السلام کی توہین سخت سے سخت مرزا کی کتابوں میں موجود ہے، پھر جب وہ کافر ہوا تو اس کے اتباع و معتقدین بھی کافر ہوئے، ان کے گھر کا کھانا اور ان کے ساتھ کھانا سب حرام ہے، اور ان کے غسل و جنازہ میں اہل اسلام کو شرکت حرام اور

(۱) أقول: نعم نقل في البزازیة عن الخلاصة: أن الرافضي إذا كان يسبّ الشّيعين ويلعنهما فهو كافر (رد المحتار: ۶/۲۸۷، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب مهمّ في حکم سبّ الشّيعين)  
(۲) نعم لاشك في تكفير من قذف السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها (الشّامي: ۶/۲۸۸، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب مهمّ في حکم سبّ الشّيعين)

قلت: وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صحبة أبيها، لأن ذلك تكذيب صريح القرآن (الشّامي: ۶/۳۱۷، کتاب الجہاد، باب البغاة، مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني المجتهدين)



نا جائز ہے۔ فقط

سوال: (۱۲۹) بہ مقابلہ قادیانی کے ہندو کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۶۷۰)۔  
الجواب: کافر ہونے کی حیثیت سے دونوں کے گھر کے کھانے کا ایک ہی حکم ہے یعنی جواز کا حکم ہے، لیکن قادیانیوں سے بالکل قطع تعلق لازم ہے، ان کے گھر کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔

### سود خوار کے گھر دعوت کھانا

سوال: (۱۳۰) زید سود کھاتا ہے، زید کا حلال مال اور کاشتکاری بھی اسی سود میں شامل ہے، اس صورت میں زید کے گھر دعوت کھانا اور میل جول کرنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۱/۱۱۳۶)۔  
الجواب: اگر زید کے مال کا اکثر حصہ حلال ہے تو اس کے ہدیہ کو قبول کرنا اور اس کے گھر میں دعوت کھانا جائز ہے، بہ صورت دیگر احتراز اولیٰ ہے، صورت اولیٰ میں اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ جو کھانا ہم کو کھلایا جاتا ہے وہ مال حرام سے ہے تو کھانا نہ چاہیے، اسی طرح اگر بہ صورت غلبہ مال حرام کے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ جو کھانا ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے وہ مال حلال سے ہے یا موروثی یا مستقرض مال سے ہے تو کھانا حلال ہے۔ اھدیٰ إلی رجل شیئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل الخ (۱)  
(عالم غیریۃ، کتاب الکراہیۃ)

سوال: (۱۳۱) خویش واقارب جو سود خوار ہوں، ان کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ مقتدا کے لیے مکروہ تحریمی ہے، مقتدا کی تعریف کیا ہے؟ (۱۳۳۷/۱۲۶۱)۔  
الجواب: سود خوار کے گھر کا کھانا کسی کو بھی نہیں (کھانا) چاہیے، نہ مقتدا کو، اور نہ غیر مقتدا کو اور مقتدا سے مراد وہ شخص ہے جو بہ وجہ علم و فضل کے لوگوں کا معتقد علیہ ہے اور اس کی پیروی عام لوگ کرتے ہوں، شیخ و درویش کامل بھی اسی حکم میں ہے۔ فقط

سوال: (۱۳۲)..... (الف) ایک شخص کاشتکاری کرتا ہے اور تجارت بھی کرتا ہے اور سود بھی

(۱) الفتاویٰ الہندیۃ: ۳۴۲/۵، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضيافات .

لیتا ہے، اس کی دعوت کھانا درست ہے؟

(ب) سود خوار کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۵۳۸ھ)

الجواب: (الف) اس سود خوار کے گھر کی دعوت کھانے سے بچنا اچھا ہے، اگرچہ جس حالت میں اس کی آمدنی کاشتکاری اور تجارت کی بھی ہو تو از روئے فتویٰ اس کا کھانا درست ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ پرہیز کیا جاوے۔

(ب) نہیں (کھانا) چاہیے۔ فقط

سوال: (۱۳۳۳) ایک شخص سود بھی لیتا ہے اور کھیتی بھی کرتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا اور اس سے روپیہ پیسہ لینا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۳۹ھ)

الجواب: اس کے گھر کھانا کھانے اور اس سے روپیہ پیسہ لینے سے حتی الوسع احتراز کرنا چاہیے۔

### سود خوار کے مکان میں رہنا

سوال: (۱۳۳۴) جو شخص سود کھاتا ہو اس سے خلا ملا رہنا یا قریب مکان کے رہنا، اس کے گھر پر کھانا کھانا، یا اس کے مکان میں رہنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴/۱۴۳۱ھ)

الجواب: سود خوار سے اجتناب مناسب ہے اور اس کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔

### رشوت خور کی دعوت کھانا

سوال: (۱۳۳۵) دعوت میں کوئی مال رشوت وغیرہ کا ہو تو دعوت کھانا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۵-۲۹/۹۰۰ھ)

الجواب: بہتر ہے کہ نہ کھاوے اگر معلوم ہو کہ رشوت کے مال سے کھلاتا ہے، ورنہ درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### رشوت خور کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۱۳۳۶) زید راج پوتانہ میں ملازم ہے، اگرچہ لا ولد ہے، مگر خرچ تنخواہ سے بہت زیادہ

ہے، اس لیے بلا رشوت کے کام چلانا دشوار ہے، اور نہ رشوت کو وہ برا خیال کرتے ہیں، پس انداز نقد و زیور میں اگرچہ تنخواہ یا رشوت کی تمیز نہیں رکھی گئی، مگر کہتے ہیں کہ زیادہ حصہ تنخواہ کا ہے، زکاۃ دینے کو کہا جاتا ہے تو نہیں دیتے، یہ کہا جاتا ہے کہ رشوت چھوڑ کر تنخواہ اور پس انداز سے بسر کیا جاوے تو نہیں مانتے، اور یہ جواب دیتے ہیں کہ زیادہ اصرار کی ضرورت نہیں، رشوت خوار دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو ان کا حشر ہوگا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بہشت اور دوزخ کیسی؟ آرام و تکلیف دنیاوی کا نام ہے، اور بکر زید کا سالہا ہے، احکام خداوندی کو حق اور صحیح جانتا ہے، رشوت کو حرام، زکاۃ کو فرض، روزی کو خدا کے ذمے سمجھتا ہے، کافر و فاسق کی دعوت کو برا سمجھتا ہے، اور بکر کے بیٹے کو زید نے متبنی کر رکھا ہے، ایسی صورت میں بکر کو زید کی دعوت قبول کرنا اور اپنے بیٹے کو زید کا متبنی رکھنا کیسا ہے؟ اور بکر کی بیوی طمع دنیاوی کی وجہ سے بیٹے کو زید کے پاس رکھنا چاہتی ہے، اگر بکر کی بیوی اور لڑکا احکام شرع میں بکر کی اطاعت نہ کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ اور بکر کو یہ لازم ہے کہ نہیں کہ اگر اس کی زوجہ اطاعت نہ کرے تو اس کو طلاق دے دے؟ اور بیٹے سے قطع تعلق کر ليوے؟

(۱۳۳۳-۳۲/۷۲۳ھ)

الجواب: زید فاسق ہے اس کی دعوت بکر کو قبول کرنا نہ چاہیے، اور اگرچہ بہ اعتبار فتویٰ بہ وجہ غلبہ آمدنی حلال زید کی دعوت قبول کرنا درست ہے، مگر تقویٰ کے خلاف ہے، اور کلمات زید کے موجب فسق ہیں اور موجب معصیت ہیں اس وجہ سے اس کی دعوت سے احتراز کرنا ضروری ہے، اور بکر کے بیٹے کے عقائد و خیالات کے بدلنے کا اگر اندیشہ ہے تو بکر کے ذمے لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی صحبت بد سے بچاوے اور نصیحت کرے، اگر وہ نہ مانے تو بکر پر مؤاخذہ نہیں ہے، اور زید سے تعلقات محبت رکھنا نہیں چاہیے کہ آیت کریمہ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا إِلَّا﴾ (سورہ مجادلہ، آیت: ۲۲) کا یہی منشا ہے، اگر بکر کا لڑکا اور بیوی احکام شرع میں بکر کی اطاعت نہ کریں تو ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے اور بیٹے سے بالکل قطع تعلق کر ليوے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاتا رہے اور نصیحت کرتا رہے، شاید کسی وقت ان کو نفع ہو جاوے۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿أَذْغِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْآيَةِ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۱۲۵) فقط

سود خوار نے توبہ کر لی ہو تو اس کے یہاں کھانا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۳۷) ایک شخص بہت سود خوار تھا اور اس کا تمام مال سود کی آمدنی سے ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اور کہتا ہے کہ میں کبھی سود نہ لوں گا اس کے یہاں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۷۷ھ)

الجواب: محض توبہ زبانی کرنے سے جو مال حرام اس نے حاصل کیا تھا وہ حلال نہیں ہوا، بلکہ اس کی توبہ کا طریق یہ ہے کہ جو مال جس سے حرام طریق سے حاصل کیا اس کو یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کر اے ورنہ صدقہ کرے، پس اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی دعوت کھانا حلال ہے ورنہ نہیں۔ قال فی الشامی: وکذا لایحل إذا علم عین الغصب مثلاً وإن لم یعلم مالکة لما فی البزازیة: أخذ مورثه رشوة أو ظلماً إذ علم ذلك بعینه لایحل له أخذه الخ (۱) فقط

### رشوت خور کی دعوت اور پان کھانا

سوال: (۱۳۸)..... (الف) زید کے باپ نے جو اکثر جائداد اپنی رشوت کی آمدنی سے خریدی ہے، اور اکثر ترقی اس کی رشوت سے ہوئی ہے، پس زید کی دعوت یا کسی قسم کا کھانا اس کا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) اگر راشی آدمی پان دیوے جس کی اکثر آمدنی رشوت کی ہو، تو اس کا پان کھانا کیسا ہے؟ اور اگر بروقت پاس خاطر یا شرم حضور میں پان لے کر منہ میں رکھ لے چبائے، لیکن کھائے نہیں نہ نگلے، باہر آ کر تھوک دے تو کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۹۶۱ھ)

الجواب: (الف) احوط ترک دعوت و ترک طعام ہے۔ وإن کان جائزاً فی الفتویٰ.

(ب) اس کا پان نہ کھائے کیونکہ جیسا کہ اس کا کھانا ہے ویسا ہی پان ہے، دونوں میں احتیاط کرے۔ فقط

سوال: (۱۳۹) ایک شخص کے یہاں پر رشوت کی آمدنی بھی ہے، اور تنخواہ بھی ملتی ہے، ایسے

(۱) الشامی: ۲۲۳/۷، کتاب البیوع - باب البیع الفاسد - مطلب فی من ورث مالا حراماً.

شخص کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۳۲ھ)

الجواب: جب تک یہ محقق نہ ہو جائے کہ اس کا یہ کھانا رشوت ہی کے مال سے ہے، تب تک کھانا جائز ہے۔ فقط

سودی قرض لے کر تجارت کرنے والوں کے یہاں کھانا پینا درست ہے

سوال: (۱۴۰) جو لوگ سودی قرض لے کر تجارت شروع کرتے ہیں ان کے یہاں کھانا پینا اور ان کا روپیہ مسجد میں لگانا درست ہے کہ نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۸ھ)

الجواب: جو لوگ سود لے کر تجارت کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں، مگر ان کے یہاں کھانا پینا درست ہے، اور ان کا مال مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔ (کیونکہ یہ لوگ سود دیتے ہیں لیتے نہیں، اس لیے ان کی آمدنی میں کوئی خباثت نہیں) فقط

طوائف کے یہاں کھانا پینا اور ان کی شادی غمی میں شریک ہونا

سوال: (۱۴۱) طوائف کے یہاں کھانا پینا اور شادی غمی میں ان کے شریک ہونا اور ان کے اقرباء کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۷۳ھ)

الجواب: طوائف کی حرام آمدنی میں سے کھانا پینا حرام ہے، اور اس کی شادی و تقریب میں شریک ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کے جنازہ کی نماز یا اس کے دیگر اقرباء کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لقولہ علیہ الصّلاة والسلام: صلّوا علی کلِّ برّ وفاجرٍ الحدیث (۱)

سوال: (۱۴۲) زانی اور زانیہ کا کیا حکم ہے؟ ان کے یہاں کھانا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۴-۳۳/۵۶۴ھ)

(۱) عن مکحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلّوا خلف كلّ برّ وفاجرٍ وصلّوا علی کلِّ برّ وفاجرٍ وجاهدوا مع كلّ برّ وفاجرٍ (سنن الدارقطني: ۱/۱۸۵، کتاب الصّلاة، کتاب العیدین، باب صفة من تجوز الصّلاة معه والصّلاة علیہ) و (سنن أبي داود: ص: ۳۴۳/۱، کتاب الجہاد، باب فی الغزو مع أئمّة الجور)

الجواب: زنا گناہ کبیرہ ہے، زانی اور زانیہ فاسق اور مرتکب کبیرہ گناہ کے ہیں، ان کے یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ فقط

### زانی کے گھر کا کھانا کھانا

سوال: (۱۴۳) زانی کے گھر کا کھانا حرام ہے یا نہ؟ (۱۳۴۲/۲۹۷)ھ  
الجواب: اس کے گھر کا کھانا حرام نہیں ہے، مگر تنبیہا احتیاط کرنا مناسب ہے۔ فقط

### شرابی کے ساتھ کھانا پینا اور اس کی شادی وغنی میں شریک ہونا

سوال: (۱۴۴) شراب پینے والے کے واسطے احکام شرع کیا ہیں؟ مسلمان اس کے ہمراہ کھانی پیتی ہیں کہ نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۷۲)ھ  
الجواب: شراب خوار فاسق و بدکار ہے اور مرتکب کبیرہ گناہ کا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے اس سے ملنا جلنا شریک شادی وغنی ہونا درست نہیں ہے، توبہ کرنا اس گناہ سے یہی اس کی پاکی اور کفارہ ہے۔ فقط

### چور کے یہاں ضیافت کھانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۴۵) ایک شخص چور ہے اور تمام مال اس کا مسروقہ ہے وہ فوت ہو گیا، بیٹا اس کا اس امر سے جاہل ہے کہ یہ مال کس کس کا ہے؟ اور اس سارق نے مال مسروقہ تجارت، زراعت سے بڑھایا بھی تھا، آیا ضیف کو ضیافت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس پسر سارق کو اس مال کو کس طرح برتنا چاہیے؟ (۱۳۳۸/۱۴۵)ھ

الجواب: اس وارث کو تخمینہ کر کے کہ مال حرام کس قدر ہوگا وہ مقدار بہ صورت نہ معلوم ہونے مالکوں کے یا ان کے ورثہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ مابقی اس کے لیے حلال ہو جائے (۱)

(۱) و إن علم الوارث دین مورثه ، والدین غصب أو غیره ، فعليه أن يقضیه من التركة ، و إن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة ، و إن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدین ولا وارثه، فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدین بریء في الآخرة (الشامي: ۳۴۲/۶، کتاب اللقطة— قبیل مطلب فیمن علیہ دیون و مظالم جہل أربابها)

اور ضیف جس کو معلوم ہے کہ مال حرام مخلوط ہے اس کو کھانا درست نہیں ہے، اور لاعلمی میں معاف ہے۔

### شراب فروش کے یہاں کھانا پینا

سوال: (۱۳۶) جو شخص شراب کا ٹھیکے دار ہو، اس کے یہاں جو مسلمان کھائیں پئیں تو ایسے مسلمانوں کے واسطے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۸۹/۱۳۳۸ھ)

الجواب: اس کی آمدنی حرام سے مسلمانوں کو کھانا پینا حرام ہے اور احتراز اس کی دعوت سے لازم و واجب ہے (۱) فقط

### مخلوط آمدنی والے کے گھر کھانا درست ہے

سوال: (۱۴۷) اگر کسی کے پاس جائز و ناجائز چند قسم کی آمدنی ہو تو اس کے گھر کا کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۲۷۵ھ)

الجواب: حسب فتویٰ شرعی کھانا اس کے گھر کا درست ہے (۲) فقط

### جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ان کی دعوت کھانا

سوال: (۱۴۸) جو آج کل نام کے مسلمان ہیں نماز تو پڑھتے ہیں مگر اور حکم شریعت کے نہیں مانتے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ان کی دعوت کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۹۶۰ھ)

الجواب: بہتر اجتناب کرنا ہے اور اگر کسی مصلحت سے کھالیوے تو درست ہے۔ فقط

(۱) أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه ، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام ..... ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال ، بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام ، فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم (الفتاوى الهندية: ۳۴۲/۵ ، كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

(۲) حوالہ سابقہ۔

### مخلوط آمدنی والے کی دعوت، ملازمت اور چندہ کا حکم

سوال: (۱۳۹) زید کے یہاں ابتدا میں تجارت حلال طریقہ سے تھی، بعد اس کے چیزیں گروی رکھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی، اب بالفعل زید کے یہاں تجارت نمک کھاری و تمباکو اور کاشت کاری و زمین داری وغیرہ بھی ہے، علاوہ ازیں سود کا کاروبار علانیہ طور سے جاری ہے، ایسی حالت میں زید کے یہاں مسلمانوں کو کھانا کھانا اور اس کے یہاں نوکری کرنا اور اس کے روپیہ سے مسجد، مدرسہ میں امداد لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۷۲۰ھ)

الجواب: ازراہ فتویٰ یہ سب امور درست ہیں، کیونکہ حرمت کا یقین اس خاص طعام میں اور روپیہ میں نہیں ہے، اور تقویٰ اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کا کھانا وغیرہ نہ کھایا جاوے اور اس کے روپیہ پیسہ سے احتیاط کی جاوے، خاص کر مسجد میں ایسا مشتبہ مال لگانا نہ چاہیے۔ کما ورد فی الحدیث: **إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ، الْحَدِيثُ (۱) فَقَطْ**

### خالص حرام آمدنی والے کا کھانا کھانا درست نہیں

سوال: (۱۵۰) جس کا روپیہ حرام ہے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۲۲۸ھ)

الجواب: اگر آمدنی اس کی مخلوط ہے حرام و حلال سے تو کھانا کھانا اس کا درست ہے، اور اگر خالص حرام ہے تو درست نہیں ہے۔ فقط

### گانا بجانے والے کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۵۱) ایک شخص گانے بجانے کا پیشہ کرتا ہے، اور جو مال اس کے پاس ہے اسی پیشہ سے کمایا ہوا ہے، اس کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۳۶۲ھ)

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا الْحَدِيثُ (مشكاة المصابيح، ص: ۲۴۱، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول)**



الجواب: گانے بجانے کا پیشہ حرام ہے اور جو مال اس کے ذریعہ سے حاصل ہوا وہ حرام ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) جاء في التفسير: أن المراد الغناء (شامی) وفي الدر المختار: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام الخ (۱) پس جب کہ پیشہ مذکورہ حرام ہے اور کسب اس کا حرام ہے تو اس کے گھر کا کھانا درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۱۵۲) ایک شخص ستار بجانے پر ملازم ہے اس کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۲/۲۸۳۳ھ)

الجواب: گانے بجانے کی اجرت لینا حرام ہے اور وہ روزی حرام ہے، اس کے گھر کا کھانا اہل تقویٰ کو نہ چاہیے۔ فقط

### ناچ رنگ والی شادی اور دعوت میں شرکت کرنا

سوال: (۱۵۳) جو لوگ اپنے یہاں شادی میں ناچ باجا وغیرہ کرتے ہیں ان کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہ؟ اور باجا ناچ کرنے والے فاسق ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۱۳۱۳ھ)

الجواب: ایسی دعوت میں شریک نہ ہونا چاہیے، بہ شرطیکہ لہو و لعب کی خبر پہلے سے ملی ہو، اور اگر بے خبر تھا پھر اگر دعوت کی مجلس میں لہو و لعب سنیں تو بیٹھ کر منع کرنا چاہیے اور منع پر قادر نہیں تو وہاں سے چلا جاوے بہ شرطیکہ مقتدایان دین سے ہو، اور اگر مقتدا اور پیشوا نہیں پس اس صورت میں جب آگیا تو بیٹھنا چاہیے۔ کَمَا فِي الدَّرِّ الْمَخْتَارِ: دَعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَثَمَةٍ لَعِبَ أَوْ غَنَاءَ قَعْدٍ وَأَكَلَ لَوْ الْمُنْكَرُ فِي الْمَنْزِلِ، فَلَوْ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْعِدَ بَلْ يَخْرُجُ مَعْرُضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (أنعام، الآية: ۶۸) فَإِنْ قَدَّرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلْ وَلَا يَقْدِرْ صَبْرًا لَمْ يَكُنْ مَمَّنْ يَقْتَدِي بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَقْتَدِيًّا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعِدْ ..... وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا بِاللَّعِبِ لَا يَحْضُرُ أَصْلًا (۲) اور باجا یا ناچ کرنے والے فاسق ہیں

(۱) الدر المختار والشامی: ۴۲۳/۹، کتاب الحظر والإباحة.

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۲/۹-۴۲۳، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

ان کی شہادت مقبول نہیں۔ کذا فی الدر المختار فی باب الشہادة وفي الدر أيضًا: استماع

صوت الملاهی کضرب قصب ونحوہ حرام الخ (۱) فقط

سوال: (۱۵۴) ایک شخص کے گھر میں شادی تھی، اس نے مساجد شہر کے جمیع پیش امام صاحبان کو دعوت ولیمہ دی تھی، جب وقت مقررہ پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اہل دعوت کے یہاں طبلہ اور ڈھول اور انگریزی باجے بج رہے ہیں، اور آتش بازی چھوٹ رہی ہے، یہ دیکھ کر بعض امام صاحبان واپس چلے آئے، اور بعض نے خور و نوش فرمایا، شرعاً ان کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۲/۲۰۰ھ)

الجواب: ایسی صورت میں فقہائے کرام نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ مقتدا شخص کو واپس آ جانا چاہیے، اور غیر مقتدا کو وہاں کھانا کھانا درست ہے، اگرچہ بہتر واپس آ جانا ہے۔ در مختار میں ہے: دعی إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل الخ فإن قدر على المنع فعل وإلا يقدر صبر إن لم يكن ممن يقتدى به، فإن كان مقتدى ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد الخ (۲) پس جو لوگ واپس آ گئے انہوں نے اچھا کیا، اور جو لوگ بیٹھے رہے اور وہاں کھانا کھایا تو اگر وہ علماء و مقتدا نہ تھے تو ان کا یہ فعل جائز ہے، اور وہ لائق امامت ہیں، بہ شرطیکہ دل سے انکار کرتے ہوں۔ کما فی الحدیث المشہور: فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان الحدیث (۳)

سوال: (۱۵۵) جس شادی میں ناچ رنگ وغیرہ کا انتظام ہو اس کے گھر کی دعوت قبول کرنا اور اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ (۸۷۵/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: ایسی مجلس میں شریک ہونا اور باوجود علم دعوت قبول کرنا ممنوع ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۵۶)..... (الف) ایک جگہ دعوت طعام ہے اور باجا وغیرہ بھی بج رہا ہے، تو شرعاً اس دعوت میں جانا کیسا ہے؟ یہاں کے مولوی اور امام مسجد اکثر معہ باجا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟

(۱) الدر المختار مع الرد: ۴۲۵/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

(۲) الدر المختار مع الرد: ۴۲۲/۹-۴۲۳، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

(۳) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً الحديث. الصحيح لمسلم: ۵۱/۱، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان الخ.

(ب) ایک جگہ صبح کے وقت دعوت طعام ہے اور باجا وغیرہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ شام کے وقت وہاں باجا بھی ہوگا اور طوائف بھی آئے گی، تو شرعاً اس دعوت کو قبول کرنا اور جانا کیسا ہے؟ (۱۰۶۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف) اس مجلس میں شریک دعوت ہونا اور طعام کھانا درست نہیں ہے، خصوصاً عالم و مولوی اور امام کو اس دعوت میں شریک ہونا کسی طرح جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو آئندہ کو توبہ کریں، اور شریک نہ ہوں، یہی اس کا کفارہ ہے۔

(ب) اس میں بھی شریک ہونا نہ چاہیے کہ اس میں چند خرابیاں ہیں، دعوت کرنے والوں کو جرأت ہوگی ارتکاب معصیت کی، اور مولویوں اور امام کی شرکت سے دوسرے عوام لوگ دلیل پکڑیں گے جواز کی۔ فقط

سوال: (۱۵۷) جس مکان میں گانا ہو رہا ہو، اس میں جا کر دعوت کھانا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۴۰/۱۳۷۲ھ)

الجواب: فقہاء نے ایسا لکھا ہے کہ مقتدا شخص کو وہاں جا کر کھانا کھانا نہ چاہیے، اور عوام کو درست ہے۔

سوال: (۱۵۸) کھانا شادی نوشہ یا دولہن کے یہاں جہاں گانا بجانا یا اور رسومات مذموم مثل کفار کے ہوں کھانا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۰/۱۹۲۰ھ)

الجواب: ایسی جگہ جانا اچھا نہیں ہے، اور مقتدا شخص کو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا زیادہ تر ممنوع ہے۔ فقط

### گانجا فروش کے گھر کھانا کھانا

سوال: (۱۵۹) جو شخص گانجے کی تجارت کرتا ہے اس کا طعام کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۱۵۳۸ھ)

الجواب: جو شخص حرام اشیاء کی تجارت کرتا ہے اس کے گھر کھانا کھانے سے احتراز مناسب ہے۔

## مسلمان دھوبی کے گھر کا کھانا کھانا درست ہے

سوال: (۱۶۰) اگر کوئی مسلمان دھوبی چند مسلمانوں کی دعوت کرے، مسلمانوں کو اس کا کھانا کھانا اور چائے پینا درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۲۰۱۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: دھوبی کے گھر کا کھانا کھانا اور چائے پینا درست ہے، اس میں کچھ حرمت اور کراہت نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۱۶۱) جو مسلمان پابند صوم و صلاۃ ہو اور قوم کا دھوبی ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو اس کے ساتھ کھانے پینے پر اعتراض کرے اور اس کے ساتھ کھانے پینے والے سے حقہ پانی بند کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۱۰۰۱ھ)

الجواب: جو مسلمان پابند صوم و صلاۃ ہو، اگرچہ وہ ذات کا دھوبی ہو اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ کھانے پینے سے احتراز کرے یا اس کے ساتھ کھانے پینے والے سے متارکت کرنے والے اور اس سے انقطاع میل ملاپ کرنے والے گنہگار ہیں، تو بہ کریں۔ فقط

## مسلمان حجام اور خا کروب کا کھانا کھانا درست ہے

سوال: (۱۶۲) جو لوگ پیشہ حجامت بنانے یا کپڑے دھونے یا خا کروبی وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ اہل اسلام ہیں، ان کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ان کا کھانا کھانا اور پانی پینا درست ہے، کیونکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، قرآن شریف میں ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) یعنی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں۔ فقط

جس نے خا کروب کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھالیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟

سوال: (۱۶۳) ایک شخص مسلمان نے خا کروب کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھالیا، اب اس کے ساتھ کھانا اور برتاؤ کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۵۷۱ھ)

الجواب: جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ کو اس کو روک دیا جائے کہ خاکروب کے گھر کا اور اس کے برتنوں میں کھانا نہ کھائے، اور اس کو برادری سے خارج نہ کیا جائے، اور کھانا پینا اس کے ساتھ ترک نہ کیا جائے۔ فقط

ہیچڑے کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے

سوال: (۱۶۴) ایک ہیچڑا ہے اس کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۲/۶۵۸)  
الجواب: اس کے گھر کا کھانا درست ہے۔ فقط

مسلمان دایہ کے گھر کا کھانا کھانا درست ہے

سوال: (۱۶۵) جو عورت مسلمہ دایہ کا کام کرتی ہے، اس کے گھر کا کھانا درست ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۷/۱۷۲)

الجواب: اس کے گھر کا کھانا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر مانگے ہوئے پیسوں سے دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۶۶) کوئی فقیر مانگنے والا اپنے مانگے ہوئے پیسے سے دعوت کھلائے تو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۵۴۳)

الجواب: فقیر کے مانگے ہوئے پیسے سے دعوت کھانا درست ہے، مگر جن فقیروں کو سوال حرام ہے، اور وہ اس سے پیسہ جمع کریں تو ان کی دعوت اس پیسے سے کھانا اچھا نہیں ہے۔

بے نمازی کے ساتھ کھانا اور دیگر تعلقات رکھنا

سوال: (۱۶۷) تارک الصلاۃ کے ساتھ کھانا پینا اور دیگر تعلقات رکھنا جائز ہے یا نہیں؟  
(۱۳۴۰/۲۷۳)

الجواب: جو شخص ایک وقت کی نماز بھی بالکل ترک کر دے کہ نہ ادا پڑھے اور نہ اس کی قضا

کرے، اور نہ ارادہ قضا کا رکھے، وہ تارک الصلاۃ ہے اور فاسق ہے اور تعلقات محبت و یگانگت اس سے رکھنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا درست نہیں ہے (۱)

### بے نمازی کو کھانا کھلانا اور قربانی کا گوشت دینا

سوال: (۱۶۸)..... (الف) تارک الصلاۃ کو دعوت کر کے کھلانا۔ (ب) اس کو قربانی کا گوشت دینا۔ (ج) اس کو نوکر رکھنا اور مزدوری کروانا اور کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی خویش اپنا مثلاً بھائی بھائی وغیرہ وارد ہوئے ہیں اور وہ تارک الصلاۃ ہے یا کوئی مسافر آیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کو کھانا پانی دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۸۸۶/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف-ج) تارک الصلاۃ کے ساتھ یہ معاملات درست ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کھانا نیک لوگوں کو کھلائے، اور بے نمازی کو اگر کھلائے تو اس کو نصیحت نماز کی کر دے، اگر بے نمازی مہمان ہو تو اس کو کھانا پانی دیوے، اور ساتھ ہی نماز کی نصیحت کر دے کہ دو ہر اثواب ہے۔ فقط

### بے نمازی کی دعوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۶۹) رمضان شریف میں جو لوگ روزہ دار اور بے روزہ دار نمازی اور بے نمازی کی دعوت کرتے ہیں ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ (۲۰۶۶/۱۳۴۰ھ)

الجواب: ثواب ملے گا۔ فقط

### بے نمازی کی دعوت قبول کرنا اور نماز کی تنبیہ کرنا

سوال: (۱۷۰) ہندوستان میں مسلمانوں پر نماز کی تنبیہ کہاں تک جائز ہے؟ اور مسلمان تارک الصلاۃ کی دعوت قبول کرنا علماء اور پابند صلاۃ کو جائز ہے یا نہیں؟ (۲۳۳۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس زمانے میں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ تارک صلاۃ و زکاۃ و صوم و حج وغیرہ فرائض کو

(۱) عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين (مشكاة المصابيح: ص: ۲۷۹، كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثالث)

علماء نصیحت کریں، اور مسئلہ بتلادیں کہ فلاں فلاں امور شریعت میں فرض ہیں، ان کو ترک کرنا بہت برا ہے، اور معصیت ہے، اور اس میں عذاب سخت ہے، باقی تعزیر وغیرہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود رعایا ہیں، اور یہ کام احکام اہل اسلام کے متعلق ہے، تارک صلاۃ اور تارک زکاۃ وغیرہ کی دعوت قبول کرنا درست ہے، لیکن اگر موقع ہو اور امید اثر کی ہو تو ان کو نصیحت کرنا چاہیے، اور اگر دعوت قبول نہ کرنے میں اس کو تنبیہ کرنے کی امید ہو تو ایسا کرنا بھی درست ہے، اور تنبیہ برادری سے خارج کرنا بھی درست ہے، اور تارک الصلاۃ کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام: صَلُّوا عَلَيَّ كُلَّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ الْحَدِيث (۱) اور نصیحت کرنے میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نرمی اور حکمت کے ساتھ نصیحت کی جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بوجہ اپنے جہل کے بجائے ماننے کے مسخرہ پن کرنے لگیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْآيَةِ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۱۲۵) فقط

### پولیس کی دعوت کرنا اور اس کے گھر دعوت کھانا

سوال: (۱۷۱) ملازمین پولیس کی دعوت کرنا یا ان کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے؟  
(۱۳۴۱/۲۵۷۹ھ)

الجواب: دعوت کرنا اور کھانا ان کے گھر درست ہے اور احتراز کرنا احوط ہے۔ فقط

### وکیلوں کے گھر کا کھانا کھانا

سوال: (۱۷۲) وکیلوں کے گھر کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۶۴۸ھ)

الجواب: ان کے گھر کا کھانا درست ہے۔ فقط

جو حکام انگریزی قانون کے موافق فیصلہ کرتے ہیں اور جو وکلاء اس قانون

کی رو سے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں ان کی دعوت کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۱۷۳)..... (الف) جو حکام اہل اسلام مقدمات دیوانی اور فوج داری کے فیصلہ

(۱) اس حدیث کی تخریج سوال (۱۴۱) میں گزر چکی۔

کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ گورنمنٹ کے حکم سے بہ موجب قانون انگریزی کے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں تنخواہ پاتے ہیں تو ایسی کمائی کی دعوت کھانا درست ہے یا نہیں؟

(ب) جو وکلاء قانون انگریزی کی رو سے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں ان کے یہاں دعوت کھانا کیسا ہے؟ (۳۲/۲۳۳۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف) فتویٰ کا حکم یہاں بھی یہی ہے کہ ان کی دعوت وغیرہ کھانا درست ہے۔

(ب) یہی جواب ”ب“ کا ہے۔

غیر مدعو کو اپنے ہمراہ دعوت میں لے جانا جائز نہیں

سوال: (۱۷۴) زید اپنے چچا اور ہم سایوں اور دو مسافروں کو دعوت میں بلاتا ہے، آیا چچا کو یہ حق حاصل ہے کہ بجائے دو مسافروں کے چار مسافر بغیر رضامندی صاحب خانہ اپنے ہمراہ لے جاوے، اگر چچا ایسا کرے اور منع کرنے پر غصہ کرے تو کیا حکم ہے؟ (۲۲۷۸/۱۳۳۵ھ)

الجواب: چچا کو یہ حق حاصل نہیں تھا اور اس کو اس وجہ سے غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔

جو شخص محکمہ آبکاری میں ملازم ہے اس

کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۷۵) زید ایک مسلمان خفی محکمہ آبکاری (۱) میں ملازم ہے، خدمت زید کے ذمے یہ ہے کہ کشیدنی شراب کا ٹھیکا ایک ٹھیکے دار نے سرکار سے لے لیا ہے، وہ اپنے روپیہ سے مہوایا اس کے مثل خرید کر خمر تیار کرتا ہے، تمام ملازمین اس کے اس کام کی انجام دہی کے لیے اس کے جداگانہ ملازم ہیں، وہ ان تمام امور کو کرتے ہیں اور شراب تیار کرتے ہیں، زید کے ذمے یہ فرائض ہیں کہ وہ اس امر کی نگرانی رکھے کہ ٹھیکے دار شراب کسی طرح پر ایک قطرہ شراب کا جو وہاں کشید ہو کر رکھی

(۱) آبکاری: شراب کھینچنے اور بیچنے کا کارخانہ یا جگہ۔ (فیروز اللغات)



جاتی ہے خلاف قواعد سرکاری کے نہ لے جاسکے، کیونکہ سرکار علاوہ قیمت کے اس پر محصول لیتی ہے، اس نگرانی کے لیے انسپکٹر، سب انسپکٹر مقرر ہیں، اسی خدمات شراب کے ساتھ ایفون، گانجا، بھنگ وغیرہ بھی شامل ہیں، پس یہ ملازمت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ سب انسپکٹر ان اور انسپکٹر ان کی تنخواہ اسی محصول مسکرات سے ملتی ہے، ایسے سب انسپکٹر کے یہاں کسی منشرع کا اکل و شرب جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی منشرع اس کا مہمان ہو اور اس کے یہاں کھاوے پیوے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی سے قرض لے کر کھلا پلا دیوے تو جائز ہے یا نہیں؟ بعد میں اپنی کمائی سے اس کو ادا کر دیوے اور اس کمائی کے اندوختہ پر زکاۃ واجب ہے یا نہیں؟

مکرر آمد: جب کہ مختلف قسم کی آمدنی خزانہ میں جمع ہو جاتی ہے اور مخلوط ہو جاتی ہے تو یہ مخلوط ہو جانا اس کی حلت کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ (۱۹۱۶/۱۳۳۹ھ)

الجواب: ملازمت مذکورہ شرعاً حرام ہے اور وعید شدید اس شخص کے بارے میں احادیث میں وارد ہے (۱) اور تنخواہ اس کی حرام ہے، ایسے ملازمین کے گھر کا کھانا اہل اسلام و اہل دین و تقویٰ کو ناجائز ہے، اور احتراز و اجتناب اس شخص کے طعام سے واجب ہے، اور ایسے شخص کے مہمان بننے سے بھی احتیاط اہل اسلام کو اجتناب لازم ہے، اور اگر ملازم مذکور قرض لے کر اس سے کسی مہمان وغیرہ کو کھلاوے پلاوے تو کھانے والے کے لیے بہ اعتبار فتویٰ کے درست ہے، باقی یہ جو دریافت کیا ہے کہ ایسے ملازم کو اندر حد و شرع کے رہ کر کیوں کر کام کرنا چاہیے عجیب امر ہے؟! کیونکہ جو ملازمت شرعاً قطعاً حرام ہے اور وہ ملازم بہ حکم خدا تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ مورد لعنت و غضب خدا تعالیٰ ہے، اور سراپا حد و شرع سے متجاوز و مُہْتَلِک (دھجیاں اڑانے والا) ہے، وہ باوجود باقی رکھنے اس ملازمت محرمہ کے حد و شرع میں رہ کر کیوں کر کام کر سکتا ہے؟! وہ تو ہر وقت حدود اللہ کا ہتک اور بے حرمتی کر رہا ہے، اور: ﴿مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ بقرہ: آیت: ۲۲۹) کا

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها و معصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و ساقها و بائعها و آكل ثمنها و المشتري لها و المشتراة لها (جامع الترمذي ۲۴۲/۱، أبواب البیوع - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك)

مصدق ہے، افسوس ہے کہ اکثر مسلمانانِ تو اس زمانہ میں حدودِ شرعیہ کی پابندی کی طرف متوجہ ہیں اور مسکرات کا انسداد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جملہ مذاہب کے آدمی اور نیچے درجہ کی قومیں اس پر اتفاق کر رہی ہیں کہ مسکرات کو بالکل بند کیا جاوے، اور جو لوگ اس کے مرتکب اور معین ہوں ان کو تعزیر کی جاوے، اور بعض نام کے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ وہ محکمہ آبکاری کی ملازمت کر رہے ہیں، اور اس کو ترقی دے کر موردِ بخطِ خدا تعالیٰ ہو رہے ہیں۔ فویل لہم ثم ویل لہم۔

اور زکاة کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حرام آمدنی مخلوط ہو جاوے دیگر آمدنی کے ساتھ تو چونکہ خلط کرنا استہلاک ہے، اس لیے وہ مالِ مملوکہ اس شخص کا ہو جاتا ہے اگرچہ خباثت اور معصیت باقی رہتی ہے، پس زکاة اس پر واجب ہے۔ كما في الدر المختار: ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه الخ (۱) اور صدقہ فطر وغیرہ بھی لازم ہے۔

استفتاء مکرر کا جواب یہ ہے کہ خزانہ سرکاری میں مخلوط ہو جانا آبکاری کی رقوم کا دیگر رقوم سے تنخواہ مذکور کو جائز نہیں کرتا، کیونکہ ہر ایک مد کا حساب علیحدہ ہے اور روپیہ وغیرہ میں تعین نہیں ہوتی، پس جو تنخواہ آبکاری کی مد سے دی جاوے گی وہ اسی مد کی آمدنی ہے، علاوہ بریں ملازمت مذکورہ کی تنخواہ خواہ کسی مد سے بھی دی جاوے وہ حرام ہی ہے، کیونکہ جس کام کی وہ اجرت ہے وہ حرام ہے، پس قرض میں اور اس صورت میں فرق ظاہر ہے اور حلال آمدنی والے سے بدلنا اپنی آمدنی حرام کا موجب حلت نہیں ہوگا، قرض لے کر خرچ کرنا البتہ روایات منقولہ کی بناء پر سبب حلت اس طعام وغیرہ کا ہے جو کہ قرض لے کر اس رقم قرض سے خریدا گیا۔ فقط

## فاسق کی دعوت قبول کرنا ممنوع ہے

سوال: (۱۷۶) زید تارکِ صوم و صلاۃ ہے اور منہیاتِ شرعیہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس صورت میں زید کے گھر کا کھانا اور اس کے گھر افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۷/۳۳-۳۳۳ھ)

الجواب: یہ ظاہر ہے کہ زید فاسق ہے، اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ

(۱) الدر المختار مع رد المختار: ۲۰۱/۳، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم - مطلب فيما لو صادر السلطان رجلاً فنوی بذلك أداء الزکاة إليه.

نے فاسق کی دعوت قبول کرنے سے اور اس کے گھر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن إجابة طعام الفاسقين (۱) (مشکاۃ شریف) پس موافق اس حدیث کے زید کے گھر افطار کرنا اور کھانا کھانا ممنوع ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مرتکب کبائر عہدے داران کی دعوت میں شرکت کرنا

سوال: (۱۷۷) زانی یا شرابی یا تارک فرائض و واجبات کی یا مرتکب دیگر کبائر کی دعوت قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ بعض امراء یا عہدے داران کے یہاں لوگ اس خیال سے شریک دعوت ہوتے ہیں کہ ان سے رنجش ہو جاوے گی جس سے نقصان کا خطرہ ہے، اس صورت میں شریک ہونا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۹۷۱ھ)

الجواب: بہ صورت خیال رنجش و خوف مضرت جائز ہے۔

جس جگہ ڈاکیہ ملازمت کرتا ہے وہاں کا باشندہ

ڈاکیہ کی دعوت کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۸) ڈاکیہ جس ڈاک خانہ میں ہے وہاں کا باشندہ دعوت کرے تو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۵/۱۲۶۳ھ)

الجواب: دعوت قبول کرنا جائز ہے کیوں کہ اس کی کچھ حکومت گاؤں پر نہیں ہے قاضی و حاکم کو دعوت قبول کرنا ناجائز ہوتا ہے جس کے متعلق فیصلہ مقدمات کا ہو اور اس میں بھی تفصیل ہے جو کہ کتب فقہ میں مذکور ہے (۲)

(۱) مشکاة المصابیح ، ص: ۲۷۹ ، کتاب النکاح - باب الولیمة .

(۲) تفصیل کے لیے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۱۵/۱۰۰، کتاب القضاء والتحكيم کا سوال (۲۷) ملاحظہ فرمائیں۔

## تحصیل دار کا تحصیل کے کسی باشندے کی دعوت و تحفہ قبول کرنا

سوال: (۱۷۹) زید ایک جگہ تحصیل دار ہے، اسی تحصیل کے کسی باشندے نے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی مقدمہ ہو زید کی دعوت کی یا کچھ انہ (آم) نارنگی وغیرہ ہدیہ بھیجیں، زید کو دعوت یا تحفہ مذکور قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۲۷۱-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اگر زید کے وہاں تحصیل دار ہونے سے پہلے وہ باشندہ کبھی زید کو ہدیہ نہ دیتا تھا اور دعوت نہ کرتا تھا؛ تو زید کو قبول کرنا اس کے ہدیہ و دعوت کا جائز نہیں ہے۔ و یردّ ہدیۃً إلا من قریبہ أو ممّن جرت عادته بذلك إلخ (۱) (در مختار) فقط

## رنڈی کی دعوت کھانا

سوال: (۱۸۰) رنڈی کی دعوت کھانا اور نذرانہ و تحفہ لینا جو کہ ناچ گانا اور پیشہ سے حاصل کیا ہے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۱۱۶۹)

الجواب: رنڈی کی دعوت اور نذرانہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔

## نصرانیوں کی دعوت کے لیے ناپاک و حرام چیزوں کا انتظام کرنا

سوال: (۱۸۱) کوئی مسلمان نصرانیوں کی دعوت کرے اور اس میں شراب اور خنزیر نصرانیوں کے واسطے مہیا کرے، تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰ھ/۲۹۱-۱۳۳۰ھ)

الجواب: مسلمانوں کو جیسا کہ شراب و خنزیر کا خود کھانا پینا حرام ہے، ایسا ہی نصرانیوں کی دعوت کے لیے ان ناپاک و حرام اشیاء کا مہیا کرنا اور انتظام کرنا بھی حرام ہے (۲) فقط

(۱) تنویر الأبصار مع الدرّ والرد: ۴۶/۸ - ۴۷، کتاب القضاء - مطلب فی ہدیۃ القاضي .

(۲) و کرہ إلباس الصّبی ذہباً أو حریراً فإن ما حرم لبسه و شربه ، حرم إلباسه و إشرابه (الدرّ مع الشّامی: ۴۳۲/۹ ، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللّبس)

### غلہ اکٹھا کر کے بھنڈارا کرنا

سوال: (۱۸۲)..... (الف) گھر گھر سے غلہ جمع کر کے بھنڈارا (۱) کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
 (ب) اللہ کے واسطے جو اکثر لوگ روٹی کھلاتے ہیں جس کے اندر نمازی و بے نمازی سب ہوتے ہیں، کیا بے نمازی کو کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور بے نمازی محتاج نہیں؟ (۱۸۶/۴۴-۱۳۴۵ھ)  
 الجواب: (الف) اکٹھا کر کے کھلانے کی ضرورت نہیں جس کو توفیق ہو وہ روٹی یا غلہ جس قدر میسر ہو صدقہ کر دے۔

(ب) غریب و محتاج جو کوئی ہو اس کو اللہ واسطے کھلانے میں ثواب ہے لیکن نمازی محتاج کو کھلانے میں زیادہ ثواب ہے۔

### ختم قرآن اور حج سے واپسی کے بعد دعوت کرنا

سوال: (۱۸۳)..... (الف) کسی کار خیر کے انجام کی خوشی میں مثلاً حج سے واپسی میں یا رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد کھانا کھلانا کیسا ہے؟ اور صاحب کھانا کا یہ خیال کرنا کہ اس کھانے کے کھلانے سے کسی اہل شہر کو باقی نہ رکھوں گا کیسا ہے؟  
 (ب) ایک شخص نے یہ کہا کہ میرا باپ جب حج سے واپس آوے گا تو تمام اہل شہر ذکر و اناث کو دعوت دوں گا اور جو مرد اور بچے حاضر نہ ہو سکیں گے تو میں ان کے گھر پر کھانا بھیج دوں گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟

(ج) کتب حنفیہ میں ناموری اور شہرت اور نام و نمود کے کھانے کھلانے کو منع لکھا ہے، اس کی چند مثالیں تحریر فرماویں جس سے معلوم ہو جاوے کہ یہ فخر کے واسطے ہوتا ہے۔ (۱۳۴۵-۴۴/۱۲۳۵ھ)  
 الجواب: (الف) اگر بہ اخلاص نیت کھانا خوشی کا کھلایا جاوے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔  
 حدیث شریف میں ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (بخاری: ۲/۱) عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔

(۱) بھنڈارا: فقیروں کا لنگر (فیروز اللغات)

(ب) اگر فخر و مباہات اور ریاء اور بڑائی سے نہ ہو محض بہ طریق شکر یہ ادائے فرض حج و خوشی اقرباء و احباب کے لیے یہ ضیافت ہو تو جائز ہے، جیسا کہ پہلے لکھا گیا کہ مدار نیت پر ہے۔  
(ج) یہ امور نیت پر ہیں اچھی نیت ہو تو جائز ہے اور بری نیت فخر اور بڑائی اور ریاء وغیرہ کی ہو تو اس کے حق میں یہ برا ہے (۱) دوسروں کو چونکہ اس کی نیت کا حال معلوم نہیں ہے اس لیے وہ ایسا حکم نہیں کر سکتے اور کسی کو اعراض کرنا نہ چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### ختم قرآن و ختنہ کی تقریب میں دعوت کرنا

سوال: (۱۸۴) ایک شخص نے اپنے لڑکے کے ختم قرآن و ختنہ کی تقریب میں اپنے احباب و اقرباء کو جمع کر کے کھانا کھلایا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ کچھ ثواب ہوگا یا نہیں؟ (۱۹۶۹/۱۳۳۳ھ)  
الجواب: یہ فعل شرعاً جائز ہے اور اگر نیک نیتی سے کھانا کھلایا تو ثواب ہے۔ فقط

### بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں کھانا کھلانا

سوال: (۱۸۵) بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں بہ طور شکرانہ کے کھانا کھلانا کیسا ہے؟  
(۲۴۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ فقط

### حصول برکت کے لیے قرآن شریف ختم کرا کر کھانا کھلانا

سوال: (۱۸۶) جو مکان جدید تعمیر ہوا ہو اس میں تبرکاً قرآن شریف ختم کرا کر حاضرین کو طعام کھلا کر رخصت کر دیا جاوے تو جائز ہے؟ (۲۲۰/۱۳۳۳ھ)

الجواب: اگر حصول برکت کے لیے ایسا کیا جاوے تو کچھ حرج نہیں ہے، مگر ایسے امور کا التزام

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما، قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرًا ورياءً (مشكاة المصابيح: ص ۲۷۹، كتاب النكاح، باب الوليمة - الفصل الثاني)

کرنا اور ضروری سمجھنا نہ چاہیے، کیونکہ شرع سے ان امور کا حکم نہیں ہے اور لازم نہیں کیے گئے۔ فقط

### ختنہ پر دعوت کرنا ضروری نہیں

سوال: (۱۸۷) ختنہ پر دعوت کرنا کیسا ہے؟ آج کل علاقہ ہذا میں اس مروجہ کھانے کو عوام ضروری سمجھتے ہیں، اسی واسطے بعض بچے بے ختنہ سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، شرعاً کیا حکم ایسی حالت میں ہوگا؟ (۱۱۷۴/۱۳۳۸ھ)

الجواب: ختنہ پر دعوت کرنا درست ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور یا اس وجہ سے ختنہ نہ کرانا ممنوع و قبیح ہے، ایسے رسومات کو چھوڑنا چاہیے۔ فقط

### دس پندرہ سال بعد ولیمہ کرنا

سوال: (۱۸۸) ایک شخص بلا کسی کے دباؤ کے ولیمہ کا کھانا عرصہ دس پندرہ سال کے بعد کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ جب تک ایسا کھانا برادری کو نہ کھلائے تو سرداری نہیں ملتی، اس کھلانے والوں کو کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور یہ کھانا کیسا ہے؟ (۲۹۳۷/۱۳۳۹ھ)

الجواب: یہ کھانا ولیمہ کا نہیں ہے بلکہ وجاہت و عزت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ریاء و فخر کے لیے ہے، ایسے کھانے میں شریک ہونے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے (۱) فقط

### مہیج کے عیوب چھپانے والے تاجروں کی دعوت کا حکم

سوال: (۱۸۹) اس وقت تمام مسلمان سودا گروں کا حال یہ ہے کہ وہ بوقت بیچ اپنی اشیاء کے عیوب کو چھپاتے ہیں ایسی حالت میں ان کی دعوت کھانی کیسی ہے؟ اور ان کی نقدی وغیرہ لینی کیسی ہے؟ (۲۳۳۷-۳۲/۱۳۳۳ھ)

(۱) عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة؛ ومن سمع سمع الله به (جامع الترمذي: ۲۰۸/۱، أبواب النكاح، باب ما جاء في الوليمة)

الجواب: ایسی مشتبہ حالت میں تقویٰ تو یہ ہے کہ ان کی دعوت سے احتراز کرے، اور فتویٰ یہ ہے کہ کھانا اس کا اور نقدی وغیرہ لینا جائز ہے۔

### خود عمدہ کھانا کھانا اور مسافر و طلبہ کو معمولی کھانا کھانا

سوال: (۱۹۰) ایک شخص روزانہ پلاؤ اور پراٹھے کھاتے ہیں، اور طلبہ و مسافر کے واسطے معمولی ترکاری جس کو وہ پسند نہیں کرتے اس وجہ سے کہ اچھی طرح سے نہیں پکاتے ہیں، تو دو چار آدمی کو اچھا کھانا کھلائے اور باقی کو نکال دے یا کیا کرے؟ (۱۹/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ خود عمدہ کھانا کھاتا ہو اور مسافروں اور طلبہ کو معمولی کھانا دیوے، اور زیادہ آدمیوں کو معمولی کھانا کھلایا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑوں کو عمدہ کھانا کھلایا جائے۔ فقط

### کونسا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے؟

سوال: (۱۹۱) کتنے پانی ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سے کھڑے ہو کر پینا ممنوع معلوم ہوتا ہے۔ (۱۹/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: و أن يشرب بعده من فضل وضوئه كماء زمزم مستقبل القبلة قائما أو قاعداً و فيما عدا هما يكره قائما تنزيهاً إلخ (۱) ماتن درمختار نے وضو کے نیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا مستحبات میں سے لکھا تھا، اس پر شارح نے ماء زمزم کو بھی بڑھایا کہ اس کا بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے (۲) ماسوا ان دونوں کے کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی لکھا، لیکن

(۱) الدرّ مع الردّ: ۲۲۸/۱، کتاب الطهارة، مطلب في مباحث الشرب قائماً .

(۲) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم (صحيح البخاري: ۸۴۰/۲، كتاب الأشربة، باب الشرب قائماً)



قائماً کے بعد شارح کا لفظ أو قاعداً بڑھانا اس طرف مشیر ہے کہ اختیار ہے خواہ کھڑے ہو کر پیوے یا بیٹھ کر، پوری تفصیل شامی میں ہے اس کو دیکھ لیا جاوے (۱)

سوال: (۱۹۲) بعض صاحب فرماتے ہیں کہ چار پانی کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پیوے: ایک بچا ہوا وضو کا، دوسرا آب زمزم، تیسرا جھوٹا، چوتھا سبیل کا، اور بعض صاحب فرماتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم کے لیے حکم کھڑے ہو کر پینے کا ہے اور کسی پانی کے لیے نہیں؟

(۱۸۱۷/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: درمختار میں بھی فضل وضو اور ماء زمزم کو قائماً مستحباً میں لکھا ہے۔ ثم قال: وفيما عداهما يكره (۲) (درمختار)

سوال: (۱۹۳) آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ اور کونسا پانی کھڑے ہو کر پئے اور کونسا بیٹھ کر؟ (۲۳/۱۳۳۳ھ)

الجواب: آب زمزم اور فضلہ وضو کے سوا ہر پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، اور مذکورہ بالا دو پانیوں کو کھڑے ہو کر۔ کذا في المنية (۳)

سوال: (۱۹۴) وضو کا باقی ماندہ پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۷۸/۱۳۳۵ھ)

(۱) قوله: (أو قاعداً) أفاد أنه مخير في هذين الموضعين، وأنه لا كراهة فيهما في الشرب قائماً بخلاف غيرهما، وأن المنسوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائماً بخلاف ما اقتضاه كلام المصنف لكن قال في المعراج: قائماً. وخيره الحلواني بين القيام والقعود، وفي الفتح: قيل: وإن شاء قاعداً، وأقره في البحر، واقتصر على ما ذكره المصنف في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرهما وفي السراج: ولا يستحب الشرب قائماً إلا في هذين الموضعين، فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه "ح" وغيره، قوله: (وفيما عداهما يكره الخ) أفاد أن المقصود من قوله قائماً عدم الكراهة، لا دخوله تحت المستحب، ولذا زاد قوله: أو قاعداً (الشامي: ۲۲۸/۱، كتاب الطهارة، مطلب في مباحث الشرب قائماً)

(۲) الدرر مع الرد: ۲۲۸/۱، كتاب الطهارة، مطلب في مباحث الشرب قائماً.

(۳) ويكره الشرب قائماً إلا هذا أي شرب فضل الوضوء وشرب ماء زمزم لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم، وأما كراهته قائماً فيما عدا هذين فلما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائماً، قال قتادة: ==

الجواب: وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے اور بعض نے اس کو مستحب کہا ہے۔ وَاَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلٍ وَضَوْئِهِ كَمَا زَمَزَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وَفِيمَا عَدَاهُمَا يَكْرَهُ قَائِمًا الْخِ وَفِي الشَّامِيِّ عَنِ السَّرَاجِ: وَلَا يَسْتَحِبُّ الشَّرْبُ قَائِمًا إِلَّا فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ الْخِ (۱) نَفْظُ

کھلانا پلانا داہنی طرف سے شروع کیا جائے یا بڑے بزرگ سے؟

سوال: (۱۹۵) ایک مجلس میں داہنی طرف ایک نوجوان مولوی تھے، اور بائیں طرف ایک حاجی صاحب تھے جو عمر میں بڑے تھے مولوی صاحب سے، چائے نوشی کے وقت اول حاجی صاحب کو دینے کا ارادہ کیا، مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا کہ پہلے ہم کو دو، اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ (۱۳۳۳/۲۸۷۶ھ)

الجواب: حکم شرعی ایسی صورت میں یہی ہے کہ داہنی طرف سے شروع کیا جائے (۲) لیکن اس نوجوان کو چاہیے تھا کہ حاجی صاحب کو پہلے دینے کی اجازت دے دیتا کیونکہ حاجی صاحب بڑے تھے اور مروت اور ادب کا مقتضایہ تھا کہ وہ نوجوان مولوی ان حاجی صاحب بزرگ کو پہلے چائے دینے کی اجازت دے دیتا، جیسا کہ حدیث میں بھی ایسا واقعہ آیا ہے، اور آنحضرت ﷺ کو یہ پسند تھا کہ چھوٹا جو داہنی طرف تھا وہ بڑے کو جو بائیں طرف تھا اجازت دے دیتا، مگر جب اس چھوٹے نے اجازت نہ دی تو آپ ﷺ نے داہنی طرف پہلے چھوٹے کو دیا، مگر آپ کو اس کا ملال ہوا (۳)

== فَقُلْنَا لَأَنْسَ: فَلَا أَكُلُ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ أَشْرُ وَأَخْبَثُ (غنية المستملي في شرح منية

المصلي المعروف بالحلبي الكبير: ص: ۳۲، في بيان فضيلة المسواك)

(۱) الدر والرد: ۲۲۸/۱، كتاب الطهارة، مطلب في مباحث الشرب قائماً .

(۲) اگر مجلس میں میر محفل ہو تو پہلے مشروب اس کو دیا جائے، پھر اُس کی دائیں طرف والے کو وکھذا، ورنہ مجلس میں جو بڑا ہو اس کو دے، پھر اس کی دائیں طرف والے کو، یا تقسیم کرنے والا اپنی دائیں طرف والے کو پھر اس کی دائیں جانب والے کو؛ دونوں باتیں درست ہیں۔ ۱۲۔ سعید احمد پالن پوری

(۳) عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتني بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلامٌ وعن يساره الأشياخُ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله! لا أؤثرُ بنصيبٍ منك أحدًا، قال: فَتَلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده (صحيح البخاري: ۸۴۰/۲، كتاب الأشربة، باب هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر)

سرکاری نیلام کے جانوروں کا دودھ، گھی استعمال کرنا

سوال: (۱۹۶) نیلام کے مویشی کا دودھ گھی کا استعمال کیسا ہے؟ (۱۳۳۰/۲۶۳۹ھ)  
الجواب: نیلام سرکاری کی گائے وغیرہ مویشی کے گھی دودھ استعمال میں لانا درست ہے۔ فقط

بہن: نابالغ بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے

سوال: (۱۹۷) بہن نابالغ بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۲۰۶۶ھ)  
الجواب: پلا سکتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بھاج: نابالغ دیور کو دودھ پلا سکتی ہے

سوال: (۱۹۸) بھاج دیور نابالغ کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۲۰۶۶ھ)  
الجواب: پلا سکتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

عورت کو بھی اپنا دودھ پینا حرام ہے

سوال: (۱۹۹) عورت کو بھی اپنا دودھ پینا حرام ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۴۲۱ھ)  
الجواب: عورت کو بھی حرام ہے۔ فقط

پھٹا ہوا دودھ کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۲۰۰) پھٹے ہوئے دودھ کا استعمال کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۱۴۷۶ھ)  
الجواب: درست ہے، اور اگر درجہ مضرت میں پہنچ گیا ہو تو مناسب نہیں ہے۔ درمختار میں  
ہے: يَحْرُمُ أَكْلُ لَحْمِ أَتْنٍ ، لَا نَحْوَسَمْنٍ وَلَكِنَّ الْخ (۱)

(۱) ترجمہ: سڑا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، گھی دودھ وغیرہ کھانا حرام نہیں (الدر المختار مع رد المحتار:  
۱/۲۸۹، کتاب الطہارۃ، باب الأنجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء)

جو گائے، بکری بچہ جنے بغیر دودھ دیتی ہے اس کا پینا کیسا ہے؟

سوال: (۲۰۱) یہاں بعض گائے یا بکری بغیر جننے کے دودھ دیتی ہیں ان کا دودھ پینا بلا کراہت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۸۵/۱۳۳۳ھ)

الجواب: ان کا دودھ پینا حلال و جائز ہے (۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ بَيْنَ الْآيَةِ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۶۶) فَالْآيَةُ تَدَلُّ عَلَى حَلِّ اللَّبَنِ مُطْلَقًا (یہ آیت علی الاطلاق دودھ کی حلت پر دلالت کرتی ہے) فقط

گا بھن جانور کا دودھ حلال ہے

سوال: (۲۰۲) شیر حیوان حاملہ حلال است یا حرام؟ (۱۳۶۱/۱۳۳۲ھ)

الجواب: حلال است۔ فقط

ترجمہ: سوال: (۲۰۲) حاملہ جانور کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ (۱۳۶۱/۱۳۳۲ھ)

الجواب: حلال ہے۔ فقط

دودھ نکالنے کے لیے بھینس کے آگے مصنوعی چھڑا بنا کر کھڑا کرنا

سوال: (۲۰۳) گائے کا بچہ دودھ پینے کے زمانہ میں مر گیا، اب اگر اس گائے کا دودھ نہ نکالا جائے تو نقصان ہوتا ہے، اس لیے بچہ کی کھال اتار کر اس میں گھاس وغیرہ بھر کر بچہ کی تصویر بنا کر گائے کے سامنے لے جاتے ہیں، تب وہ اس تصویر کو اپنا بچہ سمجھ کر اطمینان سے دودھ دیتی ہے یہ دودھ پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۵۱/۱۳۳۹ھ)

الجواب: جائز ہے۔ فقط

سوال: (۲۰۴) گائے بھینس کا بچہ اگر مر جائے تو اس کی کھال میں بھوس وغیرہ بھر کر دودھ

(۱) وفي الخانية وغيرها: لبن المأكول حلال (رد المحتار: ۱۰/۳۷، کتاب الأشرية)

نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۷۲۰/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: یہ جائز ہے۔ فقط

### گائے بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے لباس تبدیل کرنا

سوال: (۲۰۵) مسلمان نے ہندو سے گائے یا بھینس خریدی، اب وہ دودھ نہیں دیتی تو مسلمان کو صورت و لباس بدل کر اس سے دودھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۰۳۶/۱۳۴۳ھ)

الجواب: اگر اس تبدیلی میں کسی حرمت شرعی کا ارتکاب نہیں ہوتا یعنی ہندو نہ صورت بنانی نہیں پڑتی تو جائز ہے، ورنہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ دودھ نکلوانے کے لیے کسی ہندو کو کچھ اجرت دے کر معین کرے، اس تھوڑی سی بات کے لیے لباس و صورت کا بدلنا مناسب نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### ذبیحہ کا دودھ نکال کر استعمال کرنا

سوال: (۲۰۶) ذبیحہ کا دودھ بعد ذبح کے نکال کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ (۱۴۹۹/۳۳-۱۳۳۲ھ)

الجواب: ذبیحہ کا دودھ بعد ذبح کے جو نکلے وہ حلال ہے (۱)

### گڈریا کے یہاں سے بکری کا دودھ لینا اور پینا

سوال: (۲۰۷) مسلمانوں کو گڈریا کے یہاں سے بکری کا دودھ لینا اور پینا درست ہے یا نہیں؟ (۲۵۴۲/۱۳۴۷ھ)

الجواب: وہ دودھ لینا اور پینا درست ہے۔

### چھار بھینس کا دودھ نکالے تو حلال ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۰۸) ایک چھار نے ایک مسلمان کی بھینس کا باکھ (۲) گرم پانی سے دھو کر دودھ

(۱) وِإِنْفَحَ الْمَيْتَةَ وَلَوْ مَائِعَةً وَلِبْنَهَا طَاهِرٌ كَالْمَذْكَاةِ خِلَافًا لِّهَمَّا لَتَنَجَسَهُمَا بِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ. قُلْنَا: نَجَاسَتُهُ لَا تَوَثِّرُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ إِذِ اللَّبَنُ الْخَارِجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ طَاهِرٌ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَهْ (رد المحتار: ۱/۳۲۱، کتاب الطہارۃ - باب المیاء - مطلب فی احکام الذبائح)

(۲) باکھ: گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے تھنوں کا اوپر کا حصہ (فیروز اللغات)

نکالا، وہ دودھ پاک ہے یا ناپاک؟ اور اس کا پینا حلال ہے یا حرام؟ (۱۳۳۳ھ/۳۲/۹۹۴)

الجواب: اس دودھ میں کچھ حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے اور حلال ہے، اور جب چمارنے گرم پانی سے باکھ کو دھویا تو اس کے ہاتھ بھی دھل گئے، پھر اس میں کیا شبہ رہا؟ آخر سب کفار کی پکائی ہوئی مٹھائی اور کھانا کھاتے ہیں۔

سہواً بھنگی یا چمار کا حقہ پانی پی لینے میں کوئی گناہ نہیں

سوال: (۲۰۹) اگر کوئی مسلمان سہواً بھنگی یا چمار کا حقہ پانی پی لیوے، تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۰/۲۵۶۱ھ)

الجواب: جو کچھ ہوا سو ہوا اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، آئندہ کو ایسا نہ کیا جاوے۔ فقط

جس بھینس نے غیروں کی کھیتی کھائی ہو اس کا دودھ پینا کیسا ہے؟

سوال: (۲۱۰) ایک شخص رات کو اپنی بھینس کو چھوڑ کر غیروں کی کھیتی چراتا ہے، ایسی بھینس کا دودھ پینا کیسا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۵۲۰ھ)

الجواب: یہ فعل حرام ہے اور دودھ حلال ہے اور وہ شخص عاصی ہے۔ فقط

توبہ کے بعد شرابی کا جھوٹا حلال ہے یا حرام؟

سوال: (۲۱۱) جو مسلمان شراب پیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا جھوٹا مسلمان کو حلال ہے یا نہ؟ (۱۳۴۲/۱۴۰۹ھ)

الجواب: توبہ کے بعد گناہ اس کا معاف ہے، اور جھوٹا اس کا پاک ہے، اور وضو درست ہے، اور مسلمانوں کو اس کا جھوٹا کھانا حلال ہے۔ فقط

گائے بھینس کی پیشاب گاہ میں انگلی ڈال کر دودھ نکالنا

سوال: (۲۱۲) جس گائے یا بھینس کا بچہ مر گیا ہو اس کا دودھ اس کی پیشاب گاہ میں انگلی دے

کر نکالا جاتا ہے، اس ترکیب سے دودھ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۸۵۷)

الجواب: دودھ جو اس عمل اور تدبیر کے ذریعہ سے نکالا جاوے پاک ہے اور حلال ہے، مگر یہ فعل ضرور شنیع اور مکروہ ہے۔ فقط

سوال: (۲۱۳) بہت بھینس ایسی ہوتی ہیں کہ دودھ نہیں دیتیں، تو ان کے ساتھ چرواہے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پیشاب کے مقام میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، تو بھینس ڈر کر دودھ دینے لگتی ہے، اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۶)

الجواب: یہ فعل اچھا نہیں ہے اور وہ دودھ پاک و حلال ہے۔ فقط

### ولایتی دودھ اور تیل استعمال کرنا

سوال: (۲۱۴) دودھ کے سر بند ڈبے جو ولایتی آتے ہیں، اور وہ خورد سال بچوں کو پلائے جاتے ہیں، ان کا پلانا مسلمان لوگوں کو درست ہے یا نہیں؟ ولایتی تیل کی شیشیاں آتی ہیں اور وہ ہاتھ پیروں پر جب کہ وہ سردی اور ہوا سے پھٹ جاتے ہیں اس کا لگانا مفید اور نافع ہوتا ہے، آیا وہ استعمال میں لانا جائز ہے؟ (۱۳۳۳-۳۳/۸۶۷)

الجواب: دونوں چیزوں کا استعمال مسلمانوں کو جائز ہے، کیونکہ جب تک یقین نجاست اور حرمت کا کسی چیز میں نہ ہو حرمت کا حکم نہیں کیا جاسکتا۔ فقط

سوال: (۲۱۵) ولایتی دودھ دو قسم کا ہے: ایک سفوف (پاؤڈر) دوسرا گھی کی طرح، یہ دونوں قسم کا دودھ حلال ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۶۲۸)

الجواب: جب تک علم کسی حرام اور نجس چیز کے خلط کا اس میں نہ ہو، حلت اور جواز پر فتویٰ دیا جاوے گا (۱) فقط

### ہندوؤں سے پانی بھروا کر استعمال کرنا

سوال: (۲۱۶) بندہ محکمہ پیمائش میں ملازم ہے، اور پیمائش کے کام کے واسطے ہندوستان میں

ہر ایک مقام پہاڑی اور میدانی اور بنگال وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، اکثر ایسا موقع ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں اور کوئی مسلمان پانی بھرنے والا نہیں ہوتا، اس طرف کے لوگ ہندو کہلاتے ہیں، مگر وہ سب اشیاء کھاتے ہیں، خنزیر وغیرہ سب چیزیں کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مجبوری کے وقت پانی بھروانا اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۰۳۱ھ)

الجواب: اگر ضرورت ہو تو انہیں آدمیوں سے پانی بھر والیا جاوے، اور کھانے پینے اور وضو میں اس کو استعمال کیا جاوے، اور کچھ وہم نہ کیا جاوے۔

### فوجیوں سے پانی کی کچی خرید کر پانی پینا

سوال: (۲۱۷) فوجی سپاہیوں کے پاس پانی پینے کی کچی ہوتی ہے، اور وہ نیلام بھی ہوتی ہے، اگر اس کو خرید کر پانی پیا جاوے تو کیا حکم ہے؟ جب کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس قوم کے آدمی کی جھوٹی ہے۔ (۱۳۳۵/۱۰۳۱ھ)

الجواب: فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جھوٹا کافر کا بھی ناپاک نہیں ہے (۱) پس اس میں کچھ شبہ نہ کیا جاوے، اور اس کو پاک سمجھا جاوے۔ فقط

### پاخانہ کا پانی نہر میں جاتا ہو تو اس نہر کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟

سوال: (۲۱۸) قصبہ ہلدوانی میں ایک نہر جاری ہے تمام لوگ اسی کا پانی پیتے ہیں، لیکن اس نہر میں قصبہ کے چند مکانات کا پانی پاخانہ کا جاتا اور گرتا ہے، تو اس نہر کا پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۰۳۶ھ)

الجواب: پانی اس نہر کا پاک ہے، پینا اور وضو کرنا اس سے درست ہے۔ (کیونکہ ماء جاری ناپاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا)

### کتے کا جھوٹا دودھ گائے وغیرہ کو پلانا

سوال: (۲۱۹) اگر دودھ کتے نے پی کر ناپاک کر دیا ہو تو اس کو گائے بیل وغیرہ کو پلا سکتے ہیں یا

(۱) فسور آدمی مطلقاً ولو جنباً أو کافراً أو امرأة ..... طاهر الفم ..... طاهر (الدرّ مع الشّامی: ۱/ ۳۹۰-۳۹۰، کتاب الطّہارة، مطلب فی السّور)



نہیں؟ (۱۳۶۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: پلا سکتے ہیں جیسا کہ قید لا یطعم بنی آدم (۱) سے معلوم ہوتا ہے اور درمختار میں ہے: فیطعم للکلاب (۲) بہ ظاہر کلاب کی قید اتفاقی ہے غرض یہ کہ آدمی نہ کھاوے۔ فقط

### چار قسم کی شراب قطعی حرام ہے

سوال: (۲۲۰) سنا ہے کہ چار قسم کی شراب قطعاً حرام ہے، وہ چار قسم یہ یاد پڑتی ہیں، اگر یاد داشت میں غلطی ہو اصلاح فرمائیں، عرق انگور تازہ اور خشک اور چھوڑا اور کشمش۔ (۱۳۳۵/۱۰۰۱ھ)

الجواب: درمختار میں بھی ایسا ہی ہے: والمحرّم منها أربعة أنواع، اور پھر ان چار انواع کی تفصیل اس طرح کی کہ

- ایک ان میں سے عرق انگور خام جب مسکر ہو جاوے۔
- دوم: عرق انگور مطبوخ جب مسکر ہو جاوے۔
- سوم: بکجور کا عرق خام جب مسکر ہو جاوے۔
- چہارم: عرق کشمش جب کہ وہ مسکر ہو (۳)

### کشمش اور چھوڑا رے ایک رات دن پانی میں بھگو کر اس کا پانی پینا

سوال: (۲۲۱) ایک شخص کشمش اور چھوڑا رے ایک رات دن پانی میں بھگو کر اس کا پانی پیا کر

(۱) الشّامی: ۳۳۴/۱، کتاب الطّہارة - باب المیاء - فصل فی البئر .

(۲) قوله: (فیطعم للکلاب)..... ویفہم منه أن العجین لیس بقید فغیرہ من الطّعام والشراب مثله، تأمل (الدّرالمختار والشّامی: ۳۳۴/۱، کتاب الطّہارة - فصل فی البئر)

(۳) والمحرّم منها أربعة أنواع: الأوّل: الخمر وهي النبیء..... من ماء العنب إذا علی واشتدّ وقذف أي رمی بالزّبد أي الرّغوة..... والثّانی: الطّلاء بالكسر وهو العصیر یطبخ حتی یذهب أقل من ثلثیه و یصیر مسکراً..... والثّالث: السّکر بفتح التّین وهو النبیء من ماء الرّطب إذا اشتدّ وقذف بالزّبد، والرّابع: نقیع الزّیب، وهو النبیء من ماء الزّیب بشرط أن یقذف بالزّبد بعد الغلیان (الدّرالمختار مع الشّامی: ۳۱-۲۶/۱۰، کتاب الأشربة)

تا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۶۹۱ھ)

الجواب: اگر نشہ نہ آوے درست ہے (۱) فقط

## شراب سرکہ بنانے سے حلال ہو جاتی ہے

سوال: (۲۲۲) اکثر لوگ شراب میں نمک ڈال کر سرکہ بناتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۱۹ھ)

الجواب: سرکہ بنانے سے شراب پاک ہو جاتی ہے اور حلال ہے (۲)

## بیمار کا شراب پینا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۲۳) شراب میں نمک ملا کر پینا یا بیمار کا شراب پینا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۷-۳۶/۱۳۳۹ھ)

الجواب: شراب کا استعمال کسی طریقہ سے جائز نہیں، البتہ اگر کوئی دیانت دار طبیب حاذق کسی مریض کے متعلق یہ فیصلہ کر دے کہ یہ مرض شراب کے سوا کسی اور دوا سے زائل نہ ہوگا تو اس وقت بہ قدر ضرورت اس کا استعمال جائز ہے، یا اگر نمک ڈالنے سے نشہ جاتا رہے اور وہ سرکہ بن جائے تب بھی اس کا استعمال درست ہے۔

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مُسَيِّ الثَّالِثَةِ، ثم يأمر به فيُسْقَى أو يُهْرَق.

وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّاءِ فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مُسَيِّ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَقَهُ

(الصحيح لمسلم: ۱۶۸/۲، كتاب الأشربة، باب إباحة النِّبِيدِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مَسْكُورًا)

(۲) الخمر ..... إِذَا خَلَّلَهُ بِعَلَاجٍ بِالْمَلْحِ أَوْ بِغَيْرِهِ، يَحِلُّ عِنْدَنَا (الفتاوى الهندية: ۴۱۰/۵، كتاب

الأشربة - الباب الأوّل في تفسير الأشربة الخ)

و أمّا طهارتها بانقلابها خلاّ فهي ثابتة بنصّ المجتهد أخذًا من إطلاق حديث: نعم

الإدام الخلّ (الشامي: ۲۹/۱۰، كتاب الأشربة)

## اسپرٹ کا استعمال اور خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۲۴) اسپرٹ کا استعمال اور بیع و شراء جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کو حلال کہنے والا قابل امامت ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۱۹۹ھ)

الجواب: شراب اسپرٹ کا استعمال ناجائز ہے، پس بیع و شراء اس کی بھی ناجائز ہے اور حرام ہے (۱) اور اس کو حلال کہنے والا اور بیچنے والا فاسق ہے، امامت اس کی مکروہ تحریمی ہے۔

(۱) اسپرٹ کے بارے میں اب نئی تحقیق یہ ہے کہ وہ شراب سے نہیں بنتی، اس لیے اس میں یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام نہیں۔ کفایت المفتی میں ہے:

جواب: (۱۶۵) انگریزی دواؤں میں اسپرٹ میتھی لیٹڈ (Spirit methylated) کی آمیزش ہوتی ہے، جو روغنوں اور رنگوں میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے، اور وہ شراب نہیں ہے، اس لیے اس کی آمیزش سے دواؤں کی بیع و شراء ناجائز نہیں ہوگی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ

(کفایت المفتی: ۱۳۷/۹، کتاب الحظر والإباحة، نواں باب، طب اور ڈاکٹری، فصل اول دواء وعلاج) اور بہشتی زیور میں ہے: ہر اسپرٹ اثر بہ اربعہ میں سے نہیں ہے، پس ایسی اسپرٹ کا شیخین کے نزدیک استعمال جائز ہے۔ (اختری بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۱۰۲، جمادات کا بیان)

تكملة فتح الملهم میں ہے: إن الكحول المسكرة (Alcohals) اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ، ولأغراض كيميائية أخرى ، ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثة ، وقد عمت بها البلوى ، واشتدت إليها الحاجة ، والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل ، لأنها إن لم تكن مصنوعة من النبيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده ، والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب ، بل تصنع من غيرها ، وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ۱۹۵۰م، ۵۳۳:۱ فوجدت فيها جدولاً للمواد التي تُصنع منها هذه الكحول ، فذكر في جملتها العسل ، والدبس ، والحب ، والشعير والجودار وعصير أناناس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر .

فالحاصل أن هذه الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر ، فبيعها للأغراض الكيميائية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ، وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من عصير العنب فكذا عند أبي حنيفة ، خلافاً لصاحبيه ، ولو كانت مصنوعة من العنب النبيء فبيعها حرام عندهم جميعاً = =

فی الدر المختار: وكره شرب دردي الخمر إلخ (۱) ولا شك أن العرق المستقطر من الخمر هو عين الخمر تتصاعد مع الدخان وتقطر من الطابق بحيث لا يبقى منها إلا أجزاءها الترابية - إلى أن قال - ولا يطهر بذلك، وإلا لزم طهارة البول ونحوه إذا استقطر في إناء إلخ (۲) (شامي) وفي الدر المختار: وحرم الانتفاع بها ولو لسقى دواب أو لطين أو نظر لتلهي أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلخ. قال الشامي تعليقا على قوله: (أو غير ذلك) لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام إلخ. وفي الدر المختار: ولا يجوز بيعها لحديث مسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها إلخ (۳) وفي الشامي في مقام آخر: وكذا لو وقعت في قدر الطعام نجسته وإن صارت طعاما كما لو وقعت فيه قطرة بول إلخ (۴) وفيه أيضا قلت: علم بهذا أن المعتمد المفتي به أن العرق لم يخرج بالطبخ والتصعيد عن كونه خمرا، فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر إلخ (۵)

### تاڑی پینا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۲۵) تاڑی کھجور جس کو کھجور رس کہتے ہیں اس کا پینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں

= = والظاهر أن معظم الكحول لا تصنع من عنب ولا تمر، فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا. (تكملة فتح الملهم: ۵۵۱/۱، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر، حكم الكحول المسكرة) خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسپرٹ (الکحل) شراب نہیں ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس کو حلال کہنے والا اور بیچنے والا نہ فاسق ہے نہ اس کی امامت مکروہ ہے۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری (۱) الدر المختار مع الشامي: ۳۸/۱۰، كتاب الأشربة .

(۲) شامي: ۴۸/۶، كتاب الحدود، باب حد الشرب، مطلب في نجاسة العرق ووجوب الحد بشربه .

(۳) الدر والرد: ۲۸/۱۰، كتاب الأشربة .

(۴) الشامي: ۲۹/۱۰، كتاب الأشربة .

(۵) الشامي: ۴۸/۶، كتاب الحدود، باب حد الشرب، مطلب في نجاسة العرق ووجوب الحد بشربه .

کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نشہ بالکل نہیں، البتہ اگر اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو نشہ آجاتا ہے، دریافت طلب یہ ہے کہ آیا وقت نشہ کے حرام ہے یا بالقوة جس میں نشہ پایا جائے وہ بھی حرام ہے؟ اور کل مسکر حرام سے کیا مراد ہے بالقوة یا بالفعل؟ (۸۶۴/۱۳۳۹ھ)

الجواب: جب تک اس میں نشہ نہ آئے اس وقت تک اس کا پینا جائز ہے جیسا کہ نبیذ تمر کے بارے میں احادیث میں اس کی تصریح ہے (۱) اور یہ جو حکم حدیث شریف میں ہے: ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (۲) یہ انہیں اشیاء میں جاری ہے جو بالفعل مسکر ہیں ورنہ کوئی نبیذ جائز نہ ہو، کیونکہ بالقوة سب میں قابلیت نشہ کی ہے۔ فقط

سوال: (۲۲۶) زید بہ وجہ علالت بہ غرض علاج چاہتا ہے کہ تاڑی کا استعمال کرے اس طور پر کہ بعد مغرب کو راتر تن تاڑیا کھجور میں لگا دیا جاوے اور صبح کو استعمال میں لاوے صورت مذکور میں اس کا استعمال جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۷۵ھ)

الجواب: اگر اس حالت میں اس میں سکر یعنی نشہ آجاتا ہے تو اس کا پینا حرام ہے کیونکہ ہر ایک مسکر حرام ہے، اور اگر اس حالت میں اس میں نشہ نہیں آتا، بلکہ نشہ کچھ دیر میں آتا ہے، تازہ میں نشہ فوراً نہیں آتا تو پھر استعمال اس کا قبل مسکر ہونے کے جائز ہے۔

## تاڑی کی روٹی کا حکم

سوال: (۲۲۷)..... (الف) نئے درخت کی تاڑی جو کہ درخت کو دو ایک روز بنانے کے بعد

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يند له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليل التي تجيء والغد والليل الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، رواه مسلم (مشكاة المصابيح: ص: ۳۷۲، كتاب الأطعمة، باب النقيع والأنبذة، الفصل الأول)

وفى رواية قال: نهيتكم عن الأشرطة إلا فى ظروف الأدم، فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً. رواه مسلم (حوالہ سابقہ)

(۲) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام رواه الترمذي و أبو داود و ابن ماجه (مشكاة المصابيح: ص: ۳۱۷، كتاب الحدود، باب بيان الخمر و وعيد شاربها، الفصل الثاني)

نکالتے ہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا، اس کو یہاں وہ لوگ بھی پیتے ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں، اس کا پینا درست ہے یا نہیں؟

(ب) تنوری روٹی میں جس وقت اس کا آٹا گوندھتے ہیں، تو بجائے خمیر کے تاڑی ڈالتے ہیں، اس تاڑی میں نشہ ہوتا ہے، اس روٹی کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۹۱۲/۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف - ب) تاڑی میں جب تک نشہ نہ ہو اس وقت تک اس کا پینا درست ہے جیسا کہ نیذ تم وغیرہ قبل نشہ دار ہونے کے حلال ہے، اور روٹی خمیر میں اس کا پڑنا روٹی کو ناجائز نہیں کرتا وہ روٹی کھانا درست ہے (۱) فقط

### افیون اور تمباکو کھانا پینا کیسا ہے؟

سوال: (۲۲۸) افیون کا کھانا کیسا ہے؟ اور تمباکو کھانا اور پینا کیسا ہے؟ (۱۱۶۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: تمباکو کھانا اور پینا مباح ہے لیکن بلا ضرورت اچھا نہیں ہے یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔

کذا فی الشّامی (۲) (ج: ۵، کتاب الاُشربة) اور افیون کا کھانا حرام ہے، لیکن قلیل افیون کہ حد سکر کو نہ پہنچے بہ غرض تداوی مباح ہے، کذا فی الشّامی (۳) فقط

(۱) کیونکہ نشہ آور تاڑی کی مقدار قلیل ہے، اور خمر کے علاوہ جو شرابیں ہیں وہ پاک ہیں، اگرچہ نشہ آور ہونے کی وجہ سے ان کا پینا حرام ہے۔ کفایت المفتی میں ہے: ”سوائے انگور کی شراب کے — جو خمر ہے — اور شرابیں ناپاک نہیں ہیں، نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام تو ہیں مگر ناپاک نہیں (کفایت المفتی: ۴/۱۴۲، کتاب الحظر و الاباحہ - جواب: (۵۷)، مطبوعہ: مکتبہ امدادیہ، پاکستان)

(۲) وفي الأُشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف ..... فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتُّن فتنه، وفي الشّامی: قوله: (الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأوّل عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (الدرّ والرّد: ۱۰/۴۲، کتاب الاُشربة)

(۳) يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي أوّل طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والافیون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصداً لكونه معصيةً، وإن كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والافیون لا للدواء، وفي البرازية: والتعليل ينادي بحرمة لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النّهر هذا التفصيل هو الحقّ (الشّامی: ۱۰/۳۸، کتاب الاُشربة)

## افیون پاک ہے

سوال: (۲۲۹) افیون کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۶۶۲ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج و حشيشة و أفيون إلخ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ افیون کا کھانا حرام ہے اور شامی میں ہے کہ کھانا افیون کا بدون تداوی کے حرام ہے اور اگر بہ ضرورت تداوی و علاج ہو تو درست ہے۔ و هو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء — إلى أن قال — وإن كان للتداوي فلا لعدمها (۲) فقط

سوال: (۲۳۰) افیون ناپاک ہے یا پاک؟ (۱۳۳۷/۲۷۲۵ھ)

الجواب: افیون پاک ہے۔ كما حققه في الشامي: والحاصل: أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام ”الغاية“ (۳)

## افیون نہ کھانے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟

سوال: (۲۳۱) ایک شخص افیون کھانے کا عادی ہے بغیر اس کے چارہ نہیں بلکہ اندیشہ ہلاکت ہے، شرح مشکاة: ص: ۱۴۵ میں ہے کہ افیون خوار کے منہ سے مرتے وقت کلمہ شہادت نہیں نکلے گا، اس معذوری کی حالت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۱۴۵۹ھ)

الجواب: افیون کھانے کی عادت کرنا بے شک حرام ہے، اس کے چھوڑنے کی یہ تدبیر کی جائے کہ تھوڑی تھوڑی کم کی جائے اور بہ مجبوری جب تک بالکل نہ چھوڑے تو بہ واستغفار کرتا رہے، پھر رفتہ رفتہ چھوڑ دیوے، ایک دم چھوڑنے میں شاید زیادہ اندیشہ ہو۔ فقط

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۵۳/۶، کتاب الحدود، باب حد الشرب، مطلب في البنج والأفيون والحشيشة.

(۲) الشامي: ۳۸/۱۰، کتاب الأشربة.

(۳) رد المحتار: ۳۹/۱۰، کتاب الأشربة.

دردزہ کی تکلیف سہنے کے لیے شراب کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۳۲) حاملہ کو دردزہ کی تکلیف سہنے کے لیے شراب کا استعمال جائز ہے یا نہ؟ بعض ملا جائز کہنے والوں اور استعمال کرنے اور کرانے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۳-۳۳/۹۸۶ھ)

الجواب: جائز نہیں ہے، اور جائز کہنے والے اور استعمال کرانے والے عاصی و گنہگار ہیں۔ فقط

بچے کو سلانے کے لیے افیون دینا

سوال: (۲۳۳) بچہ تمام شب بہ وجہ دودھ کم ہونے کے ماں کی دودھیوں سے لپٹا رہتا ہے، اس وجہ سے بچہ کی ماں کو سخت درجہ تکلیف رہتی ہے اگر اس تکلیف کی وجہ سے بچہ کو افیم دیدی جائے تاکہ بچہ کی ماں کو رات کو سونا اور آرام ہو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۸۳ھ)

الجواب: اس صورت میں بچہ کو افیم دینا درست نہیں ہے، البتہ اگر اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بھوکا رہ کر سوتا نہیں تو اس کے لیے غذا کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ شکم سیر ہو کر سو جائے۔ فقط

افیون اور بھنگ ملی ہوئی دوا استعمال کرنا

سوال: (۲۳۴) افیون اور بھنگ جس دوا میں شامل ہو اتنی کہ جس سے نشہ نہ آوے اس کا کھانا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۰/۱۵۴۰ھ)

الجواب: اس میں اختلاف ہے اگر ضرورت سخت ہو اور اس دوا کا بدل حلال دوا سے نہ مل سکے اور طبیب مسلم حاذق کی رائے میں وہ دوا مفید ہو تو اس کا کھانا اور استعمال کرنا درست ہے بلا سخت ضرورت کے جائز نہیں ہے (۱)

(۱) و جوزه فی النہایۃ بمحرم إذا أخبره طبیب مسلم أن فیہ شفاء ولم یجد مباحاً یقوم مقامہ الدر المختار مع الشامی: ۴/۹، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع



## چرس اور سُم الفار کا حکم

سوال: (۲۳۵) افیون و چرس (۱) و سُم الفار (۲) حلال است یا حرام؟ (۱۳۳۷ھ/۱۳۳۵ھ)

الجواب: افیون و چرس و بھنگ حرام است، صاحب درمختار آورده: و یحرم أكل البنج و الحشيشة هی ورق القنب والأفیون إلخ (۳) و سُم الفار قاتل است پس در حرمتش تردد نیست۔ فقط

ترجمہ: سوال: (۲۳۵) افیون، چرس اور سُم الفار حلال ہے یا حرام؟

الجواب: افیون، چرس اور بھنگ حرام ہے۔ درمختار میں ہے: اور حرام ہے کھانا بھنگ اور حشیشہ کا، اور حشیشہ: قُنْبِ ہندی کا پتہ ہے، اور افیون کھانا بھی حرام ہے، اور سُم الفار قاتل ہے، لہذا اس کی حرمت میں کوئی تردد نہیں۔

## حقہ پینے کا حکم

سوال: (۲۳۶) زید نے کہا کہ بعض علمائے کرام حقہ کو حرام کہتے ہیں، اور بعض مکروہ تحریمی، اور بعض مکروہ تنزیہی، زید کے اس کہنے پر عمر نے جو امام مسجد ہے بہت سخت کلامی کی کہ جو حقہ کو حرام کہے وہ حرامی نطفہ حرام ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو قابل نقل کے نہیں ہیں علماء کی شان میں کہیں، اور بیہودہ کہا، اب عمر کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳ھ/۱۳۳۲ھ)

الجواب: زید کا یہ قول کہ بعض علماء حقہ کو حرام کہتے ہیں، اور بعض مکروہ تحریمی اور بعض مکروہ تنزیہی یہ قول مطابق ہے کتب فقہ کے کہ کتب فقہ میں یہ ہر سہ قول در بارہ حقہ کے موجود ہیں، لیکن صحیح تر یہ ہے کہ حقہ مباح ہے مگر غیر اولیٰ ہے، یہی حاصل مکروہ تنزیہی کا ہے، اسی قول کو صاحب رد المحتار

(۱) چرس: ایک نشہ جو بھنگ کے پتوں اور افیون سے تیار کیا جاتا ہے اسے تمباکو کی طرح پیتے ہیں (فیروز اللغات)

(۲) سُم الفار: ایک زہریلا پتھر (فیروز اللغات)

(۳) الدر المختار مع الشامی: ۳۸-۳۹، کتاب الأشربة .

شامی نے صحیح اور رائج قرار دیا ہے (۱) الغرض حقہ مباح اور درست ہے مگر اچھا نہیں ہے، پس زید کو چاہیے تھا کہ فقط یہی قول اباحت کا نقل کرتا، کیوں کہ حرمت و کراہت تحریمی کا قول معتبر نہیں ہے، بہر حال عمر کو ہرزہ سرائی موجب نفرت و ملامت و معصیت ہے عمر ان کلمات فحش سے سخت گنہ گار ہوا اور فاسق ہو گیا، قابل امام بنانے کے نہیں ہے، نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے؛ جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس کو امام نہ بنایا جاوے۔ فقط

سوال: (۲۳۷) مجھے حقہ پینے کی عادت ہے، وجہ یہ ہوئی کہ میرے شکم میں ایک مرتبہ بہت سخت درد ہوا، اور کسی دوا سے نفع نہ ہوا، البتہ حقہ سے درد موقوف ہو گیا، اس وقت سے میں حقہ پینے کا عادی ہو گیا، اس صورت میں حقہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ جو مشہور ہے کہ حقہ پینے والے کو زیارت رسول اللہ ﷺ کی نہ ہوگی یہ صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۷۴/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: علامہ شامی نے اول بعض اقوال حقہ کی ممانعت اور کراہت کے نقل فرما کر آخر میں یہ لکھا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے لیکن غیر اولیٰ ہے، پس جو ضرورت سوال میں درج ہے اس کے موافق حقہ پینا بلا کراہت درست ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ حقہ پینے والے کو زیارت رسول اللہ ﷺ کی نہ ہوگی بے اصل ہے، جو چیز شریعت میں مباح سمجھی جاوے اس میں ایسی وعید کس طرح ہو سکتی ہے؟! علامہ شامی نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ حقہ کے مباح ہونے پر ائمہ اربعہ کے علمائے معتمد علیہم نے فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے استاذ سید عارف عبدالغنی نابلسی نے ایک رسالہ حقہ کے مباح ہونے پر لکھا ہے اس کا نام الصلح بین الإخوان فی إباحة شرب الدخان رکھا ہے، اس رسالہ میں حقہ کے حرام یا

(۱) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه ، فبعضهم قال بکراہتہ وبعضهم قال بحرمتہ،

وبعضهم بإباحته و أفردوه بالتأليف ، وفي شرح الوهبانية للشرنبلالی :

وَيُمنَعُ من بيع الدخان وشربه ❁ وشاربُه في الصوم لاشك يُفْطِرُ

..... قلت : و ألف في حله أيضا سيدنا العارف عبدالغني النابلسي رسالة سماها

”الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان“ ..... فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء

كان ممن يتعاطاه أو لا، كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول: هو مباح ، لكن

رائحته تستكرهها الطباغ ، فهو مكروه طبعاً لا شرعاً ..... قال أبو السعود : فتكون الكراهة

تنزيهية ، والمكروه تنزيهاً يجامع الإباحة (رد المحتار: ۱۰/۴۰-۴۲، كتاب الأشرية)

مکروہ کہنے والوں پر تشدد کیا ہے، اور حرام اور مکروہ کہنے کو بے دلیل لکھا ہے، آخر میں یہ لکھا ہے کہ  
 فالَّذِي يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا سئِلَ عَنْهُ سِوَاءَ كَانِ مَمَّنْ يَتَعَاطَاهُ أَوْ لَا كَهَذَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ  
 وَجَمِيعٌ مِنْ فِي بَيْتِهِ أَنْ يَقُولَ: هُوَ مَبَاحٌ، لَكِنْ رَائِحَتُهُ تَسْتَكْرِهَهَا الطَّبَاُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ طَبْعًا  
 لَا شَرْعًا إلخ (۱) (۲۹۶/۵)

سوال: (۲۳۸) حقہ پینا کیسا ہے؟ اور بدبودار چیز کی طرح اس کو پی کر مسجد میں آنا مکروہ ہے یا  
 نہیں؟ جیسا کہ سگریٹ وغیرہ۔ (۱۳۳۱/۹۷۵)

الجواب: شامی نے یہ تحقیق کیا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے مگر اچھا نہیں ہے یعنی غایت اس کی  
 کراہت تنزیہی ہے اور بدبو کی وجہ سے حقہ پی کر مسجد میں آنا مکروہ ہے جیسا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا  
 کر، اور سگریٹ میں بھی اس وجہ سے کراہت ہے (۲)

سوال: (۲۳۹) حقہ پینا حرام ہے یا گناہ، یا کیا حکم ہے؟ جو شخص حقہ پیوے اس کی نسبت کیا  
 ارشاد ہے؟ یعنی ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر حقہ نہ پیوے تو پیٹ میں تکلیف ہو۔  
 (۱۳۳۵/۱۰۱۷)

الجواب: حقہ پینا حرام نہیں ہے، فقہائے محققین نے لکھا ہے کہ حقہ پینا مکروہ تنزیہی ہے یعنی  
 خلاف اولیٰ ہے، پس بہ ضرورت مذکورہ اگر کوئی شخص صاف کر کے حقہ پیوے تو کچھ حرج اور گناہ نہیں  
 ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) قوله: (والتثنى إلخ) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بکراہیتہ، و  
 بعضهم قال بحرمتہ وبعضهم بإباحته وأفردوه بالتأليف ..... وللعلامة الشيخ علي  
 الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب  
 الأربعة، قلت: و ألف في حله أيضًا سيدنا العارف عبدالغني النابلسي رسالة سماها الصلح  
 بين الإخوان في إباحة شرب الدخان ..... فالَّذِي يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا سئِلَ عَنْهُ إلخ  
 (رد المحتار، الشامي: ۴۰/۱۰-۴۱، كتاب الأشربة)

(۲) ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما  
 (الشامي: ۴۲/۱۰، آخر كتاب الأشربة)

## جولوگ حقہ پیتے ہیں ان کو آبِ کوثر ملے گا یا نہیں؟

سوال: (۲۴۰) جولوگ حقہ پیتے ہیں ان کو آبِ کوثر ملے گا یا نہیں؟ (۱۳۴۱/۲۴۴) ھ  
الجواب: حقہ پینے کے بارے میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مباح ہے حرام نہیں ہے، البتہ اس سے بچنا اچھا ہے، اور جو شے جائز ہو اس پر عذاب نہیں ہے، اور جنت اور آبِ کوثر سے محروم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

## حقہ پینے والے کو مرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ

### کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں؟

سوال: (۲۴۱) بے فائدہ حقہ کی عادت ڈالنا کیسا ہے؟ حقہ پی کر مسجد میں جانا، قرآن شریف پڑھنا اور قرآن کا سبق بچوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ حقہ پینے والے کو بعد مرگ، رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوگی یا نہ؟ (۱۳۴۳/۳۹۳) ھ

الجواب: حقہ کو مباح لکھا ہے، مگر غیر اولیٰ ہے یعنی بے ضرورت پینا اچھا نہیں ہے مکروہ تنزیہی ہے، اور بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا اور قرآن شریف پڑھنا بھی مکروہ ہے اور قرآن شریف کا سبق پڑھنا بھی اس حالت میں اچھا نہیں ہے (۱) اور جو فعل جائز ہے اس پر یہ وعید نہیں ہو سکتی کہ بعد مرگ کے آنحضرت ﷺ کی زیارت اس کو نہ ہو۔ فقط

## حقہ کا پانی کب بدلنا چاہیے؟

سوال: (۲۴۲) حقہ پینا جس سے کئی روز پانی نہیں بدلا جاتا اور منہ کو بدبو دار بنا دیتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۱/۲۵۳) ھ

(۱) ویؤخذ منه کراهۃ التحریم فی المسجد للنہی الوارد فی القوم والبصل وهو ملحق بہما، والظاہر کراهۃ تعاطیہ حال القراءۃ لما فیہ من الإخلال بتعظیم کتاب اللہ تعالیٰ (الشامی: ۴۲/۱۰، کتاب الأشربة)

الجواب: شامی میں تحقیق قول یہ لکھا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے، مگر احتراز اس سے اولیٰ ہے گویا مکروہ تنزیہی ہے خصوصاً بہ صورت مذکورہ کہ کئی کئی دن پانی نہ بدلا جاوے جس کی وجہ سے بدبو زیادہ ہو، کراہت اس کی ظاہر ہے۔ قَالَ فِي ردّ المحتار: و للعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة، قلت: وألف في حله أيضاً سيّدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سمّاها ”الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان“ وتعرّض له في كثير من تأليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة — إلى أن قال — فهو مكروه طبعاً لا شرعاً إلخ (۱) فقط سوال: (۲۴۳) حقہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر حقہ پئے تو کس طرح؟ جب ارادہ پینے کا کرے از سر نو پانی ڈالے یا جو پہلے حقہ میں پانی ہے وہی رہنے دے؟ اور حقہ پینے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۵۴۸)

الجواب: حقہ پینا جائز ہے، صاف رکھنا اور ہمیشہ پانی بدلنا عمدہ بات ہے، جو بچ سکے اچھا ہے، کیونکہ شامی میں صحیح یہ لکھا ہے کہ حقہ پینا اگرچہ درست ہے مگر مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، اور اس کے پیچھے نماز درست ہے۔

### حقہ نوش کے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۴۴) حقہ نوش کے منہ کی بدبو نہیں جاتی اور اسی بدبو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، درود و وظائف پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے اور اس کے منہ کی گندی ہوا موجب ایذائے فرشتگان ہوتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۵۵۵)

الجواب: نماز ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، مثلاً بدبو سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِمَّا يَتَأْذَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ الْحَدِيثُ

رواہ الشیخ خان (۱) پس جن حقہ پینے والوں کے منہ سے بدبو آتی ہے ان کی بدبو سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے مناسب ہے کہ ایسے فعل کا ارتکاب نہ کیا جائے جس سے فرشتوں اور آدمیوں کو تکلیف ہو۔ فقط

### قرآن شریف کی تعلیم کے دوران مکتب میں بیٹھ کر حقہ پینا

سوال: (۲۴۵) ایک مسجد کے دروازہ کے اندر محدود مسجد میں حجرہ بنا ہوا ہے، حجرہ کے سامنے دالان ہے، دالان میں نالی واقع ہے جس میں نمازی وضو کرتے ہیں، اس دالان میں جنبی بھی آسکتا ہے، اس میں لڑکے قرآن شریف کی تعلیم پاتے ہیں، معلم صاحب اسی دالان و حجرہ میں وقت تعلیم دینے کے حقہ نوشی کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ (۱۳۳۹ھ/۱۶۳)

الجواب: یہ صورت حقہ نوشی کی نہایت مکروہ و مذموم ہے، معلم کو ایسی جگہ اور ایسے اوقات میں اس سے احتراز لازم ہے۔ فقط

### تمباکو اور چونا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۴۶) تمباکو جو برگ تنبول کے ساتھ کھایا جاتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸ھ/۲۵۷)

الجواب: محققین فقہاء تمباکو کا کھانا پینا مباح فرماتے ہیں۔ کما فی الشامی کتاب الأشربة جلد خامس: و ألف فی حلہ أيضًا سیدنا العارف عبد الغنی النابلسی رسالة سماها ”الصلح بین الإخوان فی إباحة شرب الدخان“ وفيه قبيله: وللعلامة الشيخ علی الأجهوري المالکي رسالة فی حلہ نقل فيها أنه أفتی بحلہ من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة إلخ (۲) البتہ بلا ضرورت تمباکو کا کھانا پینا غیر اولیٰ لکھتے ہیں کذا فی الشامی (۲)

(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل و الكراث فغلبتنا الحاجة، فاكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة الحديث (الصحيح لمسلم: ۱/۲۰۹، كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثوما أو بصلا الخ)

(۲) رد المحتار: ۱۰/۴۰-۴۱، کتاب الأشربة.

سوال: (۲۴۷) حقہ پینا تمباکو اور چونا کھانا کیسا ہے؟ (۱۱۸۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: حقہ پینا، تمباکو کھانا بلا ضرورت خلاف اولیٰ ہے، اور چونا قلیل پان میں کھانا درست ہے۔

سوال: (۲۴۸) پان میں چونا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۱۷/۱۳۳۱ھ)

الجواب: درست ہے۔ فقط

سوال: (۲۴۹) حقہ پینا اور پان میں تمباکو کھانا کیسا ہے؟ (۱۴۱۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: حقہ پینا اور پان میں تمباکو کھانا مباح ہے۔

سوال: (۲۵۰) حقہ پینا اور تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور پان کے ساتھ چونا کھانا جائز ہے

یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: حقہ پینے کو شامی نے یہ تحقیق کیا ہے کہ مباح ہے مگر اچھا نہیں ہے یعنی مکروہ تنزیہی

ہے، اور یہی حکم تمباکو کھانے کا ہے اور پان میں چونا کھانے کو بھی علماء نے مباح لکھا ہے، پس ایسے امور

میں تشدد مناسب نہیں ہے، جو چیز شریعت سے درست ہے اس میں کچھ جھگڑا کرنا نہ چاہیے۔ فقط

### تمباکو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۵۱) تمباکو فروش کی دعوت کھانا، اور تمباکو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲۴۵۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: درست ہے، کیوں کہ تمباکو کا استعمال مباح ہے۔ و تحقیقہ فی الشامی (۱)

### تمباکو کھانے، پینے اور سونگھنے میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۵۲) تمباکو کھانے اور پینے یا سونگھنے میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ (۱۵۱۶/۴۳-۱۳۳۵ھ)

(۱) وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف ..... فيفهم منه حكم النبات الذي

شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنه ، وفي الشامي: قوله: (الأصل الإباحة أو التوقف) المختار

الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول

(الدرر والرد: ۴۲/۱۰، كتاب الأشربة)

الجواب: کچھ فرق نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### بیڑی اور سگریٹ پینا

سوال: (۲۵۳) سگریٹ اور بیڑی کا پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۹۳)

الجواب: اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔

سوال: (۲۵۴) ایک شخص نے حقہ پینا چھوڑا، اور آئندہ پینے کی نسبت اس طرح عہد کیا کہ مجھ پر مثل سور اور شراب کے حقہ حرام ہے، چند سال کے بعد اس کو ضرورت ہوئی، اور وہ صرف اپنے عہد کے خیال سے بجائے حقہ کے سگریٹ پینے لگا، اور سگریٹ میں شراب کی آمیزش بتلاتے ہیں، صرف نام حقہ نہیں ہے حقیقت وہی ہے، اور ضرورت مرض کسی قدر اس کو حقہ یا سگریٹ پینے پر مجبور کرتی ہے، ایسی حالت میں وہ کس طرح سبکدوش ہو سکتا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۸۲۵)

الجواب: حقہ پینا دراصل مباح ہے اور حلال ہے، اور حلال کو حرام کرنا قسم ہے، اس لیے اگر وہ شخص حقہ پیوے گا تو کفارہ قسم کا اس کے ذمے لازم ہے، اور سگریٹ میں چونکہ شبہ آمیزش شراب کا ہے تو اس کو ترک کرنا چاہیے، اور ضرورت ہو تو حقہ پینا چاہیے، اور کفارہ قسم کا دے دیوے، کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دیوے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین روزے متواتر رکھے (۱)

### نسوار استعمال کرنا

سوال: (۲۵۵) نسوار اور حقہ حرام ہے یا حلال؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۴۰۸)

الجواب: نسوار (۲) وحقہ کا استعمال درست ہے مگر اچھا نہیں ہے بلا ضرورت نہ ہونا چاہیے۔

(۱) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (سورہ مائدہ: آیت: ۸۹)


(۲) نسوار: سوگھنے کا پیا ہوا تمباکو (فیروز اللغات)

اور تمباکو کوٹ کر اس میں چونے کا پانی ملا کر خوب رگڑتے ہیں، پھر اس کو ہونٹ کے نیچے رکھتے ہیں، سرحدی لوگ اس کو بہ کثرت استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی نسوار کہتے ہیں۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری



## حلال روزی تلاش کرنا

سوال: (۲۵۶) روزی تلاش کرنا فرض ہے یا سنت یا مستحب؟ (۱۶۷۹/۳۳-۳۴/۱۳۳۴ھ)  
 الجواب: حلال روزی طلب کرنا فرض ہے (۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (سورة مومن، آیت: ۵۱) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الْآيَةَ﴾ (سورة بقرہ، آیت: ۱۷۲)



(۱) ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (سورة جمعہ، آیت: ۱۰)  
 عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح، ص: ۲۴۲، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث)

## لباس، زیور اور زینت کے احکام

### اسلامی اور غیر اسلامی لباس

سوال: (۲۵۷) چونکہ آج کل خواص و عوام مندرجہ ذیل لباس زیب تن فرماتے ہیں، مگر بعض اوقات اس قدر بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ سخت گنہ گار ہو جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، شرع شریف کا مطلق خیال نہیں کرتے، آیا مندرجہ ذیل لباس جائز ہے یا نہیں؟ عمامہ، ٹوپی جس کی مختلف قسمیں ہیں، قمیص، واسکٹ، صدری، اچکن، انگا، جامہ، کوٹ، شیروانی، عبا، چونغہ، جبہ، پانجامہ، تہبند، لنگی۔ (۱۳۳۷/۲۳۸۴ھ)

الجواب: اس بارے میں ایک حکم کلی حدیث شریف میں وارد ہے، پس اسی کے موافق جزئیات کا حکم معلوم ہو سکتا ہے، ایک حدیث شریف یہ ہے: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُلُّ مَا شِئْتُ، وَالبَسَ مَا شِئْتُ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَتَانِ: سَرَقَ أَوْ مَخْلِيَةً، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱) اور اس مطلب میں حدیث مرفوع ہے: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالبَسُوا مَا لَمْ يَخَالَطِ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (۲) اور دوسری حدیث یہ ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (۳) پس لباس اور وضع جو کچھ اختیار کرے درست ہے، بہ شرطیکہ اس میں تشبہ کفار کے ساتھ نہ ہو، اس قاعدہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ غیر اقوام کے ساتھ مشابہت نہ ہو، باقی جو قسم رواج ملکی ہو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط

(۱) صحیح البخاری: ۸۶۰/۲، أوائل کتاب اللباس .

(۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الحديث (مشكاة المصابيح: ص: ۳۷۷، کتاب اللباس - الفصل الثالث)

(۳) سنن أبي داود: ص: ۵۵۹، کتاب اللباس - باب في لبس الشهرة .

مسئلہ (۱): سر کی پوشاک (عمامہ) جائز و مستحسن ہے۔

(۲) ٹوپی: سب قسم کی کلاہ (ٹوپی) درست ہے، بہ شرطیکہ ریشمی اور ایسی کام دار (یعنی زری کا کام کیا ہوا) نہ ہو کہ تمام کو مستغرق ہو اور انگریزی نہ ہو اور دیگر اقوام غیر اہل اسلام کا شعار نہ ہو۔

(۳) کرتا و قمیص (۱) درست ہے، بہتر کرتا ہے۔

(۴) واسکٹ اچھا نہیں، صدری درست ہے۔

(۵) اچکن انگر کھا شیروانی، عبا، چونو وغیرہ سب درست ہے، کوٹ بھی جائز ہے اگرچہ بعض

اقسام اس کی پسندیدہ نہیں ہیں۔

(۶) پانجامہ، تہبند، لنگی سب جائز ہے، پانجامہ ہر قسم کا درست ہے، مگر ٹخنے سے اونچا ہونا چاہیے، لنگی کی وضع کفار کی سی ہونا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کشف عورت نہ ہو تو نماز اس سے صحیح ہے۔ فقط

سوال: (۲۵۸)..... (الف) من تشبہ بقوم فہو منہم (۲) سے کیا مراد ہے؟

(ب) موجودہ انگریزی پوشاک جیسے سوٹ بوٹ کوٹ، پتلون، اور ہیٹ کالر وغیرہ میں سے

فرڈا فردا کونسی چیز کا استعمال جائز ہے یا کہ جملہ چیزیں ناجائز ہیں؟ (۱۸۸/۱۳۴۳ھ)

الجواب: (الف - ب) من تشبہ بقوم فہو منہم (۲) میں تشبہ باللباس وبالصورۃ

وبالاخلاق والأعمال سب داخل ہیں (۳) اس کی تفصیل زبانی کسی عالم سے (معلوم) کر لیں

اور انگریزی سوٹ بوٹ پتلون ہیٹ وغیرہ سے احتراز کریں اور اس سے مسلمان سخت نفرت رکھے

اور صورت اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ کی سی بنائے اور وہی لباس و ہیئت پسند کرے۔

سوال: (۲۵۹)..... (الف) وہ کون لباس ہے جس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟

(۱) کرتا: بے کالر کی قمیص — قمیص: کالر والا کرتا۔ (فیروز اللغات)

(۲) سنن أبي داود: ص: ۵۵۹ کتاب اللباس — باب في لبس الشهرة.

(۳) قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم (أي من شبه نفسه

بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء

الأبرار (فہو منہم) أي في الإثم والخير (مرقاۃ المفاتیح، شرح مشکاة المصابیح: ۲۵۵/۸،

کتاب اللباس، الفصل الثانی، المطبوعة: مکتبة إمدادیة، ملتان، پاکستان)

(ب) اسلام نے اہل اسلام کے واسطے کون لباس بنایا ہے اور کیوں؟ مدلل تحریر فرمائیں۔

(۱۱۸۵/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف) وہ شرعی لباس ہے، جس میں کفار کے ساتھ تشابہ نہ ہو اور ریشم وغیرہ کا لباس نہ ہو جو حرام کیا گیا ہے اور حد شرعی کے موافق ہو، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں وغیرہ۔

(ب) اس کی تفصیل وہی ہے جو (الف) میں ہے، جس قسم کے لباس کو اور جس قسم کی ہیئت کو شریعت نے منع فرمایا ہے وہ لباس اور وہ ہیئت منافی کمال اسلام کے ہے، اور جس لباس میں شریعت کا خلاف نہ ہو وہ اسلام کا لباس ہے۔

سوال: (۲۶۰) مسلمانوں کو کس قسم کا لباس پہننا چاہیے؟ (۱۴۷۳/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: کرتا، پانجامہ، عمامہ، چوغا، صدری وغیرہ پہننا شرعی لباس ہے، اچکن اور انگر کھا بھی جائز ہے، پانجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹوپی سادہ معمولی پہنی جائے، جو تادہی معمولی پہنے، ترکی ٹوپی یا بوٹ پہننا اچھا نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۲۶۱)..... (الف) کون لباس اسلامی لباس ہے؟

(ب) جہاں انگلش پوشاک کا رواج ہو وہاں انگلش پوشاک کا پہننا عیب ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۶-۳۵/۳۳۶ھ)

الجواب: (الف) اسلامی لباس وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور غیر مذہب والوں کے ساتھ مشابہت لباس میں ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن اگر کسی جگہ عام لوگ انگریزی لباس پہنتے ہوں اور وہاں اسی کا رواج و عادت ہو، تو ان کے لیے وہ لباس ممنوع نہ ہوگا۔

(ب) جہاں اس کا رواج ہے وہاں کچھ عیب نہیں۔ کما فی الجواب الأول. فقط

پانجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے

سوال: (۲۶۲) نماز میں ٹخنوں سے نیچے پانجامہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۱۵۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: نماز میں ٹخنوں سے نیچے پانجامہ لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب سے محروم رہے گا، نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کے لیے (یعنی جو شخص ٹخنوں

سے نیچے پانچامہ پہنتا ہے اس کے لیے) بہت وعید آئی ہے (۱)

سوال: (۲۶۳) ٹخنوں کا تہبند سے چھپا رکھنا نماز میں کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۳۳۳ھ)

الجواب: ٹخنوں کا پانچامہ یا تہبند سے چھپا رکھنا (یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا) حرام ہے اور نماز اس حالت میں مکروہ تحریمی ہے گو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر حدیث شریف میں اس حال سے نماز پڑھنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ ابوداؤد شریف میں ہے: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضاً — إلى أن قال: — وإن الله جلّ ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره الحديث (۲)

### مردوں کو سرخ کپڑے پہننا کیسا ہے؟

سوال: (۲۶۴) عورتوں کی طرح سرخ رنگین کپڑے پہننا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۲۹۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال، مفاده أنه لا يكره للنساء إلخ وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس بلبس الثوب الأحمر اهـ ومفاده أن الكراهة تنزيهية إلخ (۳) حاصل یہ ہے کہ کم کا رنگا ہوا سرخ اور زعفران کا رنگا ہوا زرد مردوں کو مکروہ ہے، اور پھر شرح نقایہ وغیرہ سے اس کی حلت

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً، متفق عليه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجرّ إزاره من الخيلاء خُسِفَ به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ، رواه البخاري .  
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه البخاري (مشكاة المصابيح ، ص: ۳۷۳، كتاب اللباس ، الفصل الأول)

(۲) سنن أبي داؤد، ص: ۹۳، كتاب الصلاة — باب الإسبال في الصلاة، وفيه أيضاً، ص: ۵۶۵، كتاب اللباس — باب ما جاء في إسبال الإزار.

(۳) الدر المختار مع رد المحتار: ۴۳۶/۹، كتاب الحظر والإباحة — فصل في اللبس .

نقل کی ہے اور ایک قول استحب کا بھی لکھا ہے، بہر حال بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے کا استعمال نہ کرے لیکن یہ حرام نہیں ہے، خصوصاً وہ سرخ رنگ جو کسم کا نہ ہو اور نجاست ہونا بھی اس میں معلوم نہ ہو، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو مستحب کہا ہے۔ وللشرب لبلائی فیہ رسالۃ نقل فیہا ثمانیۃ اقوال، منها اَنَّهُ مستحب (۱) (درمختار)

سوال: (۲۶۵) سرخ لباس مردوں کو پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواز و عدم جواز کسی قید کے ساتھ مقید ہے یا نہیں؟ (۳۵/۳۵۸-۱۳۳۶ھ)

الجواب: سرخ لباس مردوں کو درست ہے مگر اچھا نہیں، یعنی مکروہ تنزیہی ہے اور اگر ریشم کا ہے تو حرام ہے، اور کسم کا رنگا ہوا سرخ مکروہ ہے۔ و کرہ لبس المعصفر، والمزعفر الأحمر، و الأصفر للرجال إلخ (۲) (درمختار) فقط

### مردوں کو باریک کپڑا پہننا

سوال: (۲۶۶) مردوں کو کپڑا باریک پہننا درست ہے یا نہیں؟ (۲۹/۱۸۰-۱۳۳۰ھ)

الجواب: باریک کپڑا پہننا مردوں کو درست ہے، مگر پانچامہ یا تہبند باریک جس میں ستر نظر آوے درست نہیں ہے۔ فقط

### مردوں کو ریشمی کپڑے استعمال کرنا جائز نہیں

سوال: (۲۶۷) ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام کیوں ہے؟ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو مرد اس دنیا میں ریشم کا کپڑا نہ پہنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ریشم کا کپڑا پہنائے گا۔ (۱۱۲۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا اسی دلیل سے حرام ہے کہ احادیث میں آنحضرت

(۱) حوالہ سابقہ۔

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۳۶/۹، کتاب الحظر والإباحۃ - فصل فی اللبس. وفيه أيضًا:

۴۰۴/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

ﷺ نے منع فرمایا ہے، اور اس پر وعید فرمائی ہے (۱) ہمارے لیے آپ کا ارشاد کافی ہے: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورہ حشر، آیت: ۷) اور اس میں گفتگو نہ کرنا چاہیے کہ آپ ﷺ نے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیوں کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔

سوال: (۲۶۸)..... (الف) ریشمی کپڑے میں اگر تانا بانا دونوں میں ریشم اور سوت ملا کر بُنا گیا ہو تو مردوں کو جائز ہے یا نہیں؟

(ب) اگر تانا صرف ریشم کا ہو اور بانا ریشم اور سوت ملا ہوا ہو تو مردوں کو جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۱۷۱۲ھ)

الجواب: (الف) اعتبار غلبہ کو ہے، اگر غالب ریشم ہے تو ناجائز ہے اور اگر غالب سوت ہے تو درست ہے (۲)

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ، متفق عليه .

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۷۳-۳۷۴، كتاب اللباس - الفصل الأول)

(۲) قلت: ولم أر ما لو خُلِطَتِ اللَّحْمَةُ بِإِبْرِسَمٍ وَغَيْرِهِ ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ الْغَالِبِ . وَفِي حَاوِي الزَّاهِدِي : يُكْرَهُ مَا كَانَ ظَاهِرُهُ قَزٌّ أَوْ خَطٌّ مِنْهُ خَزٌّ وَخَطٌّ مِنْهُ قَزٌّ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ إِلَّا إِذَا كَانَ خَطٌّ مِنْهُ قَزٌّ وَخَطٌّ مِنْهُ غَيْرُهُ بِحَيْثُ يُرَى كُلُّهُ قَزًّا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَبِينًا كَالطَّرَازِ فِي الْعِمَامَةِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ أَهْ وَأَقْرَهُ شَيْخُنَا (الدَّر) وَفِي الشَّامِيِّ أَقُولُ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَطِّ مَا يَكُونُ فِي السَّدَى طَوْلًا ، لِأَنَّ السَّدَى لَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ قَزًّا ، بَلِ الْمُرَادُ بِالْخَطِّ مَا يَكُونُ فِي اللَّحْمَةِ عَرْضًا ، فَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ ظَهَرَ مِنْهُ جَوَابُ آخَرٍ عَنِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ بِأَنَّهُ يُقَالُ : إِذَا خُلِطَتِ اللَّحْمَةُ بِإِبْرِسَمٍ وَغَيْرِهِ بِحَيْثُ يُرَى كُلُّهُ إِبْرِسَمًا كُرَّةً ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَبِينًا كَالطَّرَازِ لَمْ يَكُرْهُ ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَمْعِ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ، وَيُظْهِرُ لِي أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ أَحْسَنُ مِنَ الْجَوَابِ السَّابِقِ (الدَّر وَالرَدَّ: ۴۳۵/۹، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في اللبس)

(ب) اگر غالب سوت ہے تو درست ہے۔ کما مرّ - ويحل لبس ما سداہ إبريسم و لحمته غيرہ إلخ (۱) (در مختار)

سوال: (۲۶۹) ریشمی کپڑے کا استعمال مردوں کو کیسا ہے؟ (۲۹/۱۱۹-۱۳۳۰ھ)  
الجواب: ریشمی کپڑے کا استعمال مردوں کو جائز نہیں، اگر بانا سوت کا ہو، تانا ریشم کا ہو تو درست ہے۔ فقط

### ٹسراور ریشم کا حکم ایک ہے

سوال: (۲۷۰) ٹسری کپڑا جس کا تانا ریشم اور بانا سوت ہے مباح ہے یا نہیں؟  
(۳۲/۱۶۵۰-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مباح اور جائز ہے۔  
سوال: (۲۷۱) ٹسرا (۲) کا اور ریشم کا ایک حکم ہے یا کیا؟ جو تحقیق ہو تحریر فرماویں (۲۹۱/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی ریشم ہے اگرچہ موٹی قسم کا اور کم قیمت کا ہے (۳) فقط

### مردوں کے لیے ریشمی رومال استعمال کرنا درست نہیں

سوال: (۲۷۲) ریشمی رومال ناک صاف کرنے کے لیے اور وضو کے اعضاء پوچھنے کے لیے

- (۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۴۳۳/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .  
(۲) ٹسرا: کپڑا ریشم، ادنیٰ درجہ کا ریشم، اس ریشم کا کپڑا۔  
(۳) فتاویٰ رشیدیہ میں ہے: بھاگلپوری کپڑے ریشمی ہی ہیں، ان کا حکم ریشمی کا ہی ہے، مگر یہ موٹا ریشم ہے، اور معروف ریشم؛ ریشم کی عمدہ قسم ہے، پس اگر تانا بانا دونوں ریشم کے یا بندہ (؟) کے ہوں خواہ صرف بانا ریشم کا ہو تو دونوں صورتوں میں نادرست ہے، اور اگر دونوں ریشمی نہ ہوں، بلکہ صرف تانا ریشمی ہو تو درست ہے، جیسا ریشم کا بھی یہی حکم ہے، حاصل یہ کہ بندہ (؟) ریشم ہے چھال نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
(فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۵۹۷- کتاب جواز و حرمت کے مسائل - بھاگلپوری کپڑے، مطبوعہ: جیسیم بک ڈپو، دہلی)



استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ زینت کے لیے نہ ہو، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۵/۱۷۷)

الجواب: درست نہیں۔ کما فی رد المحتار: قوله: (والکيس الذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في البيت، واحتراز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه اللبس، فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين (۱) انتہی اور اس سے کچھ پہلے ہے: وبه يعلم حکم العرقية المسماة بالطاقيّة، فإذا كانت منقشة بالحريير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل (۱)

### ریشمی کمر بند کا حکم

سوال: (۲۷۳) ریشمی رومال، کمر بند، موزے مردوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہ؟

(۱۳۳۵/۱۸۷)

الجواب: ریشمی رومال اور موزے مردوں کو حرام ہیں اور کمر بند ریشم کا مکروہ ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو جائز کہا ہے۔ وتكره التَّكَّةُ منه أي من الديباج هو الصحيح وقيل: لا بأس بها (۲) (در مختار)

### قرآن شریف کے لیے ریشمی جزدان کا استعمال

سوال: (۲۷۴) مرد قرآن شریف کے لیے ریشمی جزدان استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳/۱۳۱۳)

الجواب: نہ چاہیے، جائز نہیں ہے۔ فقط

### لمل کی ٹوپی پہننا درست ہے

سوال: (۲۷۵) ٹوپی لممل کے کپڑے کی درست ہے یا نہیں؟ (۲۳۳-۲۹/۱۳۳۰ھ)

(۱) رد المحتار: ۴۳۱/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۳۰/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

الجواب: درست ہے۔ فقط

## ترکی ٹوپی کا حکم

سوال: (۲۷۶) اگر کوئی شخص ترکی ٹوپی مع کوٹ و پتلون پہنے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے ہر صورت میں تو اس کے اوپر پھندا لگانا کیسا ہے؟ اور فی نفسہ کوٹ و پتلون کا پہننا کیسا ہے؟  
(۱۹۹۳/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: ترکی ٹوپی مع کوٹ اور پتلون بہ سبب تشبہ کے مکروہ ہے، اگر تشبہ نہ ہوتا تو جائز تھا، فی نفسہ ان لباسوں میں کوئی حرمت نہیں، اور صرف ٹوپی ترکی کا بھی یہی حکم ہے کہ تشبہ ہو تو مکروہ ہے ورنہ جائز۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## دھوتی باندھنا کیسا ہے؟

سوال: (۲۷۷) دھوتی باندھنا کیسا ہے؟ یہ رواج پوربی مسلمانوں میں شائع ہے، اس کا پہننے والا کیا فاسق ہے؟ اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ (۱۱۲۳/۲۴-۱۳۳۵ھ)  
الجواب: جن بلاد میں مسلمانوں میں دھوتی باندھنا مروج ہے وہاں دھوتی باندھنا جائز ہے، بہ شرطیکہ اس میں کشف عورت نہ ہو اور اسراف و تکبر نہ ہو۔ کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کُلُّ مَا شُئْتُ وَالْبَسُ مَا شُئْتُ مَا أَخْطَأْتُكَ اثنتان: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ رواہ البخاری (۱) اور جن بلاد میں دھوتی باندھنا شعار ہندو و کفار کا ہے وہاں اس سے احتراز کرے، کیونکہ تشبہ بالكفار سے ممانعت وارد ہوئی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره الخ (۲) (مرقاۃ) فقط

(۱) صحیح البخاری: ۸۶۰/۲، أوائل کتاب اللباس .

(۲) مرقاۃ المفاتیح، شرح مشکاة المصابیح: ۲۵۵/۸، کتاب اللباس - الفصل الثانی، المطبوعة: مکتبة إمدادیة، ملتان، پاکستان

## شیروانی کا حکم

سوال: (۲۷۸) شیروانی مروجہ کس حکم میں ہے؟

الجواب: شیروانی مروجہ جائز ہے۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُلُّ مَا شَتَّ وَالْبَسُ مَا شَتَّ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱)

## کوٹ، پتلون کا حکم

سوال: (۲۷۹) کوٹ، پتلون پہننا مسلمانوں کو جائز ہے یا مکروہ؟ اگر مکروہ ہے تو کیوں؟

(۱۱۸۵/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مکروہ ہے کیونکہ اس میں تشبہ ہے غیر مذہب والوں کے ساتھ، اور وارد ہے: من تشبہ بقوم فهو منهم (۲)

سوال: (۲۸۰) کوٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳/۱۹۰۴ھ)

الجواب: اس کا استعمال صلحائے امت کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے اسلامی لباس کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی وضع قطع اختیار کر لی اور من تشبہ بقوم فهو منهم (ابوداؤد، ص: ۵۵۹، کتاب اللباس) کے مصداق بن گئے، اس کا استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں، مسلمانوں کو اپنے شعار پر پوری قوت اور استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ فقط

## بہ وقت شکار کوٹ پہننا

سوال: (۲۸۱) ”کوٹ برجس“ بہ وقت شکار پہننا جب کہ عزت کا خیال نہ ہو، صرف شکار کی

وجہ سے پہنے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۵۴ھ)

الجواب: جو لباس ممنوع ہے وہ ہر وقت ممنوع ہے، شکار وغیرہ کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ فقط

(۱) صحیح البخاری: ۸۶۰/۲، أوائل کتاب اللباس .

(۲) سنن أبي داود: ص: ۵۵۹، کتاب اللباس – باب في لبس الشهرة.

### کوٹ، پتلون پہن کر نماز پڑھنا

سوال: (۲۸۲) کوٹ، پتلون پہن کر شریعت نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۱۰۹۹ھ)

الجواب: کوٹ، پتلون پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ (مگر تشبہ بالكفار کی وجہ سے اس کا پہننا ممنوع ہے) فقط

### چادر کس طرح اوڑھنا چاہیے؟

سوال: (۲۸۳) بہ حالت نماز چادر سر پر بالکل ڈال لے یا کچھ موٹھوں پر اور کچھ چھوڑے، یا ایک لپیٹ سر پر مار کر پھر اوڑھے، کون طریق الی الصواب ہے؟ چادر سر پر سے اوڑھنا مشابہت مستورات کی اور ایک لپیٹ دینا مشابہت کفار کی ہے۔ (۱۳۳۵/۱۸۱ھ)

الجواب: بہ حالت نماز یا خارج از نماز چادر اور رضائی جس طرح چاہے اوڑھے، خواہ سر پر ڈالے یا سر سے نیچے رکھیں شرعاً اس میں کوئی قید نہیں ہے، عرف اور رواج اور راحت کا خیال رکھیں، سر پر اوڑھنا بھی ثابت ہے اور موٹھوں پر اوڑھنا بھی ثابت ہے۔ فقط واللہ اعلم

### کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا

سوال: (۲۸۴) کیا پائجامہ کھڑے ہو کر پہننا ممنوع ہے؟ (۱۳۳۹/۸۰۵ھ)

الجواب: یہ فعل شرعاً ممنوع و حرام نہیں ہے، غایت یہ کہ اگر کسی بزرگ نے ایسا لکھا ہوگا یا کسی روایت میں ایسا وارد ہوا ہوگا، وہ از قسم آداب ہے احکام واجبہ میں سے نہیں ہے۔ فقط

### نماز پائجامہ میں افضل ہے یا لنگی میں؟

سوال: (۲۸۵) ازار سے لنگی مراد ہے یا پائجامہ؟ اور نماز پائجامہ میں افضل ہے یا لنگی میں؟

(۱۳۴۱/۲۵۴۶ھ)

الجواب: ازار لگی کو کہتے ہیں اور نماز لگی اور پائجامہ دونوں میں صحیح ہے، اور دونوں میں فضیلت ہے۔ فقط

## آنحضرت ﷺ نے پائجامہ پہنا ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۸۶) آنحضرت ﷺ نے پائجامہ پہنا ہے یا نہیں؟ اور حضرت کے زمانہ میں پائجامہ تھا یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۳۹ھ)

الجواب: زاد المعاد میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پائجامہ خریدا ہے اور یہ بھی اس میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسی لیے خریدا ہے کہ اس کو پہنیں گے، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے پائجامہ پہنا ہے الخ، عبارت زاد المعاد کی یہ ہے: واشتری سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روى في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه صلى الله عليه وسلم (۱)

سوال: (۲۸۷) رسول اللہ ﷺ نے پائجامہ پہنا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۳۰۹ھ)

الجواب: پہننا پائجامہ کا آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں ہے، البتہ خریدنا ثابت ہے۔ کما جاء في بعض الروايات (۲) فقط

## حضور ﷺ کے زمانے میں مستورات پائجامہ پہنتی تھیں یا تہبند؟

سوال: (۲۸۸) زمانہ رسول اللہ ﷺ میں مستورات پائجامہ پہنتی تھیں یا کچھ اور؟ اگر پائجامہ تھا تو کیسا؟ بہ نقل احادیث تحریر فرمائیں؟ (۱۳۳۰-۲۹/۳۱۸ھ)

الجواب: زمانہ رسول اللہ ﷺ میں غالب رواج ازار یعنی تہبند کا تھا، مردوں میں بھی اور

(۱) زاد المعاد في هدى خير العباد: ۱/۳۶، فصل في ذكر سراويله ونعله وخاتمته وغير ذلك، المطبوعة: المطبع النظامي، كانفور.

(۲) عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فسأونا سراويل. (سنن ابن ماجه، ص: ۲۵۶، كتاب اللباس، باب لبس السراويل)

عورتوں میں بھی (۱) لیکن اس میں اسراف نہ تھا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### کلی دار پانچ جامہ مستورات پہن سکتی ہیں یا نہیں؟

سوال: (۲۸۹) کلی دار پانچ جامہ جو عموماً لکھنؤ کی طرف مستورات میں زیادہ رائج ہے، مستورات کو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعض حضرات بہ احتمال کشف ستر منع فرماتے ہیں، مگر یہ وجہ کوئی معقول معلوم نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ کشف؛ ستر کا اس غرارے دار پانچ جامے میں بھی ہے جو مردوں میں رائج ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض محتاط بزرگ اٹھتے بیٹھتے خیال رکھتے ہیں، علیٰ ہذا سب سے زیادہ کشف ستر کا خیال تہبند میں ہی ہے، جو عموماً بہ وقت رسول اللہ ﷺ عرب میں مستعمل تھا اور غالباً اب بھی ہے، پنجاب میں بہت رائج ہے۔ اگر وجہ اسراف ہو تو یہ بھی صحیح نہیں، کیوں کہ چھوٹی مہری کی چار پانچ جامے پھٹتی ہیں جب تک یہ ایک باقی رہتا ہے۔ بینواتو جروا (۲۱۸/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: عورتوں کو ایسا غرارہ دار پانچ جامہ پہننا جس میں علاوہ کشف ستر کے اسراف یقینی ہے ناجائز ہے، اور یہ شبہ کہ مرد جو غرارہ دار پانچ جامہ پہنتے ہیں اس کے اندر بھی احتمال کشف ہے صحیح نہیں کہ عورت حرہ (آزاد عورت) کا تمام بدن عورت (ستر) ہے اور اس کو ستر جملہ اعضاء کا ضروری ہے، سوائے اس کے جو فقہاء نے مستثنیٰ فرمایا ہے، پس عورت کی ساق بھی واجب الستر ہے (۲) بہ خلاف

(۱) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : حين ذكر الإزار، فالمرأة؟ يا رسول الله ! قال: تُرخي شبراً، فقالت: إذا تنكشفت أقدامهن قال فيرخين ذراعاً، رواه أبو داود (مشكاة)

حضور ﷺ نے لنگی کا بیان فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا (زوجہ مطہرہ) نے عرض کیا کہ عورت کتنی نیچی رکھے؟ آپ نے فرمایا (کہ نصف ساق سے) ایک بالشت، انہوں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی قدم کھل جائے گا فرمایا: تو ایک ہاتھ۔

اس حدیث سے اُس زمانے میں لنگی کا رواج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (القول الصواب فی تحقیق مسئلۃ الحجاب، ص: ۲۰، تیسرا حصہ، تحقیق لباس از واج مطہرات و بنات مقدسات، مطبوعہ، مطبع احمدی لکھنؤ)

(۲) وَلِلْحَرَّةِ وَلِوُحْشِيٍّ جَمِيعٌ بِدَنِيهَا حَتَّىٰ شَعَرُهَا النَّازِلُ فِي الْأَصْحَىٰ خَلَا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ.....  
والقدمين (الدر المختار مع الشامی: ۷/۲، کتاب الصلاة - باب شروط الصلاة، مطلب فی ستر العورة)

مرد کے کہ اس کی ساق عورت (ستر) نہیں اور فخذ (ران) کے عورت ہونے میں بھی اختلاف ہے، اگرچہ مذہب حنفیہ فخذ رجل (مرد کی ران) کے عورت (ستر) ہونے کا ہے، لیکن اختلاف مجتہدین (۱) موجب خفت ضرور ہے، بہر حال عورت کو مرد پر اس بارے میں قیاس کرنا نہایت غلط ہے۔ قال علیہ الصّلاة و السّلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشّيطان رواه الترمذی (۲) علاوہ بریں ایسا غرارہ دارپانجامہ جیسا کہ عورات مذکورہ پہنتی ہیں مردوں کو بہ درجہ اولیٰ حرام و ناجائز ہے۔ اور اسراف ہونے کا یہ شبہ کہ چھوٹی مہری کی چارپانجامہ پھٹتی ہیں الخ بھی صحیح نہیں، کیونکہ شریعت میں جو اسراف ممنوع ہے اس میں لحاظ اس وقت کا ہے کہ جس وقت اس کو استعمال کیا جاوے، کپڑا موافق شریعت کے ہونا چاہیے، اس میں یہ وجہ؛ جوازِ امر خلاف شریعت (خلاف شریعت امر کے جواز) کی نہیں ہو سکتی کہ خلاف شریعت امر کرنے میں یہ نفع ہے اور موافق شریعت ہونے میں یہ نقصان ہے، پس بہ وقت استعمال جس کپڑے میں اسراف ہے وہ حرام ہے اگرچہ وہ دیر میں پھٹے اور جو کپڑا موافق شریعت کے ہو وہ جلدی پھٹ جاوے — دیر میں پھٹنے کی وجہ سے اسراف جائز نہیں ہو سکتا۔ فقط

### مستورات کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟

سوال: (۲۹۰)..... (الف) مستورات کے لیے شرعاً کیسا لباس پہننا جائز ہے؟

(ب) عورتوں کو گھگرا پہن کر کنویں پر جانا جائز ہے یا نہیں؟

(ج) گھگرا پہن کر کنویں پر جانے میں یہ احتمال ہے کہ اگر عورت حائضہ ہوگی تو شاید کوئی قطرہ

خون کانویں میں گر جاوے، کیوں کہ گھگرا میں روک نہیں ہوتی۔ (۱۳۴۲/۳۰۱ھ)

الجواب: (الف - ج) لباس عورتوں کا ایسا ہونا چاہیے جس میں پردہ پورا ہو، باقی کوئی خاص

(۱) وہی للرجل ما تحت سرّته إلى ما تحت ركبته، و شرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضًا، وعن مالك: هي القبل والدبر. فقط (الدر مع الشامی: ۷۰/۲، کتاب الصّلاة - مطلب فی ستر العورة)

(۲) عن عبد الله رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: المرأة عورة الحديث. (جامع الترمذی: ۲۲۲/۱، أبواب الرّضاع - باب)

ہیئت اور صورت لباس کی شریعت میں معین نہیں ہے، بلکہ جیسا لباس جس ملک میں مروج ہو درست ہے، بہ شرطیکہ اس میں پردہ پورا ہو خواہ گھگرا ہو یا پانجامہ، البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ پانجامہ بہتر ہے گھگرا سے، اگرچہ جواز میں اس کے بھی کچھ تامل نہیں ہے، اور پردہ کا مسئلہ جداگانہ ہے، عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے اور فرض ہے، بلا پردہ باہر نکلتا حرام ہے اس کی تاکید عورتوں کو کی جائے کہ حتیٰ الوسع بلا پردہ وغیرہ کے باہر نہ نکلیں، عرب کا لباس غالب زمانہ رسول اللہ ﷺ میں بھی گرتا اور تہبند کا تھا، عورتوں کا لباس بھی ایسا ہی تھا اور ظاہر ہے کہ رومال اس میں بھی نہیں ہوتا اور وہ مثل گھگرا کے ہوتا ہے، پس ایسے خیالات کا ہونا کہ خون حیض کے قطرات گریں گے یہ تو ہمت کے قبیل سے ہے ایسے تو ہمت شریعت میں معتبر نہیں ہیں۔ فقط

سوال: (۲۹۱) عورت کو تنگ پائے کی ازار یعنی شلوار پہننی چاہیے یا دراز پائے کی؟

(۱۳۳۹/۱۲۹۸ھ)

الجواب: عورت کا لباس پورے پردہ کا موافق شریعت کے ہونا چاہیے، ایسی شلوار نہ ہونی چاہیے جس سے بے پردگی ہو، اور جس کپڑے میں پردہ پورا ہو وہ جائز ہے۔ فقط

ساڑی اور گھاگرا پہننا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۹۲)..... (الف) ساڑی کا استعمال مسلمان عورتوں کے واسطے جائز ہے یا نہیں؟

اور جائز ہے تو فضیلت ساڑی میں ہے یا تہبند، کرتا، اوڑھنی میں؟

(ب) ساڑی کا مخترع کون ہے؟ اور آنحضرت ﷺ نے ساڑی کے متعلق کچھ فرمایا ہے

یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۳۳۲ھ)

الجواب: (الف) جس جگہ ساڑی کا رواج ہو تو عورتوں کو اس کے پہننے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، البتہ کوئی لباس ہو یہ ضروری ہے کہ کشف عورت اس میں نہ ہو، اور عورتوں کے لیے افضل وہ لباس ہے جس میں ستر زیادہ ہو جیسے کرتا، ازار، خمار۔

(ب) یہ معلوم نہیں کہ مخترع اس کا کون ہے، آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں عام رواج اس کا معلوم نہیں ہوتا، باقی عام الفاظ حدیث سے اجازت اس کی ضرورت نکلتی ہے، بہ شرطیکہ بدن پورا



مستور ہے (۱)

سوال: (۲۹۳) عورتوں کو ساڑی و گلگرا مانند ہنود کے پہننا کیسا ہے؟ (۲۹/۱۳۳۰ھ)  
 الجواب: مردوں اور عورتوں کو تشبہ بالكفار جائز نہیں۔ (من تشبہ بقوم فهو منهم)

### عورتوں کو لہنگا پہننا

سوال: (۲۹۴) عورت کو لہنگا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۷۶۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: لہنگے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، پس جب کہ ستر عورت اس میں پورا ہے اور کسی شہر اور قوم میں اس کا رواج ہے تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: کُلُّ مَا شَتَّ، وَ الْبَسَ مَا شَتَّ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَانِ: سَرَقٌ وَ مَخِيلَةٌ، الْحَدِيثُ (مشكاة المصابيح، ص: ۳۷۷، کتاب اللباس، الفصل الثالث) فقط

### ایسا لباس پہننا جس میں گھٹنے کھلے رہیں جائز نہیں

سوال: (۲۹۵) طلبائے اسکول کو ایسا لباس پہننا جس میں گھٹنے کھلے رہیں جائز ہے یا نہیں؟ (۷۳۹/۱۳۳۹ھ)

الجواب: جس لباس میں گھٹنے کھلے رہیں مردوں کے لیے وہ لباس جائز نہیں ہے، کیونکہ گھٹنے بھی عورت (ستر) میں داخل ہیں، ستر ان کا لازم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ (۲) كَذَا نَقَلَهُ فِي الشَّامِيِّ (۳) فقط

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُلُّ مَا شَتَّ، وَ الْبَسَ مَا شَتَّ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَانِ: سَرَقٌ أَوْ مَخِيلَةٌ، رواه البخاري (صحيح البخاري: ۸۶۰/۲، أوائل كتاب اللباس)  
 (۲) عن عقبة بن علقمة قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ (سنن الدارقطني: ۸۵/۱، كتاب الصلاة – باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة الذي يجب سترها، المطبوعة: المطبع الفاروقي، دهلي)  
 (۳) وهي للرجل ما تحت سرتة إلى ما تحت رُكْبَتِهِ (درمختار) فالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ لرواية الدارقطني: ما تحت السرة إلى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ (الدر المختار ورد المحتار: ۷۰/۲، كتاب الصلاة – باب شروط الصلاة – مطلب في ستر العورة)

## انگریزی لباس پہننے والی عورت کو طلاق دینا

سوال: (۲۹۶) ایک عورت انگریزی لباس پہنتی ہے، اگر وہ انگریزی لباس کو نہ چھوڑے تو اس کو طلاق دینا لازم ہے یا کیا؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۵۸ھ)

الجواب: اس وجہ سے طلاق نہ دینا چاہیے۔ فقط

## عورتوں کو کھڑا جوتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۲۹۷) عورت کو کھڑا جوتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر دیہات میں یہ رواج ہے اور اکثر وہ جنگل کا کام کرتی ہیں، لیکن وہ خاص اپنے ہی کھیت میں کرتی ہیں اور بغیر اس جوتا کے اور جوتوں سے کام ہرگز نہیں کر سکتیں، آیا اس میں کچھ تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۳۲۳ھ)

الجواب: کھڑا جوتا عورتوں کو نہ چاہیے (۱) کیونکہ اس میں مشابہت مردوں کی ہے اور حدیث شریف میں اس پر وعید آئی ہے (۲) فقط

سوال: (۲۹۸) عورتوں کو کھڑا جوتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۶۲۵ھ)

الجواب: کھڑے جوتے مثل مردوں کے عورتوں کو پہننا ناجائز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله (۱) کھڑا جوتا یعنی اونچی ایڑی والا جوتا، پہلے اونچی ایڑی والا جوتا صرف مرد استعمال کرتے تھے، عورتیں استعمال نہیں کرتی تھیں، اب عورتوں کے جوتے بھی اونچی ایڑی والے ہوتے ہیں، اس لیے اونچی ایڑی والے جوتے مردوں کے ساتھ خاص نہیں رہے، مردانہ جوتوں کی طرح زنانہ جوتے بھی اونچی ایڑی والے ہوتے ہیں اس لیے عورتیں زنانہ جوتے جو معمولی اونچی ایڑی والے ہوتے ہیں ان کو پہن سکتی ہیں، البتہ نہایت باریک اور بہت اونچی ایڑی والے جوتے جن میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے مسلمان خواتین کو استعمال نہیں کرنے چاہئیں، کیوں کہ اس میں فساق و فجار اور کفار کی مشابہت ہے۔ ۱۲۔ محمد امین پالن پوری

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (صحيح البخاري: ۸۷۴/۲، كتاب اللباس - باب: المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ رواه أبو داود .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (۱) ان روایات سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو ایسا جوتا ولباس پہننا جو مردوں کا ہو، درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۲۹۹) عورتوں کو کھڑا جوتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۷۶/۱۳۳۱ھ)

الجواب: کھڑا جوتا چونکہ مردوں کے لیے مخصوص ہے اور جب عورت اس کو پہنے گی تو مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آوے گی جو کہ ممنوع ہے، چنانچہ ایسی عورت کے لیے حدیث شریف میں وعید وارد ہے جو کہ جوتا میں مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ كما في المشكاة في باب الرجل: عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: أن امرأة تلبس النعل (أي التي يختص بالرجال فما حكمها؟) قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء الخ (۲) (مرقاۃ: ۴/۴۳۷)

### مردوں کو آہنی کڑے پہننا

سوال: (۳۰۰) مرد کو مسی (تانبے کے) اور آہنی کڑے پہننا ہاتھوں میں درست ہے یا نہیں؟ (۹۰۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: مرد کو آہنی کڑے وغیرہ پہننا حرام ہے (۳) فقط

جس جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا لباس ایک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۳۰۱) بعض جگہ ہندو اور مسلمان یکساں لباس استعمال کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

(۱) سنن أبي داود: ص: ۵۶۶، کتاب اللباس - باب في لباس النساء .

(۲) مرقاۃ المفاتیح شرح مشكاة المصابيح: ۳۱۳/۸، کتاب اللباس، باب الرجل، الفصل الثاني

(۳) کیونکہ آہنی کڑے پہننا ہندوؤں اور سکھوں کا شیوہ ہے۔ اور حدیث میں ہے: من تشبه بقوم فهو منهم

(عن ابن عمر رضي الله عنهما، سنن أبي داود، ص: ۵۵۹، کتاب اللباس، باب في لبس الشهرة)

حدیث شریف میں ہے: من تشبه بقوم فهو منهم (۱) (۱۳۳۷/۲۵۰۴ھ)

الجواب: ایسے موقع پر حکم تشبہ کا جاری نہیں ہوتا؛ کیونکہ جس ملک میں جو لباس مسلمانوں میں مروج ہے اگرچہ ہندوؤں میں بھی ویسا ہی ہو، وہ بہ وجہ تشبہ بالكفار مستعمل و مروج نہیں ہے۔ (یعنی مسلمان اس لباس کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی غرض سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کا لباس ہونے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں۔)

لیکن ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو لباس میں امتیازی شان اختیار کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لباس میں فرق ظاہر ہو، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مشرکین بھی پگڑیاں باندھتے تھے تو آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ٹوپوں پر پگڑیاں باندھا کرو، تاکہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہو۔ عن ركانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرّق ما بيننا وبين المشركين العمام على القلائس. رواه الترمذي (مشكاة المصابيح، ص: ۳۷۴، كتاب اللباس، الفصل الثاني) محمد امين پالن پوری

### دستار کا شملہ چھوڑنے کا مسنون طریقہ

سوال: (۳۰۲) عمامہ کا شملہ آگے ہو یا پیچھے؟ دو شملہ چھوڑنا کیسا ہے آگے اور پیچھے؟ ایک شخص مکروہ کہتا ہے۔ (۱۳۳۷/۲۸۶ھ)

الجواب: شامی میں ہے کہ شملہ کمر پر مابین کتفین ڈالنا مستحب ہے۔ و عبارتہ: وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ إِسْئَالُ ذَنْبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتْفَيْنِ (۲) اور حدیث ترمذی میں ہے: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتِهِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ (۳) روایت شامی اور حدیث ترمذی سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ ایک شملہ عمامہ میں چھوڑا جائے اور وہ مابین کتفین ہو، لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف کے سر پر عمامہ باندھا اور اس کو آگے اور

(۱) سنن أبي داود: ص: ۵۵۹، كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة .

(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ۴۰۴/۱۰، كتاب الخنثى - مسائل شتى .

(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ (جامع الترمذي: ۳۰۴/۱، أبواب اللباس - باب ماجاء في العمامة السوداء)

پچھے دونوں طرف چھوڑا (۱) سو ممکن ہے کہ بہ وجہ ضرورت ایسا ہوا ہو مثلاً یہ کہ عمامہ باندھنے کے بعد کچھ زائد بچ گیا تو اس کو آگے کی طرف چھوڑ دیا، یا بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہو، بہر حال جواز اس کا بھی ثابت ہے، لہذا محل طعن نہیں ہے۔ فقط

### دستار کے اوپر پھندنا چھوڑنا

سوال: (۳۰۳) فریق ثانی مصر ہے کہ عمامہ کے اوپر کسی طرف پھندنا چھوڑنا قبیح و ناجائز ہے، مولوی صاحب اس کو مباح فرماتے ہیں۔ (۱۳۳۸/۱۳۲۲ھ)

الجواب: اس کو قبیح و ناجائز نہیں کہہ سکتے، البتہ سنت و مستحب ہونا اس کا بھی ثابت نہیں ہے۔ فقط

### دستار کے نیچے ٹوپی پہننا بہتر ہے

سوال: (۳۰۴) اگر عمامہ باندھا جائے تو ٹوپی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۷۱۹ھ)

الجواب: ٹوپی کا ہونا بھی بہتر ہے (۲) فقط

### دستار کی مقدار

سوال: (۳۰۵) عمامہ کا طول کتنا ہو؟ حدیث بھی اس کی بابت کوئی ہے؟ شملہ نہ ہو تو خلاف

سنت ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کتنا شملہ ہو؟ (۱۳۳۷/۱۰۵۴ھ)

الجواب: عمامہ کے طول میں کوئی شرعی تحدید نہیں ہے، جس قدر میسر ہو اور معروف و معروف ہو

درست ہے، اور آنحضرت ﷺ کے عمامہ کا طول سات ذراع اور بارہ ذراع منقول ہے۔ وقد قال

الجزري في صحيح المصباح قد تبعت الكتب و تطلبت من السير والتواريخ لأقف

(۱) عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عَمَّني رسول الله صلى الله عليه وسلم

فسد لها من بين يدي ومن خلفي (سنن أبي داود، ص: ۵۶۴، كتاب اللباس - باب في العمام)

(۲) عن ركانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بيننا وبين

المشركين العمام على القلائس (مشكاة المصابيح، ص: ۳۷۴، كتاب اللباس، الفصل الثاني)

علی قدر عمامة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلم أقف علی شیء حتی أخبرني من أثق به أنه وقف علی شیء من كلام النّوي ذکر فيه أنه كان له صلی اللہ علیہ وسلم عمامة قصيرة، وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع، والطويلة اثنا عشر ذراعاً (۱) (مرقاۃ) اور در مختار میں ہے کہ شملہ چھوڑنا مستحب ہے، اس میں تین قول ہیں: وسط ظہر تک یا موقع جلوس تک یا ایک بالشت (۲)

### سر پر رومال اوڑھنا عمامہ کے حکم میں ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۰۶) عمامہ تو سات یا گیارہ گز کا ہوتا ہے، آج کل امام جو کوئی رومال وغیرہ امامت کے وقت لپیٹ لیتے ہیں اس کو عمامہ کیسے کہیں گے؟ (۷۰۷/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: سات یا گیارہ گز کی تحدید شارع نے نہیں لگائی، عرف میں جس کو عمامہ کہتے ہیں اسی پر عمامہ کا اطلاق کیا جاوے گا۔ فقط

### نماز میں دستار نہ باندھے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۰۷) جب دستار موجود ہے اور اس کو نہ باندھے تو یہ کیسا ہے؟ (۲۲۳/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: عمامہ اگر موجود ہے اور نہ باندھا تو یہ خلاف اولیٰ ہے۔ کما فی شرح منیۃ المصلی المعروف بکبیری، ص: ۳۳۷، والمستحب أن یصلی الرجل فی ثلاثة أثواب: إزار و قميص و عمامة ولو صلی فی ثوب واحد متوَحَّشا به جمیع بدنہ کما یفعله القصار فی المقصورة جاز من غیر کراهة الخ (۳)

سوال: (۳۰۸) نماز کے وقت عمامہ نہ باندھے تو کیا نقصان ہے؟ عمامہ کس مقدار کا ہو اور

(۱) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: ۸/۲۵۰، کتاب اللباس - الفصل الثانی .

(۲) و إرسال ذنب العمامة بین کتفیه إلى وسط الظہر، وقيل: لموضع الجلوس، وقيل:

شبر (الدرّ مع الردّ: ۱۰/۲۰۳-۲۰۴ کتاب الخنثی، مسائل شتی)

(۳) غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی، ص: ۳۰۳، فصل فی صفة الصّلاة .

شملہ کتنا ہو؟ (۴۴/۵۸-۱۳۳۵ھ)

الجواب: بغیر عمامہ کے بھی نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے، باقی عمامہ کے ساتھ افضل اور مستحب ہے، رسول اللہ ﷺ اکثر عمامہ باندھتے تھے اور عمامہ کی کوئی مقدار لازمی نہیں ہے، آنحضرت ﷺ سے بھی مختلف مقدار کے عمامے ثابت ہیں، جیسی عادت اور عرف ہو ویسا عمامہ باندھے، اور شاملہ کر تک ہو۔ فقط

### مردوں کو پھولوں کا ہار اور گجر استعمال کرنا

سوال: (۳۰۹) پھولوں کا ہار اور گجر مردوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۵۱۵/۱۳۳۰ھ)  
الجواب: یہ اچھا نہیں ہے کہ اس میں تشبہ بالنساء وغیرہ ہے۔ فقط

### کن کن جگہوں میں عطر لگانا مسنون ہے؟

سوال: (۳۱۰) عطر کن کن جگہوں میں ملنا مسنون ہے؟ (۴۳/۱۳۰-۱۳۳۵ھ)  
الجواب: احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ خوشبو کو پسند فرماتے تھے (۱) لہذا جہاں مناسب سمجھیں اور جس وقت مناسب سمجھیں عطر لگانا پسندیدہ ہے۔ فقط

### مردوں کو سونا چاندی پہننا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۱۱) مردوں کو سونا چاندی کتنا پہننا جائز ہے؟ (۲۹/۱۸۰-۱۳۳۰ھ)  
الجواب: مردوں کو سونا چاندی پہننا درست نہیں ہے۔ كما في الدر المختار: ولا يتحلّى الرجل بذهب وفضة إلخ (۲)

(۱) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (سنن النسائي: ۷۷/۲، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء)

(۲) الدر المختار مع الرد: ۴۳۶/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

البتہ گھڑی کی زنجیر اور بٹن سونے یا چاندی کے درست ہیں (۱) اگرچہ تقویٰ و احتیاط ترک میں ہے، اور بہ قدر چار انگشت کے طلائی و نقرئی کام کا کپڑا درست ہے، اس سے زائد درست نہیں، اور انگشتی مہر کی بہ قدر تین چار ماشہ درست ہے (۲) فقط

### مردوں کو ہیرے والی انگوٹھی پہننا

سوال: (۳۱۲) مردوں کو ہیرا وغیرہ کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۶۵/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: انگوٹھی پر اگر نگین ہیرا یا عقیق وغیرہ کا ہو تو اس کو بعض فقہاء نے جائز لکھا ہے (۳)

### زر بھری ہوئی ٹوپی پہننا

سوال: (۳۱۳) مردوں کو خالص زر بھری ہوئی ٹوپی پہننا کیسا ہے اور کتنا درست ہے؟  
(۱۸۰/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: خالص زر بھری ہوئی ٹوپی مردوں کو درست نہیں ہے، البتہ مقدار چار انگشت تک جس میں نقرئی یا طلائی کام ہو درست ہے (۴) اور ترک اس کا بھی اولیٰ ہے۔ فقط

(۱) اصح یہ ہے کہ مردوں کو گھڑی کی زنجیر اور سونے چاندی کے بٹن پہننا ممنوع و مکروہ تحریمی ہے۔ عین الہدایہ میں ہے: گھڑی کی زنجیر و حلقہ سونے، چاندی کا ہے تو مردوں کو اس کا استعمال ممنوع و مکروہ تحریمی ہے (عین الہدایہ شرح الہدایہ: ۲۱۶/۴، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الأکل والشرب) اور مردوں کو سونے، چاندی کے بٹن پہننا حرام ہے اس کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ محمد امین پالن پوری

(۲) قوله: (ولا یزیدہ علی مثقال) وقیل: لا یبلغ بہ المثقال. ذخیرۃ (الشامی: ۴۴۰/۹، کتاب الحظر والإباحۃ - فصل فی اللبس) (۳) ورد النص بجواز التختیم بالعقیق وقال علیہ الصلاۃ والسلام: تختموا بالعقیق فإنہ مبارک الحدیث. وفي الحاوی: ولا بأس أن یتخذ الرجل خاتم فضة، فإن جعل فضہ من عقیق أو یاقوت أو فیروزج أو زمرد فلا بأس بہ (تکملة البحر الرائق: ۳۵۰/۹، کتاب الکراہیۃ، فصل فی اللبس)

(۴) فی الفتاویٰ الہندیۃ: یکرہ أن یلبس الذکور قلنسوة من الحریر، أو الذهب، أو الفضة، أو الكرباس الذي خیط علیہ إبرسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع اهـ (رد المحتار: ۴۳۱/۹، کتاب الحظر والإباحۃ - فصل فی اللبس)



## مردوں کو سونے چاندی کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۱۴) سونے چاندی کے بٹن مردوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہیں تو کس مقدار کے؟ (۱۸۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: چاندی سونے کے بٹن مردوں کو استعمال کرنا درست ہے، اور اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے کہ اس مقدار تک جائز ہوں، اور اس سے زائد ناجائز ہوں، شامی میں ہے: وفي التاتر خانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار الدّيباج والذهب إلخ (۱) اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ سونے چاندی کے بٹن مردوں کو بلا تامل جائز ہیں۔

## اضافہ از مرتب:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بھی پہلے یہی رائے تھی، پھر حضرت نے اس سے رجوع فرمایا ہے۔ امداد الفتاویٰ میں ہے:

سوال (۱۳۷): امور مذکورہ ذیل دریافت طلب ہیں، مفصل مدلل جواب سے مشرف فرماویں ”صفائی معاملات“ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا، چاندی کے بوتام یعنی بٹن مطلقاً جائز ہیں، خواہ کتنے ہی وزن میں ہوں، اور ان کے ساتھ زنجیر خواہ ایک ہو یا زیادہ، اور زنجیر کے ساتھ گھونگھریاں بھی ہوں یا نہ ہوں بلا کراہت جائز ہیں، بندہ نے اس کے جزئیہ بعض کتب فقہ میں تلاش کیا تو میرے خیال میں اس کے متعلق درمختار کی یہ عبارت آئی: في التاتر خانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار الدّيباج والذهب (الدر المختار مع الشامي: ۴۳۲/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس) اور عالم گیری کی یہ عبارت: في السير الكبير: لا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان أزراره ديباجاً أو ذهباً كذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية: ۳۳۲/۵، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره)

بندہ اس عبارت کا جو مطلب سمجھا ہے وہ عرض کرتا ہے، مراد ازراہ ذہب سے کلاہتون کی گھنڈی ہے جو کپڑے کے ساتھ سلی ہوئی ہوتی ہے، نہ خالص سونے کا بٹن جو علیحدہ ہوتا ہے بہ قرینہ ازراہ الدیباج کے، اور بہ قرینہ اس کے کہ جہاں ملبوسات میں فضہ اور ذہب مذکور ہے مانند درمختار کے: لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب (الدر المختار مع الشامي: ۴۳۲/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس)

(۱) الدر مع الرد: ۴۳۲/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

اس سے مراد کلا بتون ہے، نہ خالص قطعہ ذہب وفضہ، چوں کہ یہ تو زیور میں داخل ہوگا، اور زیور سونے چاندی کا مطلقاً مرد کے واسطے منع ہے سوائے چند اشیاء کے جو خاصہ آثار کے ساتھ ان کی رخصت ثابت ہے، اور بوتام ان مستثنیات سے نہیں ہے۔ جیسا در مختار اور شامی سے واضح ہے: فی الدر المختار: ولا يتحلّى الرجل بذهب و فضة مطلقاً إلا بخاتم و منطقة و حلّية سيف منها أي الفضة إذا لم يرد به التزئين . و في الشامي: قوله: (منها أي الفضة) لا من الذهب ”ذُرر“ وقال في ”غرر الأفكار“: حال كون كلّ من الخاتم و المنطقة و الحلّية منها : أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اهـ (الدر المختار والشامي: ۴۳۶/۹ - ۴۳۷، كتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس)

اور اُزدار الذہب سے کلا بتون کی گھنڈی مراد لی جاوے تو یہ البتہ تابع کپڑے کے ہے، بہ خلاف بوتام کے کہ یہ اس زمانے میں مستقل زیور ہو گیا ہے، چوں کہ اس کی آرائش کے واسطے بعض لوگ دو، تین، چار زنجیریں لگاتے ہیں، اور بعض زنجیر میں ذی روح کی تصویر بناتے ہیں، اور بعض گوگھریاں لگاتے ہیں؛ جو وقت تیز چلنے کے بجتی ہیں، اور بعض جواہر کا جڑاؤ اُن میں کراتے ہیں، اور پہنے کا اطلاق اُن پر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں: ”سونے کے بٹن پہنے“ یا ”چاندی کے بٹن پہنے“ اور بوتام علیحدہ بھی کپڑے سے ہو سکتے ہیں، مانند خالص ریشمی ازار بند کے جو باوجود تابع ہونے سروال کے ناجائز ہے۔ یہ سب علامات بوتام کے مستقل زیور ہونے کے ہیں، اور اگر اُزدار الذہب میں کلا بتون کی گھنڈی اور خالص سونے کا بٹن دونوں کا احتمال ہے، تو قاضی خاں کے اس قول سے: و لا رخصة للرجل فيما يتخذ من الذهب والفضة مفضضاً أو مذهباً ما خلا الخاتم من الفضة و حلّية السيف والسلاح لرخصة جاء ت فيه اهـ (الفتاوى الخانية مع الهندية: ۴۱۳/۳، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلى والزينة وما لا يكره الخ) بٹن کا احتمال مرتفع ہو گیا، پس گھنڈی باقی رہی۔

اور اگر امور مذکورہ سے قطع نظر کر کے اُزدار الذہب سے خالص سونے کے بٹن مراد لیے جاویں جب بھی اُن کا ترک استعمال اولیٰ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کلمہ لا باس سے مستفاد ہے۔ شامی کے باب مکروہات الصلّٰۃ میں مذکور ہے: قال في النهاية: لأن لفظ لا باس دليل على أن المستحبّ غيره، لأن البأس الشدّة (كتاب الصلّٰۃ: ۳۷۳/۲)

علاوہ اس کے اس زمانہ میں اکثر لوگ واسطے فخر اور زینت اور بڑائی کے پہنتے ہیں جو سبب ممانعت کا ہے، نہ واسطے اظہارِ نعمت کے، اسی واسطے اس کو اکثر علماء و صلحاء نہیں پہنتے، بلکہ اکثر جہال و فساق پہنتے ہیں۔

اب عرض یہ ہے کہ سونے چاندی کے بوتام کا جواز عبارت مذکورہ سے ہی ہے تو اس کی تشریح اور شبہات کا دفع مفصل فرمائیں، یا اور نصوص اور تصریحات فقہیہ سے اس کے جواز کی تفصیل تحریر فرمائیں، تاکہ تھیر دور ہو،

اور اطمینان حاصل ہو۔

الجواب: مدت ہوئی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمہ اللہ کا قول کہ اس آزار سے مراد کلابتون کی گھنڈی ہے، بٹن اُس میں داخل نہیں، اُن کے صاحب زادے قاری عبدالسلام مرحوم سے سن کر ”صفائی معاملات“ کے اس مسئلے میں مجھ کو ترّد دہو گیا ہے، اور اس وقت احتیاط کے درجے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔

(امداد الفتاویٰ: ۱۳۰/۴-۱۳۲، سونے، چاندی، پیتل لوہے کا استعمال - عنوان: سونے، چاندی کے بٹن)

نیز حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے درج ذیل فتویٰ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مردوں کو خالص سونے چاندی کے بٹن استعمال کرنا جائز نہیں ہے:

سوال (۱۵۲): شیروانی کے بٹن جن کا پینڈا پیتل کا اور اوپر کا حصہ سینگ کا، اور ان کے کنارے چاندی کے پتر کی گوٹ لگی ہوتی ہے؛ جو شاید بٹن کا آٹھواں حصہ بھی نہیں ہوتی؛ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بٹن حضور والا کو اٹائے سفر حیدرآباد میں بھی دکھائے تھے۔

الجواب: فی الدر المختار: بعد ما ذکر حکم المُفَضُّض و شرط جواز استعماله من اتقاء موضع الفضة ما نصّه (و حلّ الشرب من إناء مُفَضُّض ..... والركوب على سرج مُفَضُّض والجلوس على كرسي مُفَضُّض ولكن بشرط أن يتقى أي يجتنب موضع الفضة ..... ) وكذا الإناء المضطّب بذهب أو فضة و الكرسي المضطّب بهما و حلية مرآة و مُصَحَف بهما. فی رد المحتار: قوله: (و حلية مرآة) الذي في المنح والهداية وغيرهما: حلقة بالقاف، قال: في الكفاية: والمراد بها اللّتي تكون حوالی المرأة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنّه مكروه اتّفاقاً.

(الدر المختار مع الشامي: ۹/۴۱۷-۴۱۸، أوائل كتاب الحظر والإباحة)

یہ چاندی کا پتر جو مثل گوٹ کے ہے، مثل حلقہ آئینہ کے ہے؛ جس کے جواز استعمال کی شرط یہ ہے اس کو ہاتھ نہ لگے، اور یہ اس گوٹ میں ممکن نہیں، لہذا اس کا استعمال ناجائز ہے (امداد الفتاویٰ: ۱۳۸/۴، سونے، چاندی پیتل، لوہے کا استعمال، مطبوعہ: زکریا بک ڈپو دیوبند)

## تانبے اور پیتل کے بٹن استعمال کرنا

سوال (۳۱۵): تانبے، پیتل کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۰۴۱ھ)

الجواب: مکروہ ہیں (۱) فقط

(۱): حضرت مفتی صاحب نے تانبے، پیتل کے بٹن استعمال کرنے کو مکروہ لکھا ہے، بہ ظاہر اس کی بنیاد شامی کی یہ عبارت ہے: والتختم بالحديد والصفرة والنحاس والرصاص مکروہ للرجال ==

مردوں کے لیے گھڑی کی چین سونے چاندی کی استعمال کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۳۱۶) سونے کی چین جو گھڑی میں لگائی جاتی ہے یا سونے کے بٹن یا چاندی کی چین اور چاندی کا بٹن لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۶۵۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: سونے اور چاندی کے بٹن کو درمختار میں درست لکھا ہے (۱) لا باس بأزرار اللدیباج والذهب (۲) اور سونے چاندی وریشم کی چین کا بھی جواز شامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے (۳)

== والنساء الخ (رد المحتار: ۴۳۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس) مگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس عبارت کا مطلب یہ تحریر فرمایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے لوہا، پیتل، تانبا اور رانگ کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، انگوٹھی کے علاوہ لوہے، پیتل، تانبے اور رانگ کا زیور عورتوں کے لیے جائز ہے، اور دلیل یہ پیش فرمائی ہے کہ نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، فقہاء کی روایات میں معتبر ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس دلیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عورتوں اور مردوں کے لیے تانبے، پیتل وغیرہ کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے — نیز علماء و صلحاء بلا تکلیف سونا، چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بٹن استعمال کرتے ہیں، علماء و صلحاء کا یہ تعامل بھی جواز پر دلالت کرتا ہے، حضرت تھانوی قدس سرہ کا استدلال ملاحظہ فرمائیے: سوال: (۱۳۵) ہشتی زیور میں پیتل، رانگ، گلٹ وغیرہ کے جواز کا مسئلہ نظر سے گزرا، جزئی اس مسئلہ کی ارقام فرمائے۔

الجواب: فی الدر المختار: ولا يتختم إلا بالفضة ..... فيحرم بغيرها كحجر ..... وذهب وحديد وصفر و رصاص و زجاج الخ (الدر مع الرد: ۴۳۷/۹-۴۳۸، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس) وفي رد المحتار عن الجوهرة: التختيم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء الخ (رد المحتار: ۴۳۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس) قلت: وقد تقرّر فی محلّہ أن مفاهیم الروایات حجة. بناء برجزئی وکلی مذکورین کے ثابت ہوا کہ بجز انگشتی کے دوسرا زیور، حديد (لوہا) و صفر (پیتل) و نحاس (تانبا) و رصاص (رانگ) کا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ: ۱۳۵-۱۳۶، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کا استعمال، مطبوعہ: زکریا، دیوبند)

(۱): اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اصح عدم جواز ہے دیکھئے سوال (۳۱۴) کا اضافہ۔ ۱۲

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۳۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس .

(۳): مگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ ”جس گھڑی کا کیس چاندی کا ہو اس کا استعمال جائز نہیں قیاساً علی المرأة من الفضة (امداد الفتاویٰ: ۱۳۳/۴، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کا استعمال) اسی طرح گھڑی کی چین کو کیس پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز قرار دینا اصح معلوم ہوتا ہے۔ محمد امین پالن پوری

بقی الکلام فی بَندِ السَّاعَةِ الذی تُربط به و یُعَلِّقُہ الرجل بِزَرِّ ثوبہ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ کَبَدِ السُّبْحَةِ الَّذی تُربط به إلخ (۱)

سوال: (۳۱۷) مردوں کے لیے سونے چاندی کے بٹن اور گھڑی کی چین کا استعمال کیسا ہے؟ (۱۳۳۳ھ/۲۱۵۷-۳۲/۱۳۳۳ھ)

الجواب: مردوں کے لیے چاندی سونے کے بٹن اور گھڑی کی چین کا استعمال جائز ہے (۲) درمختار میں ہے: وَلَا بَأْسَ بِأَزْوَارِ الدِّيَابِجِ وَالذَّهَبِ إلخ (۳) اور شامی میں ہے:

بقی الکلام فی بَندِ السَّاعَةِ الَّذی تُربط به و یُعَلِّقُہ الرجل بِزَرِّ ثوبہ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ کَبَدِ السُّبْحَةِ الَّذی تُربط به إلخ (۱)

### مردوں کو سونے چاندی کی زنجیر والے بٹن لگانا

سوال: (۳۱۸) سونے چاندی کے بٹن مع زنجیر لگانا مرد کے واسطے کیسا ہے؟ (۱۳۳۷ھ/۲۲۲۹ھ)

الجواب: درست ہیں (۴) کما فی الدر المختار: وَلَا بَأْسَ بِأَزْوَارِ الدِّيَابِجِ وَالذَّهَبِ (۵)

(۱) الشَّامِي: ۴۳۱/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس .

(۲) اصح یہ ہے کہ مردوں کو سونے چاندی کے بٹن اور گھڑی کی چین استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ۱۲

محمد امین پالن پوری

(۳) الدر المختار مع الشَّامِي: ۴۳۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس .

(۴) اصح یہ ہے کہ درست نہیں، احسن الفتاویٰ میں ہے:

سوال: ایک عالم مرد کے لیے سونے، چاندی کے بٹن جائز بتاتے ہیں، اور ”فتاویٰ رشیدیہ“ کا حوالہ دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بیٹو، تو جروا۔

الجواب باسم ملہم الصواب: جائز نہیں۔ قال الحَصَكْفِي رحمه الله تعالى: لَا بَأْسَ بِأَزْوَارِ الدِّيَابِجِ وَالذَّهَبِ (الدر مع الشَّامِي: ۴۳۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس) بعض نے اس سے سونے کے بٹنوں کا جواز سمجھا ہے جو صحیح نہیں، اس لیے کہ آزاد گھنڈی کو کہتے ہیں، بٹن کو نہیں، گھنڈی کپڑے کے تابع ہوتی ہے، بٹن تابع نہیں، اس لیے سونے یا چاندی کے تار کی گھنڈی جائز ہے؛ بٹن جائز نہیں واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ: ۷۰/۸، کتاب الحظر والإباحة - احکام لباس وزینت، عنوان: مرد کے لیے سونے، چاندی کے بٹن، مطبوعہ: زکریا بک ڈپو دیوبند)

(۵) الدر مع الرد: ۴۳۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی اللبس .

اور زنجیر تابع ہے لہذا وہ بھی درست ہے۔ فقط

## مردوں کو موتی وغیرہ جواہرات پہننا حرام ہے

سوال: (۳۱۹) مرد کو سچے موتی یا جواہرات: عقیق و فیروزہ وغیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۱۳۳۸ھ)

الجواب: درمختار میں بعد نقل اختلاف کے ہے: فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء إلخ (۱) یعنی معتبر مذہب یہ ہے کہ مردوں کو موتی وغیرہ جواہرات پہننا اور استعمال کرنا حرام ہے۔

## مردوں کو صرف ساڑھے چار ماشہ چاندی کی انگوٹھی پہننا درست ہے

سوال: (۳۲۰) مرد کو تولہ بھر کی انگوٹھی پہننی جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۴۰۲ھ)

الجواب: چاندی کی انگوٹھی تولہ بھر کی مردوں کو پہننا ناجائز اور حرام ہے، صرف ایک مثقال کے برابر یعنی ساڑھے چار ماشہ چاندی کی انگوٹھی مہر کی مردوں کو درست ہے۔ کذا في الدر المختار (۲)

## مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے

سوال: (۳۲۱) انگشتی نقرئی و طلائی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس وزن تک؟

(۱۳۳۷/۲۱۹۸ھ)

الجواب: انگشتی طلائی مردوں کو پہننا درست نہیں ہے، اور انگشتی نقرئی جس میں مہر ہو بوزن ایک مثقال یعنی ساڑھے چار ماشہ تک درست ہے، لیکن جن لوگوں کو ضرورت مہر لگانے کی نہیں ہے ان کے لیے ترک بہتر ہے (۳)

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۵۱۵/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) قوله ( ولا يزيد على مثقال ) وقيل : لا يبلغ به المثقال . ذخيرة (الشامی: ۳۴۰/۹، کتاب الحظر والإباحة ، فصل في اللبس ) (۳) التَّخْتُمُ إِنَّمَا يَكُونُ سَنَةً إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى التَّخْتُمِ بَأَن كَانَ سُلْطَانًا أَوْ قَاضِيًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى التَّخْتُمِ فَالتَّرْكُ أَوْلَى (الفتاوی السراجیة، ص: ۳۲۹، کتاب الکراهیة والاستحسان، باب اللبس، المطبوعة: مکتبة الإتحاد دیوبند)

سوال: (۳۲۲) مردوں کو سونا اور روپیہ (چاندی) کی انگوٹھی وغیرہ کس مقدار تک استعمال کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۳۲۷ھ)

الجواب: مردوں کو سونے کی انگوٹھی تو درست ہی نہیں ہے اور چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال تک درست ہے۔ فقط

### مستورات کو ناک میں زیور پہننا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۲۳) نتھ، بلاق (۱) کیل وغیرہ جو عموماً ہندوستان میں مستورات ناک میں پہنتی ہیں، اگر بہ طور زینت کے ہوں تو شرعی فتویٰ کیا ہے؟ شرک و بدعت تو معلوم نہیں ہوتا، بہ ظاہر تو مباح معلوم ہوتا ہے۔ (۱۳۳۰-۲۹/۱۳۱۸ھ)

الجواب: بہ طور زینت کے فقہاء نے ان چیزوں کو جائز فرمایا ہے (۲) اور اگر مبنیٰ ان زیورات کے استعمال کا کوئی دوسرا امر ہے اور رسوم کفار کا اتباع ہے، تو اس کی حرمت میں شک نہیں۔ فقط

### عورتوں کا ناک کان چھیدنا اور ان میں زیورات پہننا

سوال: (۳۲۴) عورتوں کا کان اور ناک چھیدنا جائز ہے یا نہیں؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کان اور ناک چھیدے ہوئے تھے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۱۸ھ)

الجواب: حدیث بخاری و مسلم میں ہے: ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتَهُنَّ يُهَوِّنْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ الْحَدِيثِ. أَيِ حَلِيهِنَ مِنَ الْقُرْطِ وَالْقَلَادَةِ (۳) (لمعات) اس حدیث سے کانوں کا زیور زمانہ آنحضرت ﷺ میں

(۱) نتھ اور بلاق: ناک میں پہننے کا ایک زیور — کیل: ناک میں پہننے کا زیور جو لوٹک کی شکل کا ہوتا ہے۔ (فیروز اللغات)

(۲) و هل يجوز الخزام في الأنف؟ لم أره اور شامی میں ہے: قوله: (لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كتنقب القرط اه ط و قد نص الشافعية على جوازه. مدني (الدر والرد: ۵۱۶/۹، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وسئل ==

صحابیات کے کانوں میں ہونا ثابت ہوا، اور جب کانوں کا زیور ثابت ہوا تو چھیدنا کانوں کا بھی ثابت ہوا، رہا ناک کا چھیدنا اس کی نسبت درمختار میں یہ ہے: و هل يجوز الخِزَامُ فِي الْأَنْفِ؟ لم أره أورشامی میں ہے: قوله: (لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها ككُفِّ القُرْطِ اهـ ط. وقد نصَّ الشافعية على جوازه. مدني (۱) (شامی) (۵/۲۷۰، الحظر والإباحة) پس اس عبارت شامی سے اس کا جواز معلوم ہوا۔ فقط سوال: (۳۲۵) کان اور ناک چھیدنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۱۶۷/۳۳-۱۳۳۵ھ)

الجواب: کتب فقہ سے بہ ظاہر جواز اس کا معلوم ہوتا ہے۔ درمختار میں ہے: ولا بأس بِثَقْبِ أذن البنت الخ (۱) وفي الحديث ما يدل على هذا (۲) و هل يجوز الخِزَامُ فِي الْأَنْفِ؟ لم أره (درمختار) قال في الشامي: قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها ككُفِّ القُرْطِ اهـ ط. وقد نصَّ الشافعية على جوازه. مدني (۳) فقط سوال: (۳۲۶) عورتوں کو ناک بندھوانا اور نتھ یا بلاق پہننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۶۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: و هل يجوز الخِزَامُ فِي الْأَنْفِ؟ لم أره الخ. ترجمہ: اور کیا درست ہے نتھ وغیرہ ناک میں؟ میں نے اس کو کہیں نہیں دیکھا، اس پر علامہ شامی نے طحاوی سے نقل فرمایا: قلت: و إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد، فهو فيها ككُفِّ القُرْطِ. ط. وقد نصَّ الشافعية على جوازه. مدني (۳) (شامی) اس کا حاصل یہ ہے کہ جن بلاد میں نتھ کی عادت ہے اور زینت میں داخل ہے وہاں جائز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جائز ہے۔ فقط

== ابن عباس أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد؟ قال: نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلی ثم خطب ..... ثم أتى النساء فوعظهن الحديث. وبين السطور تحت قوله صلى الله عليه وسلم آذانهن وحلوقهن أي حليهن من القُرط والقلادة، لمعات (مشكاة المصابيح، ص: ۱۲۵، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الفصل الأول)

(۱) الدرّ والردّ: ۵۱۶/۹، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

(۲) اس حدیث کی تخریج سابقہ سوال میں گزر چکی ہے۔

(۳) الدرّ المختار والشامی: ۵۱۶/۹، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.



## پازیب وغیرہ زیورات کا حکم

سوال: (۳۲۷) زیورات میں عورتوں کو کس زیور کا استعمال ممنوع ہے؟ خصوصاً پازیب جس میں گھونگر نہ ہوں اور آواز چلنے سے نہ نکلے، چھڑے جو پازیب کے اوپر پہنے جاتے ہیں چلنے سے قدرے آواز معلوم ہوتی ہے، جھانور جس میں آواز چلنے سے مانع نہ ہو، آرسی آئینہ دار (۱) درست ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۵۰۴ھ)

الجواب: جس زیور میں گھونگر و اور باجانہ ہو اس کا استعمال عورتوں کو درست ہے، پازیب بلا آواز و بلا باجا اور جھانور بلا باجا اور چھڑے وغیرہ درست ہیں، اور آرسی آئینہ دار درست نہیں ہے (۲)

سونے چاندی کے سوا کس کس چیز کا زیور پہننا درست ہے؟

اور عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟

سوال: (۳۲۸) عورتوں کو چاندی سونے کے سوا کس کس چیز کا زیور پہننا درست ہے؟ عورتوں کو کرتا میں چاک کھولنا اور گریبان بٹن کا کرنا اور کف لگانا اور گریبان اور کف میں بٹن لگانا درست ہے یا نہیں؟ اور عورتوں کو کرتا کتنا نیچا پہننا چاہیے؟ اور عورتوں کو صدری پہننا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۰۱۶ھ)

الجواب: شامی میں جوہرہ سے منقول ہے: **والتَّخْتُمُ بِالْحَدِيدِ وَالصَّفَرُ وَالنَّحَاسُ**

(۱) آرسی آئینہ دار: ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے۔

(فیروز اللغات)

(۲) عن عامر بن عبد اللہ قال: علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابتة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطاناً.

و بُنَانَةُ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا بَجَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا جِلْجَلٌ يَصْوِتُنَ، فَقَالَتْ لَا تَدْخُلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جِلْجَلَهَا، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ (سنن أبي داود: ص: ۵۸۱، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الجلاجل)

والرصاص مکروه للرجال والنساء الخ (۱) یعنی انگوٹھی بنانا لوہے اور پیتل اور تانبے اور رانگ کی مکروه ہے مردوں اور عورتوں کو، پس معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا زیور اور انگوٹھی جھلا وغیرہ عورتوں کو بھی مکروه ہے (۲) عورتوں کو کرتا میں چاک کھولنا اور گریبان میں آگے کو شق کرنا اور بٹن لگانا اور کف لگانا اور صدری پہننا سب درست ہے، پردہ ہونا چاہیے، اور کرتا کے نیچے ہونے کی کچھ تحدید نہیں ہے، ستر ہو جانا چاہیے۔

**پیتل، لوہے وغیرہ کے زیور پر سونے چاندی کا ملمع ہو تو کیا حکم ہے؟**

**سوال: (۳۲۹)** اگر پیتل و لوہے وغیرہ کے زیور پر سونے یا چاندی کا ملمع ہو تو اس کا استعمال عورتوں کے لیے کیسا ہے؟ (۱۳۳۳ھ/۲۱۵۷-۳۲)

**الجواب:** اگر پیتل یا لوہے وغیرہ کے زیور پر سونے یا چاندی کا ملمع ہو تو اس کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، شامی میں ہے: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى تاتر خانية (۳)

**عورتوں کو شیشہ اور کانچ کی چوڑیاں پہننا درست ہے**

**سوال: (۳۳۰)** کیا ارشاد فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید

(۱) رد المحتار: ۴۳۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

(۲) فتاویٰ رشیدیہ اور بہشتی زیور میں عورتوں کے لیے ان چیزوں کا زیور پہننا جائز لکھا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں ہے:

**سوال:** زیور پیتل، تانبا وغیرہ کا عورتوں کو پہننا درست ہے یا نہیں؟

**جواب:** زیور سب قسم کا عورتوں کو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

**سوال:** عورتوں کو سوائے سونے چاندی کے اور دوسری چیزوں کے زیورات پہننا جائز ہیں یا نہیں؟

**جواب:** عورتوں کو سب قسم کا زیور پہننا جائز ہے، بہ شرطیکہ اس میں مشابہت کسی بد دین کی نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ

اعلم (فتاویٰ رشیدیہ: ص: ۵۹۴-۵۹۵، کتاب: جواز و حرمت کے مسائل، مطبوعہ: جسیم بک ڈپو، دہلی)

نیز بہشتی زیور میں ہے: چاندی، سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل، گلت،

رانگا وغیرہ، مگر انگوٹھی سونے، چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں (اختری بہشتی زیور، تیسرا حصہ، ص: ۶۲،

لباس اور پردے کا بیان، مسئلہ نمبر: ۵)

(۳) الشامی: ۴۳۹/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

کہتا ہے کہ شیشہ کی چوڑیاں پہننی جائز نہیں اور عمر کہتا ہے کہ جائز ہیں، اور زید استدلال پکڑتا ہے کہ شیشہ کی چوڑیاں بجتی ہیں، اور دیہات میں رواج ہے کہ عورتیں چوڑیاں ہاتھ بھر کر پہنتی ہیں، اس واسطے زیادہ آواز ہوتی ہے، اور عمر کہتا ہے کہ کیا بجز صرف ان ہی چوڑیوں پر منحصر ہے، چونکہ جس زیور سے خواہ چاندی کا ہو یا سونے کا جس سے صوت ظاہر ہو کر غیر مردوں تک پہنچا دے گی وہ حرام ہوگا۔ بینوا تو جروا (۳۲۳/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: شیشہ اور کانچ کی چوڑیاں عورتوں کو پہننا درست ہے، زید کا قول اور استدلال غلط ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### سونے چاندی کی کمائی کا چشمہ استعمال کرنا درست نہیں

سوال: (۳۳۱) سونے چاندی کی کمائی کا چشمہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۶۵۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: سونے چاندی کی کمائی کا چشمہ لگانا درست نہیں ہے۔ درمختار میں ہے: وکرہ الأكل والشرب والإدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ..... وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومراة وقلم و دوات ونحوها (۱) فقط

سوال: (۳۳۲) چشمہ سنہرا جس کی کمائی سونے کی ہو یا سونے کے پانی کی قلعی ہو جیسے انگریزی چشمہ کی کمائی جس کو عرف میں گولڈ روڈ (Gold road) کہتے ہیں مردوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۶۰/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ایسی عینک جس کی کمائی سونے کی ہو مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور اگر صرف اس پر پانی سونے کا ہے تو درست ہے۔ فقط

### پلنگ کے پایوں پر چاندی کا خول چڑھانا

سوال: (۳۳۳) پلنگ کے پایے لکڑی کے ہوں اور ان پر چاندی کا خول بنوا کر چڑھا دیا

(۱) الدر المختار مع الرد: ۹/۴۵۱، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

جاوے تو ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ یہ صورت خول کی از قسم مُفَضُّض یا مُضَبَّب ہوگی یا نہیں؟  
(۱۳۳۳ھ-۲۰۱۳ء)

الجواب: اگر کل پایہ پر خول چاندی کا چڑھا دیا گیا تو وہ کل پایہ چاندی کا ہے، استعمال اس کا ناجائز ہے۔ ولا يخفى أن الكلام في المفَضُّض وإلا فالَّذِي كُلُّهُ فَضَّةٌ يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدّمناه ولو بلا مس بالجسد (۱) (وحلّ الشرب من إناء مفَضُّض أي مزوّق بالفضّة) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها (۲) غرض یہ ہے کہ جس پایہ کے کل پر خول چاندی کا ہے تو کل پایہ چاندی کا کہلایا جاوے گا، مُفَضُّض اور مُضَبَّب کے حکم میں نہیں ہے۔ فقط

### سونے چاندی کی سرمہ دانی اور آئینہ کا حکم

سوال: (۳۳۴) سرمہ دانی اور آئینہ وغیرہ سونے چاندی کا مردوں اور عورتوں کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۴ھ-۲۰۱۴ء)

الجواب: سرمہ دانی اور آئینہ وغیرہ سونے چاندی کا مردوں اور عورتوں دونوں کو حرام ہے۔ درمختار و شامی میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حدیث ممانعت آئینہ ذہب و فضہ کی مطلق ہے، مرد و عورت کی اس میں تخصیص نہیں، زیور کی خصوصیت عورتوں کے لیے ثابت ہوگئی ہے۔ و کرہ الأكل والشرب والإدهان والتطيب من إناء ذهب وفضّة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث. وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك من الاستعمال.

قوله: (لإطلاق الحديث) هو ما روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري (۳) فقط

(۱) رد المحتار: ۹/۴۱۸، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

(۲) الدر المختار والرد: ۹/۴۱۷، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

(۳) الدر المختار ورد المحتار: ۹/۴۱۵، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

## سونے چاندی کے نب والا قلم اور دوات استعمال کرنا درست نہیں

سوال: (۳۳۵) قلم کے آگے سنہری نب ہوتا ہے، جس میں علی العموم ۱۴ حصہ وزنی سونا اور ۱۰ حصہ وزنی دوسری دھات ہوتی ہے، نب کے سرے پر ایک اور نہایت سخت قیمتی دھات ہوتی ہے جو دیر سے فرسودہ (کہنہ) ہوتی ہے، چونکہ ایک ہی نب کئی سال کام آتا ہے، سونے کی ملاوٹ صرف اس واسطے ہوتی ہے کہ کوئی اور سستی دھات نہیں ملتی جسے سیاہی زنگ آلودہ نہ کرے، ترقیہ اور تفاخر کا شائبہ نہیں، قلم کی ضرورت فقط یہ ہے کہ اس سے وقت بہت بچ جاتا ہے، روشنائی اندر سے آتی ہے۔ میں نے حدیث اور فتاویٰ بہت سے دیکھے ہیں، عدم جواز پر دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ سونے کا استعمال ضرورۃً ہے نہ تفاخر، لیکن استفتاء کر رہا ہوں نہ افتاء، کسی دلیل سے بحث نہیں کرتا، خود تو میں نے استعمال چھوڑ بھی دیا ہے، لیکن دوسروں کو منع کرنے سے جھجکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں شک ہے۔ (۵۲۶/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: اولاً معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قاعدہ مسلمہ اور مصرح بہا ہے کہ غالب فضہ بہ حکم فضہ ہے اور غالب ذہب بہ حکم ذہب ہے (۱) لأن لئلا کثر حکم الکحل (۲) اور یہ بھی مسلم ہے کہ چاندی اور سونے کا برتن اور سرمہ دانی اور سلائی اور چمچہ و پیالہ و قلم و دوات وغیرہ سب حرام ہیں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی (۳) عورتوں کے لیے صرف زیور کی اجازت ہے، دیگر اشیائے استعمالی سونے چاندی کی کسی کے لیے درست نہیں ہیں اور یہ بھی شامی میں تصریح ہے کہ یہ جو شرعاً اجازت ہے کہ تلوار کے قبضہ اور لگام اور زین اور کرسی وغیرہ پر اگر سونا و چاندی لگا ہوا ہو تو استعمال ان اشیاء کا درست ہے بہ شرطیکہ ان مواقع کو نہ چھوئے جن پر چاندی و سونے کا کام ہے (۴) تو یہ حکم خاص اس صورت میں ہے

(۱) وغالب الفضّة والذهب فضّة وذهب إلخ (الدر المختار مع الشامی: ۲۱۱/۳، کتاب الزکاة - باب زکاة المال)

(۲) رد المحتار مع الشامی: ۳۵۶/۹، أوائل کتاب الذبائح .

(۳) الدر المختار مع الشامی: ۴۱۵/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

(۴) وحلّ ..... الرکوب علی سرج مُفضّض والجلوس علی کرسی مُفضّض ولكن بشرط أن یُتقی أي یُجتنب موضع الفضّة ..... وكذا الإناء المصبوب بذهب أو فضّة والکرسی المصبوب بهما وحلیه مرآة ومصحف بهما، كما لو جله أي التفضیض ==

کہ چاندی سونے کا کام اوپر ہوا ہو اور اندر لوہا وغیرہ ہو، اور جب کہ وہ کل چیز سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہو تو استعمال اس کا ہر حال حرام ہے، خواہ اس جگہ کو ہاتھ لگے یا نہ لگے۔ قال فی الشّامی: ولا یخفی أن الکلام فی المفضض وإلا فالَّذی کُلّه فضّة یحرم استعماله بأي وجه کان إلخ (۱) پس جب یہ معلوم ہو تو اب جاننا چاہیے کہ نب قلم کا جو ایک مستقل چیز ہے اگر وہ سونے کا بنا ہوا ہو، یا اس چیز سے کہ اکثر اس میں سونا ہے جیسا کہ سوال میں درج ہے کہ ۱۲ حصہ سونا اور ۱۰ حصہ دوسری دھات ہوتی ہے، تو استعمال اس نب کا حرام ہے، درمختار میں ہے: وکره الأکل والشرب والإدهان والتطیب من إناء ذهب و فضّة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث وكذا یكره الأكل بملعقة الفضّة والذهب والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها إلخ (۲) فقط

سوال: (۳۳۶)..... (الف) سونے چاندی کے نب قلم میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) چاندی سونے کے قلم دوات سے مرد یا عورت کو لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۰۸/۱۳۳۵ھ)

الجواب: (الف) جائز نہیں ہے۔

(ب) جائز نہیں ہے۔ ویکره للذكر والأنثی الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو

الفضّة أو من دواة كذلك إلخ (۳) (درمختار) فقط

## سونے کے دانت لگوانا

سوال: (۳۳۷)..... (الف) سونے کے دانت لگوانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

(ب) نیز غسل کی حالت میں دانت سونے کے چڑھے رہنے میں کوئی مانع غسل تو نہیں؟

(۱۱۶۲/۱۳۳۸ھ)

== فی نَصْلِ سِيفٍ وَسَكِينٍ أَوْ فِي قَبْضَتِهِمَا أَوْ لِحَامٍ أَوْ رِكَابٍ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ مَوْضِعَ الذَّهَبِ

وَالْفَضَّةِ (الدَّرَامُ الْمُخْتَارُ مَعَ الشَّامِيِّ: ۹/۴۱۷-۴۱۸، أَوَائِلُ كِتَابِ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ)

(۱) رَدُّ الْمُحْتَار: ۹/۴۱۸، أَوَائِلُ كِتَابِ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ.

(۲) الدَّرَامُ الْمُخْتَارُ مَعَ الشَّامِيِّ: ۹/۴۱۵، أَوَائِلُ كِتَابِ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ.

(۳) الدَّرَمُ الرَّدُّ: ۹/۵۱۶، كِتَابِ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ - فَصْلُ فِي الْبَيْعِ.

الجواب: (الف-ب) چاندی کے دانت بنوانا بالاتفاق درست ہیں اور سونے کے دانت بنوانا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہیں اور باوجود دانتوں کے رہنے کے غسل صحیح ہے، شامی میں ہے: وفي التاتر خانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدد أنفه أو أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سناً آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضاً اهـ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۳۳۸) زید کہتا ہے کہ سونے کے دانت لگانا جائز ہے اور ترمذی شریف کی حدیث سے استدلال کرتا ہے، یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۵۹۳ھ)

الجواب: شامی میں ہے: وعلى هذا الاختلاف إذا جدد أنفه أو أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سناً آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضاً اهـ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اس میں امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاندی کا دانت بنایا جائے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سونے کے دانت کی بھی اجازت دیتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ سونے کا دانت بنانے کی بھی گنجائش ہے، مگر احوط یہ ہے کہ چاندی کا بنائے۔ فقط

سوال: (۳۳۹) سونے کے دانتوں کے متعلق فقہاء نے جواز کہیں نہیں لکھا، البتہ کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے تار سے دانتوں کو باندھنا جائز ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ (۱۳۴۵/۶۳۶ھ)

الجواب: علامہ شامی وغیرہ کا رجحان سونے کے دانت کے جواز کی طرف ہے۔ درمختار میں اس میں اختلاف نقل کیا ہے: ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد إلخ (۲) (درمختار) اور شامی میں ہے کہ وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقاً إلخ (۲) پس بناءً علیہ اس کے جواز پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔

سوال: (۳۴۰) سونے کے دانت کسی ضرورت سے لگانے جائز ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۷-۲۶/۳۱۸۵ھ)

(۱) رد المحتار: ۴۴۱/۹ کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

(۲) الدر مع الرد: ۴۴۰-۴۴۱/۹ کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس .

**الجواب:** درمختار کتاب الحظر والإباحة میں ہے: ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد إلخ (۱) اور شامی میں تا تاریخانیہ سے منقول ہے: فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضًا إلخ (۱) ان عبارات سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دانت ملتے ہوں تو ان کو چاندی سے باندھنا چاہیے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے سے باندھنا بھی جائز ہے، بہر حال اگر ضرورت ہو تو سونے سے باندھنا اور سونے کی کمائی دانتوں میں لگانا جائز ہے۔


**گھوڑے بیل وغیرہ کو سونا چاندی کا زیور پہنانا**

**سوال:** (۳۴۱) گھوڑے بیل وغیرہ کو سونے چاندی کا زیور پہنانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۵/۲۹۲۱ھ)

**الجواب:** چاندی کا جائز ہے سونے سے احتراز کرے۔ لأن ما حرم لبسه..... حرم

إلباسه (۲) (درمختار)



(۱) الدرّ مع الردّ: ۴۳۰/۹-۴۳۱ کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس.

(۲) الدرّ المختار مع ردّ المحتار: ۴۳۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في اللبس.



## پردہ اور ستر کے احکام

### پردہ کی شرعی حیثیت اور اہمیت

سوال: (۳۴۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ پردے کا مسلمانوں میں کب حکم ہوا؟ اور عمل درآمد کب ہوا؟ مفصل قرآن شریف و حدیث نبوی سے ثابت کیا جاوے؟

دیگر آں کہ آج کل پردہ کا مسلمانوں میں ضعف ہے، اور دن بہ دن غیر قوموں کے میل جول سے پردہ کا — جو مسلمانوں کے لیے مستحکم چیز تھی اور اپنی شان اور ناموس کی عفت اور پاک دامنی کا خیال کرتے تھے — اب تنزل ہے، یہی چیز ہے کہ مسلمانوں میں اب تک اس کا یعنی پردہ کا خیال کسی قدر ہے، اور اہل پنجاب تو عموماً پردہ کی طرف سے نہایت بے پروا ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نیک عطا فرمائے۔ آمین بینوا تو جروا (۵۰۸/۲۹-۱۳۳۰)

الجواب: پردے کے متعلق ایک تحریر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیز کی ہے، اس کی کسی قدر عبارت لکھ دینا کافی ہے، جب وہ رسالہ (۱) طبع ہو کر شائع ہو جائے گا اس سے مکمل تحقیق پردے کی ان شاء اللہ پوری ہو جاوے گی، اور مخالفین کے شکوک و شبہات کا جواب بہ احسن وجہ معلوم ہو جاوے گا، سر دست عبارت ذیل پر اکتفاء کی جاتی ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۱۳)

(۱) یہ رسالہ ”لطائف رشیدیہ“ کے نام سے شائع شدہ ہے، اور مفتی صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے اس کی تصحیح ہم نے لطائف رشیدیہ سے کی ہے، اور آخر میں صفحہ اور باب کا حوالہ بھی درج کر دیا ہے۔ ۱۲

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الْآيَةُ﴾ (سورہ احزاب، آیت: ۵۹) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محلِ فتنہ میں مطلقاً منہ ڈھکنے کا صاف حکم دیدیا ہے، چنانچہ صاحبِ کشف اس کے معنی لکھتے ہیں: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ یرخینہا علیہنَّ و یغطین بہا وجوہہنَّ و أعطافہنَّ (۱) پس اس سے مثل آفتاب کے روشن ہو گیا کہ قراری البیوت عامہ مؤمنات پر فرض ہے، اور گھر سے نکلنا موجبِ معصیت و محلِ اندیشہ و فتنہ و فساد ہے کہ غضبِ بصر اس حالت میں سخت دشوار ہے، اسی واسطے حضرت ﷺ نے فرمایا ہے: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (۲) یعنی عورت سراپا ستر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ منتظرِ اصدارِ معاصی رہتا ہے، اس حدیث میں آپ نے تمام بدنِ عورت کو عورت (ستر) فرمایا، اور کسی عضو کا استثناء نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سب بدن اس کا عورت ہے، اور فرمایا کہ مطلقاً اس کے خروج پر شیطان کو استشراف ہوتا ہے کہ اس سے عورت کو اور لوگوں کو اس کے ذریعہ سے معصیت میں ڈالے، اور خروج کو متقید کسی قید کے ساتھ نہیں کیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نظر کرنا مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف محلِ اندیشہ ہے، چنانچہ حدیثِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں وارد ہے: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميا وإن أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ (۳) یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تشریف لائے — یہ قصہ پردے کی فرضیت کے بعد

(۱) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري رحمة الله عليه: ۵۶۰/۳، المطبوعة: دارالكتاب العربي — لبنان، بيروت.

(۲) عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة الحديث (جامع الترمذي: ۲۲۲/۱، أبواب الرضا ع — باب)

(۳) سنن أبي داود: ص ۵۶۸، كتاب اللباس — باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾

کا ہے — آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ اس سے پردہ کرو اور آڑ میں ہو جاؤ، میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ ناپینا نہیں ہیں کہ نہ ہم کو دیکھے نہ پہچانے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو اس کو؟! انتہی۔

الحاصل اس صورت میں دیکھو کہ کس طرح آپ ﷺ نے مرد کی طرف مستورات کے نظر کرنے سے تحذیر فرمائی، اور نیز لفظ ﴿أَذْنِي أَنْ يُعْرِفَنَ﴾ (سورہ احزاب، آیت: ۵۹) سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اس کا جاننا کہ یہ فلاں عورت ہے باعث فتنہ ہے اگرچہ چہرہ نہ دیکھے، چنانچہ وَلَا يُعْرِفُنَا اس پر عذر میں پیش کرنا صاف دلیل ہے، اور جب ازواج مطہرات کو بہ حضور رسول اللہ ﷺ مرد کی طرف دیکھنے میں اندیشہ تھا، اور وہ دیکھنا حضرت ﷺ نے ناجائز رکھا تو کوچہ و بازار کا نظارہ باہمی عامہ مرد و زن کیا کچھ موجب فساد ہوگا؟! خصوصاً جب کہ حسبِ عادت ہر دو فریق لباسِ آراستہ کے ساتھ نکلیں۔

حضرت ﷺ فرماتے ہیں: کل عین زانیۃ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیۃ (۱) یعنی ہر آنکھ زنا کار ہے اور جو عورت خوشبو لگا کر مجلسِ رجال پر گزرے وہ بھی زانیہ ہے، اور مثل اس کے بہت سی احادیث ہیں کہ جن سے ممانعت خروجِ نساء کی ثابت ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب خروجِ نساء کا بہ نظر سیر و تماشا ہوگا تو زینت کے ساتھ ہوگا؛ نہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اور میلے سڑے لباس میں، چنانچہ باہر پھرنے والی عورتوں کا حال خود مشاہد ہے (۲) انتہی ما قال رحمہ اللہ. فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## پردہ شرعی اور نامحرم کی تعریف

سوال: (۳۴۳)..... (الف) پردہ شرعی کس کو کہتے ہیں؟

(ب) چند عورتیں ہیں جب ان کے شوہر کے قریبی رشتہ دار گھر میں آتے ہیں تو ان کے گھر کی

(۱) عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين الحديث (جامع الترمذي: ۲/۱۰۷، أبواب الآداب — باب ما جاء في كراهية المرأة متعطرة)

(۲) لطائف رشیدیہ، ص ۳۷-۳۸، مسئلہ اثبات پردہ مروجہ شرفائے ہند از کتاب وسنت ۱۲

عورتیں گھونگھٹ کر لیتی ہیں؛ پردہ شرعی ہوا یا نہیں؟

(ج) نامحرم کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے سامنے آنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کون کون لوگ نامحرم ہیں؟ (۲۹/۳۰۶-۱۳۳۰ھ)

الجواب: (الف) پردہ شرعی یہ ہے جو مروج ہے کہ گھر سے باہر نہ پھرنا اور غیر محرم کے سامنے نہ آنا۔

(ب) پردہ شرعی ہو گیا۔

(ج) نامحرم وہ ہے جس سے نکاح جائز ہو، اوپر کے سوال میں سوائے شوہر کے شوہر کا ہم زلف و بہنوئی و بھائی سب نامحرم ہیں۔

شرعی پردہ کس قدر ہے؟ اور نقاب رکھنا کیسا ہے؟

سوال: (۳۴۴) عورتوں کے لیے شرعی پردہ کس قدر ہے؟ چہرہ پر نقاب رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۴۲/۶۶۱ھ)

الجواب: شرعی پردہ یہ ہے کہ غیر محرموں سے اپنا تمام بدن چھپائے، اور چہرہ اگر چہ عورت (ستر) میں داخل نہیں ہے، مگر فتنہ کی وجہ سے چہرہ کو بھی ڈھکنا چاہیے، اور اجنبیوں کے سامنے چہرہ نہ کھولنا چاہیے خواہ نقاب رکھے، یا چادر وغیرہ سے چھپائے (۱)

برقع کیسا ہونا چاہیے؟

سوال: (۳۴۵)..... (الف) اگر عورت اپنا بدن کرتا و پا جامہ سے، منہ رومال سے، ہاتھ دستانوں سے، پاؤں جرابوں سے چھپا کر ان کے اوپر زیور پہن کر، یا اور کسی قسم کی اعلیٰ زیبائش لگا کر،

(۱) فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ أَوْ شَكَّ امْتِنَاعَ نَظَرِهِ إِلَى وَجْهِهَا، فَحَلَّ النَّظَرَ مُقِيدَ بَعْدِ الشَّهْوَةِ، وَإِلَّا فَحَرَامٌ، وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمَنْعٌ مِنَ الشَّابَةِ (الدَّرَّ الْمُخْتَار) قَوْلُهُ: (وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمَنْعٌ مِنَ الشَّابَةِ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لَخَوْفِ الْفِتْنَةِ كَمَا قَدِمَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ (الدَّرَّ الْمُخْتَار) وَرَدَ الْمُحْتَار: ۹/۴۵۱، كِتَابُ الْحِظْرِ وَالْإِبَاحَةِ - فَصْلُ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ

پاؤں میں طلائی یا نقرئی نقش و نگار کی جوتی پہن کر، بغیر برقع چادر اوڑھے دن کے وقت کسی ضرورت سے باہر چلے پھرے تو جائز ہے یا نہیں؟

(ب) طلائی یا نقرئی تیل بوٹے کا برقع بہ طور زیبائش پہن کر عورت کا باہر چلنا پھرنا درست ہے یا نہیں؟

(ج) آج کل دستور ہو گیا ہے کہ عوام جاہل یا بدکار لوگ برقع پہننے والی عورت کی طرف خواہ مخواہ متوجہ ہوتے ہیں، برعکس اس کے بے برقع والی عورت خواہ کیسی ہی حسین خوب صورت ہو، مگر اس کی جانب چنداں خیال نہیں ہوتا جس قدر کہ برقع والی عورت کی طرف ہوتا ہے، ایسی حالت میں برقع ہی ہونا چاہیے یا بجائے برقع میلا کچھلا چادر اوڑھ کر چلنا پھرنا چاہیے؟

(د) برقع مروجہ کب سے شروع ہوا اور اس کا موجد کون ہے؟

(ه) ہر امیر غریب عورت کے لیے ایک ہی قیمت اور رنگ کا برقع ہونا ضروری ہے یا کہ ہر ایک عورت اپنی حیثیت کے موافق اعلیٰ و ادنیٰ بنا سکتی ہے؟

(و) ریشم حریر وغیرہ کا برقع بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور برقع پر ریشم یا طلائی و نقرئی تیل بوٹے بنانا کیسا ہے؟

(ز) برقع کے سر پر طلائی نقرئی نقش و نگار کی ٹوپی چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟

(ح) عورت کا ایسے کپڑے پہننا جن سے بدن کا کوئی حصہ برہنہ نہ رہے، مگر اعضاء ہاتھ، چھاتی وغیرہ علیحدہ علیحدہ نظر آویں جائز ہے یا نہیں؟

(ط) صرف بدن کا رنگ ہی چھپانا فرض ہے یا کہ اعضاء کی شکل و شباهت کا چھپانا بھی فرض ہے؟

(ی) ہر وہ زیور جس کے ظاہر کرنے سے عورت کا بدن ہرگز نظر نہ آوے اور نہ اس زیور کی

جھنکار وغیرہ سننے میں آوے تو ایسے زیور کا پہننا درست ہے یا نہیں؟

(ک) برقع پہن کر باہر جانا چاہیے یا چادر پہن کر؟ (۱۰۵۹/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: (الف) ناجائز ہے۔

(ب) یہ بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔

(ج) دو امر کا لحاظ کرنا چاہیے ایک یہ کہ باہر نکلنے میں فتنہ نہ ہو، دوسرے یہ کہ بدن اور منہ چھپا

ہوا ہو جس میں یہ امور اچھی طرح حاصل ہوں وہ کرنا چاہیے، دراصل باہر نکلتا ہی موجب فتنہ ہے۔

(د) یہ معلوم نہیں ہے۔

(ھ-ز) دراصل عورت کو اس طرح باہر نکلتا ہی نہ چاہیے اور اگر بہ ضرورت نکلے تو زیب و زینت نہ ہو، برقع ہو یا چادر سادہ و بے زیب میلی کچیلی ہو۔

(ح-ط) ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلتا بالضرور موجب فتنہ ہے اور یہی دلیل حرمت کی ہے۔

(ی) گھر میں پہننا درست ہے اور باہر پہن کر نہ نکلے۔

(ک) برقع ہو یا چادر میلہ کچیلہ ہونا چاہیے اور بلا ضرورت شدیدہ باہر نکلتا ہی نہ چاہیے اگر نکلے تو برقع ہو یا چادر میلہ کچیلہ سادہ ہونا چاہیے (۱) فقط

### پردہ فرض ہے یا سنت یا مباح؟

سوال: (۳۴۶) گوشہ عورتوں کے لیے فرض ہے یا سنت یا مباح یا بدعت؟

(۱۳۳۴-۳۳/۱۱۷۸ھ)

الجواب: عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے اور باہر پھرنا بلا پردہ حرام ہے۔

سوال: (۳۴۷) عورتوں پر غیر محرم سے پردہ فرض ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۵۴۶ھ)

الجواب: فرض ہے۔ فقط

### کتنی عمر کے لڑکوں سے پردہ فرض ہے؟

سوال: (۳۴۸) ایک عورت اپنے لڑکے کی عمر ۱۹ سال بتاتی ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری

ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۵۷۱ھ)

الجواب: شریعت میں پندرہ برس کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور تمام احکام بالغوں کے اس پر مرتب ہو جاتے ہیں، پس جب کہ عمر اس لڑکے کی موافق بیان اس کی والدہ کے ۱۹ برس کی ہے تو اس سے پردہ کرنا اور اس کو عورتوں میں نہ آنے دینا ضروری ہے، جیسا کہ درمختار میں اشباہ سے نقل

(۱) ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (سورہ احزاب، آیت: ۳۳)

کیا ہے: وفي الأَشْبَاه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة حسب (۱) (درمختار) یعنی لڑکا صرف پندرہ برس کی عمر تک یعنی اس سے پہلے پہلے عورتوں میں داخل ہو سکتا ہے، غرض یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے پردہ کرنا ضروری و فرض ہے۔ فقط

سوال: (۳۳۹) وجوب پردہ از طفلان کی حد شرعی بلوغ ہے یا عمر کے حساب سے ہے؟ اگر عمر کے حساب سے ہے تو کتنی عمر میں وجوب پردہ کا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۱۲۷۶ھ)

الجواب: درمختار میں ہے کہ لڑکا پندرہ برس کی عمر تک عورتوں پر داخل ہو سکتا ہے اور جس وقت پورے پندرہ برس کا ہو جائے یا اس سے پہلے علامت بلوغ کی یعنی احتلام وغیرہ ظاہر ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔

### سالی کو بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے

سوال: (۳۵۰) حقیقی سالی کو اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو کس حد تک؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۲ھ)

الجواب: شرعی پردہ کرنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۳۵۱) زید کی سالی اپنی بہن یعنی منکوحہ زید کی حیات میں زید سے پردہ کرے یا نہ کرے؟ (۱۳۳۷/۱۵۵۳ھ)

الجواب: حقیقی سالی چونکہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، لہذا اس سے پردہ کرنا چاہیے، خواہ اس کی بہن یعنی منکوحہ زید زندہ ہو یا نہ ہو۔

سوال: (۳۵۲) ایک شخص کی دو دختر ہیں، اب عمر کا نکاح چھوٹی لڑکی سے ہوا، اور زید کا نکاح بڑی دختر سے ہوا؛ تو زید کی زوجہ کو عمر سے اور عمر کی زوجہ کو زید سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور فتنہ کا بھی بہت کچھ اندیشہ ہے۔ (۱۳۳۱/۱۳۳۱ھ)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۷/۲، کتاب الصلاة - باب شروط الصلاة - مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد .

وفي الشامي أيضًا: ۴۴۵/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس .

الجواب: ان کو پردہ کرنا چاہیے خصوصاً خوف فتنہ کی صورت میں بہت احتیاط لازم ہے۔ فقط

سلج (سالے کی بیوی) کو خاوند کے بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے

سوال: (۳۵۳) حقیقی سلج کو اپنے خاوند کے بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۱۴ھ)

الجواب: پردہ کرنا چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی زاد بھائیوں سے پردہ کرنا چاہیے

سوال: (۳۵۴)..... (الف) لڑکی کو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟

(ب) خالہ زاد بھائی، بہن اور ماموں، پھوپھی زاد بہن بھائی کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۱۴ھ)

الجواب: (الف) چاہیے۔ فقط (ب) چاہیے۔ فقط

پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے

سوال: (۳۵۵) زید کی زوجہ اور اس کا پیر دونوں جوان ہیں، اور پیر مذکور مہینوں سے زید کے گھر مقیم ہے، بلا تکلف اس کے گھر میں آتا جاتا ہے، اس کا شوہر منع نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ پیر اجنبی نہیں ہے، پیر کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۳-۳۲/۲۱۲۸ھ)

الجواب: پیر سے پردہ کرنا ایسا ہی ضروری اور فرض ہے جیسا کہ تمام اجنبی مردوں سے خواہ پیر کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، پیر سے پردہ نہ کرنا اور ایسی بے تکلفی جو سوال میں درج ہے کسی طرح درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۳۵۶) عورت کو پیر سے پردہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو پیر عورت کو بے پردہ بیعت

کرے اور حلقہ کرائے ایسے پیر کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۵۵۶ھ)



الجواب: شرعاً پیر سے بھی پردہ ہے، اور جو پیر اپنی مرید نیوں سے پردہ نہ کرائے اور بے حجاب ان کو حلقہ وغیرہ میں بٹھائے وہ عاصی و فاسق ہے، لائق پیر بنانے کے نہیں ہے، اور بیعت ہونا اس سے درست نہیں ہے۔ فقط

### نوکروں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے

سوال: (۳۵۷) نوکر کے سامنے عورتوں کو چہرہ اور کف دست کھولنا کیسا ہے؟ (۱۲۶۱/۱۳۳۷ھ)  
الجواب: نوکر اجنبی مرد ہے عورتوں کو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے اور چہرہ اور کف دست وغیرہ اس کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے۔ فقط

### بیوی یا شوہر کی وفات کے بعد پردے کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۵۸) بعد وفات بیوی کے یا شوہر کے باہم پردے کا کیا حکم ہے؟ (۱۵۵۳/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: عورت بعد موت شوہر اپنے شوہر متوفی کا منہ دیکھ سکتی ہے، بلکہ غسل بھی دے سکتی ہے، کما فی العالمگیریۃ: و يجوز للمرأة أن تغسل زوجها الخ (۱) اور مرد اپنی عورت متوفیہ کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن اس کو اپنی زوجہ کا منہ دیکھنا درست ہے۔ کذا فی الدر المختار وغیرہ (۲) صحیح مذہب حنفیہ کا یہ ہے جو لکھا گیا۔

### خاوند کے بھتیجے سے پردہ کرنا چاہیے

سوال: (۳۵۹) عورت کو شوہر کے بھتیجے سے یعنی چچی کو چچا کی حیات میں بھتیجے سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۵۵۳/۱۳۳۸ھ)

(۱) الفتاویٰ الہندیۃ: ۱/۱۶۰، کتاب الصلۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الخ — الفصل الثانی فی غسل المیت .

(۲) ویمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها علی الأصح ..... وهي لا تمنع من ذلك ولو ذمیه بشرط بقاء الزوجیۃ (الدر المختار مع رد المختار: ۳/۷۵-۷۶، کتاب الصلۃ، باب صلاة الجنائز، مطلب فی القراءة عند المیت)

الجواب: چچا کی زوجہ سے یعنی چچی سے بعد مرنے چچا کے اور بعد عدت گزرنے کے بھتیجے کا نکاح درست ہے، اور پردہ چچی سے چچا کی حیات میں کرنا چاہیے۔

### پڑوسیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے

سوال: (۳۶۰) زید کہتا ہے کہ عورت کو پردہ میں رکھنا اچھا ہے، اور خدا و رسول ﷺ کا یہی حکم ہے، جو نامحرم ہو حتی المقدور اس سے پردہ کرنا چاہیے، عمر کہتا ہے کہ پڑوسی سے پردہ کرنے کا حکم حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ غیر محرم ہو، کس کا قول صحیح ہے؟ (۱۵۶۶/۱۳۳۸ھ)

الجواب: قول زید اس بارے میں صحیح ہے، غیر محرم اگرچہ پڑوسی ہو اور ایک احاطہ مکان میں رہتا ہو اس سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، ظاہر ہے کہ شوہر کا بھائی اکثر عادتاً ایک مکان میں رہتا ہے، اور پڑوسیوں سے زیادہ پڑوسی اور قریب تر ہوتا ہے، جب کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی پردہ کا حکم فرمایا تو اجنبی اور غیر محرم پڑوسیوں سے بہ درجہ اولیٰ حکم پردہ کا ثابت ہو گیا ہے (۱)

### پرورش کردہ یا منکوحہ کے ہمراہ آئے ہوئے لڑکے سے پردہ کا حکم

سوال: (۳۶۱)..... (الف) ایک شخص نے تین یا چار سال کا لڑکا کسی غیر قوم کالے کر پرورش کیا، اب وہ جوان ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟

(ب) ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے ہمراہ سات آٹھ سال کا لڑکا آیا اب وہ جوان ہو گیا ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے یا نہ؟ (۲۲۰۹/۱۳۳۲ھ)

الجواب: (الف-ب) دونوں صورت میں ان لڑکوں سے پردہ کا حکم ہے، سوائے محارم کے سب عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ فقط

(۱) عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یتاکم والدخول علی النساء، فقال رجل من الأنصار: یا رسول اللہ! أفرأیت الحموی؟ قال: الحموی: الموت (صحیح البخاری: ۸۷۷/۲، کتاب النکاح - باب لا یخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول علی الممغیبة)

## طلاق شدہ عورت کا اپنے سابق خاوند سے پردہ کرنا فرض ہے

سوال: (۳۶۲) زید جو کہ نہایت بوڑھا ضعیف ہے، اس کی عورت ہندہ نے خواہش ظاہر کی جو کہ کم سن اور تندرست ہے کہ مجھ کو طلاق دے دو، تاکہ میں دوسرا عقد کر لوں، چنانچہ زید نے اس کو طلاق دے دی اور ہندہ نے اپنا دوسرا عقد دوسرے سے کر لیا، دوسرے شوہر کے پاس رہتی ہے، لیکن زید نے اس کو اپنی دکان کی حفاظت کے لیے رکھ لیا ہے، اگر کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتی ہے، ہاتھ پاؤں کو تیل کی مالش کر دیا کرتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۸۵۵ھ)

الجواب: جب کہ زید نے ہندہ کو طلاق دے دی اور ہندہ نے بعد عدت کے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، تو زید اس عورت سے بالکل اجنبی ہو گیا، پس نوکر رکھنا بہ غرض حفاظت دکان وغیرہ تو اس کو جائز ہے، لیکن اس کے سامنے بے پردہ آنا یا اس کے ہاتھ پیر کو مالش کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

## باپ کے چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا لازم ہے

سوال: (۳۶۳) ہندہ کو شرعاً اپنے باپ کے چچا زاد بھائی بکر سے پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۳۶۷ھ)

الجواب: ہندہ کو بکر سے اس صورت میں پردہ کرنا لازم ہے۔

## سوتیلی ساس سے پردہ کا حکم

سوال: (۳۶۴) خاکسار نے بعد انتقال زوجہ اول دوسرا عقد کر لیا ہے، مرحومہ کی دختر کا شوہر یعنی میرا داماد میری موجودہ زوجہ کا محرم ہے یا نہیں؟ پردہ شرعی پر ضرورت اکتفاء کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۵۸۴ھ)

الجواب: سائل کا داماد بہ صورت مذکورہ سائل کی زوجہ ثانیہ کا محرم نہیں ہے، البتہ بہ ضرورت اور عدم خوف فتنہ پردہ شرعی پر اکتفاء کرنا درست ہے۔

## دیور وغیرہ اجنبی کی طرح ہیں

سوال: (۳۶۵) دیور وغیرہ کی غیر محرمیت اجنبی محض سے کم ہے یا مساوی ہے؟

(۱۳۳۵-۲۳/۱۵۱ھ)

الجواب: ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو بسبب ولو بزناً (۱)  
(در مختار) اس سے معلوم ہوا کہ عدم محرمیت میں دیور وغیرہ اجنبی ہی کے مساوی ہیں۔ فقط

جیٹھ، دیور، خسر اور خاوند کے نانا سے پردہ ہے یا نہیں؟

سوال: (۳۶۶) متعلقین غیر محرم کو دخول میں استیذان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نیز زوج کے متعلقین کو مثل بھائی وغیرہ آمد و شد میں اجازت ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۹۰۸ھ)

الجواب: شرعاً زوج کے بھائی سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ محرم میں سے نہیں ہے، اور حدیث شریف میں بھی صراحۃً شوہر کے بھائی سے پردہ کا حکم وارد ہوا ہے (۲) اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو محرم میں سے نہ ہو اس سے پردہ کرنا چاہیے، خسر سے پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ محرم میں سے ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۳۶۷)..... (الف) عورت اپنے دیور، جیٹھ کے سامنے آسکتی ہے یا نہیں؟

(ب) تنہا مکان میں بہو کے سامنے اس کا خسر جاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۹۸ھ)

الجواب: (الف) دیور، جیٹھ وغیرہ سے شریعت میں پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے۔

(ب) احتیاط بہتر ہے اگرچہ شرعاً وہ محرم ہے، لیکن احتیاط کرنا اچھا ہے۔ فقط

(۱) الدر المختار مع الرد: ۴۴۷/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس.

(۲) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمى؟ قال: الحمى: الموت (صحيح البخاري: ۷۸۷/۲، كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة)

سوال: (۳۶۸) دولہن کو دولہا کے باپ اور نانا و چھوٹے بھائی کے سامنے بلا حجاب آنا اور سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۹۶/۱۳۳۷ھ)

الجواب: دولہا کا باپ اور نانا تو دولہن کے محرم شرعی ہیں ان سے بلا حجاب رہنا اور سامنے آنا اور سفر کرنا درست ہے، اور شوہر کا بھائی غیر محرم ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تنہا سفر نہ کرنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۳۶۹) اگر شوہر زوجہ کو خسر سے بات کرنے سے منع کرے اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۸/۹۷۲ھ)

الجواب: خسر یعنی شوہر کا باپ محارم میں سے ہے شرعاً اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور کلام کرنا درست ہے۔

سالی کی بالغ بیٹی، چچی، ممانی اور خالو، پھوپھا سے پردہ کرنا

سوال: (۳۷۰) زید سے زید کی حقیقی سالی کی دختر بالغہ کو شرعاً گوشہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۱۷۳۵ھ)

الجواب: پردہ لازم ہے کیونکہ پردہ سوائے محرمات ابدیہ کے سب سے کرنا چاہیے۔ فقط  
سوال: (۳۷۱) زید سے زید کی تائی اور چچی اور ممانی کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ہندہ کو اپنے خالو اور پھوپا اور بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۳۸۹ھ)

الجواب: چونکہ دلیل ان سب مذکورات سے پردہ کرنے کی مشترک ہے، اس لیے ایک ہی جواب کافی ہے، وہ یہ کہ ان سب سے پردہ شرعی کرنا چاہیے کیونکہ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہیں۔  
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمُ الْآيَةِ﴾ (سورہ نساء، آیت: ۲۴) فقط

باپ اور بھائی سے پردہ نہیں ہے

سوال: (۳۷۲)..... (الف) لڑکی کو اپنے باپ سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟  
(ب) حقیقی بہن کو اپنے بھائی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳ھ)

الجواب: (الف) باپ سے پردہ نہیں ہے۔ فقط

(ب) پردہ نہیں ہے۔ فقط

### فتنہ کا خوف ہو تو محرم سے پردہ کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۳۷۳) ایک عورت ہندہ کا یعنی بھائی یا چچا شراب خوار زانی فاسق مخمور رہتا ہے، لہذا ہندہ اس سے پردہ کرتی ہے، زید کہتا ہے کہ پردہ کرنا شرعاً جائز ہے کیونکہ فاسق کا اعتبار نہیں، اور ہندہ اگر پردہ نہ کرے گی تو اس کی عفت و حیا میں فرق آوے گا، عمر و کہتا ہے کہ یہ محرم ہیں ان سے کسی صورت میں پردہ نہیں ہے بلکہ پردہ کرنا بے حیائی ہے؟ (۱۰۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اپنے محرم سے پردہ نہیں ہے، اور یعنی بھائی اور چچا محرمات ابدیہ میں سے ہیں، لہذا ان سے پردہ لازم نہیں ہے، لیکن موضع فتنہ و خوف فتنہ میں فقہاء نے محارم سے بھی پردہ کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ درمختار میں ہے: ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو سبب ولو بزنا إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها أيضاً إلخ (۱) پس اگر ہندہ کو خوف فتنہ ہے تو پردہ کرنا اس کا حق بہ جانب ہے اس پر ملامت نہیں ہو سکتی۔ فقط واللہ اعلم

سوال: (۳۷۴) اگر اپنے ولی محرم کا فسق اس درجہ بڑھ گیا ہو کہ محارمات سے اس کا ابتلا معلوم ہو جائے تو شرعاً اس سے پردہ واجب ہے یا نہیں؟ (۶۷۲/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: محرم اگر فاسق ہے تو اگرچہ شرعاً پردہ اس سے واجب نہیں ہے، لیکن اگر اندیشہ ہو تو احتیاط پردہ کرنے میں ہے۔

### سوتیلی ماں سے پردہ لازم نہیں مگر احتیاط ضروری ہے

سوال: (۳۷۵) زید کی بیوی مرگئی، اور باپ عمر کا بھی انتقال ہو گیا، زید کی سوتیلی ماں موجود ہے اور وہ زید کے پاس رہتی ہے، اور رات کو ایک دالان میں سوتے ہیں اور دونوں جوان ہیں، یہ تجلیہ ان کو جائز ہے یا نہ؟ اگر ناجائز ہے تو ان کے رشتہ داروں اور عزیز واقارب کو ایسے معاملات دیکھنا اور

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۹/۴۴۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس.

ان سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ (۳۳/۲۱۳-۱۳۳۲ھ)

الجواب: شامی نے کافی حاکم سے نقل فرمایا ہے کہ باپ کی زوجہ کے ساتھ خصوصاً جب کہ دونوں جوان ہوں خلوت کرنا ایک مکان میں جب کہ خوفِ فتنہ ہونا جائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ عبارتِ شامی یہ ہے: وَلَعَلَّ وَجْهَهُ خَشْيَةُ الْفِتْنَةِ: حَيْثُ كَانُوا رَجَالًا مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانُوا مُحَارِمًا لَهَا بِكُونِهِمْ أَوْلَادُ زَوْجِهَا، كَمَا قَالُوا: بِكَرَاهَةِ الْخُلُوعِ بِالصَّهْرَةِ الشَّابَّةِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنِ الْمَعْرَاجِ: وَكَذَلِكَ حَكَمَ الشُّرَّةُ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، وَلَهُ أَوْلَادُ كِبَارٍ أَجَانِبٍ أَوْ فَسَمَاهُمْ أَجَانِبٍ لَمَّا قُلْنَا الْخ (۱) اس عبارت سے واضح ہے کہ جس طرح زید اور زوجہ عمر تخلیک کے ساتھ ایک جگہ سوتے اور رہتے ہیں، خصوصاً جب کہ وہ پہلے سے متہم ہوں اور خوفِ فتنہ ہو اس طرح دونوں کا ایک جگہ رہنا اور سونا درست نہیں ہے، رشتہ داروں اور عزیز واقارب کا کام اتنا ہے کہ وہ دونوں کو سمجھا دیں کہ اس طرح تنہائی میں نہ رہیں، باقی چونکہ باپ کی زوجہ محرماتِ ابدیہ میں سے ہے، اس لیے دوسروں کو خواہ مخواہ بدظنی بھی نہ کرنی چاہیے، اور متارکت ان سے نہ کرنی چاہیے، کیونکہ درحقیقت پردہ زوجہ اب سے لازم نہیں ہے کیونکہ وہ محارم میں سے ہے، اور فقہاء کی یہ عبارت بھی ہے: إِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَوْلَادِ زَوْجِهَا الْخ (۱) لیکن بوجہ خوفِ فتنہ و احتیاط ان کو منع کیا جاتا ہے اور ایک جگہ سونے کو منع کیا جاتا ہے، الحاصل ان کو یہ مسئلہ بتلادینا چاہیے کہ اتہام کے موقع سے بچنا چاہیے (۲) نہ یہ کہ درحقیقت ان کو زنا کا سمجھ کر ان سے متارکت کلیہ کرنا ضروری ہو۔

### مدخولہ زوجہ کی لڑکی سے پردہ نہیں

سوال: (۳۷۶) ہندہ بیوہ نے زید جوان سے اپنا نکاح کر لیا، ہندہ کے پہلے شوہر سے ایک لڑکی جوان ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، مگر رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی ہندہ کے پاس ہے،

(۱) رد المحتار: ۱۸۱/۵، کتاب الطلاق - مطلب: الحق أن على المفتي أن ينظر في نصوص الوقائع، قبيل فصل في ثبوت النسب.

(۲) روی الخرائطی فی مکارم الأخلاق عن عمر من قوله بلفظ من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء الظن به (كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ۳۳۳/۲)

ایسی حالت میں ہندہ کو لڑکی کو رخصت کر دینا چاہیے یا نہ؟ اگر نہیں تو ہر دو صورت میں پردہ زید سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۳۳) ھ

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَرَبَّائِبُكُمُ النَّحَىٰ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ الْآيَةَ﴾ (سورہ نساء، آیت: ۲۳) اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ عورت مدخولہ کی لڑکی محرمات ابدیہ میں سے ہے، لہذا اس سے پردہ نہیں ہے وہ مثل دختر کے ہے، البتہ اندیشہ اور خوفِ فتنہ کی صورت میں اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر رخصت کر دینا مناسب ہے۔ فقط

### رضاعی رَبِیْبَہ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں

سوال: (۳۷۷) زید کی زوجہ ہندہ، دونوں کی لڑکی خدیجہ ہے زید کا انتقال ہوا، ہندہ نے نکاح ثانی بکر سے کیا، بکر و ہندہ سے لڑکی فاطمہ پیدا ہوئی، فاطمہ نے دودھ خدیجہ کا چند ماہ پیا، خدیجہ بیوہ ہو گئی، اس نے عمر کے ساتھ نکاح کیا، اب فاطمہ کا پردہ عند الشریع عمر سے درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۹۸۰) ھ

الجواب: صورتِ سوال سے ظاہر ہے کہ نسباً فاطمہ خدیجہ کی بہنِ اخیانی ہے، کیونکہ ماں دونوں کی ہندہ ہے، اور رشتہٴ رضاعت سے فاطمہ خدیجہ کی دختر رضاعی ہے، پس خدیجہ نے جو نکاح بعد میں مستثنیٰ عمر سے کیا تو فاطمہ عمر کی ربیبہ رضاعی ہوئی، اور بہ قاعدہ: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (۱) فاطمہ عمر کی محرمہ ہوئی، لہذا فاطمہ کو عمر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط

### رضاعی باپ سے پردہ کرنا ضروری نہیں

سوال: (۳۷۸) محمودہ کا شوہر؛ بکر سے جو محمودہ کا رضاعی باپ ہے پردہ کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۶/۳۲۵۰) ھ

الجواب: رضاعی باپ سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر فتنہ کا خوف ہے تو پردہ کرنا چاہیے۔ فقط



ایک ہی مکان میں رہنے والوں کے درمیان پردہ کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۷۹) مردوں کو غیر محرمات کی طرف نظر کرنا مطلقاً حرام ہے یا صرف بہ نظرِ شہوت؟ اگر مطلقاً حرام ہے تو پھر اس صورت میں جب کہ زید کے تمام کنبہ والے مع محرمات و غیر محرمات کے ایک ہی مکان میں زندگی بسر کرتے ہیں تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جب کہ بار بار مکان میں آمد و رفت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر بہ نظرِ شہوت حرام ہے تو محرمات و غیر محرمات میں دریں باب کیا حکم ہے یعنی کیا فرق ہے؟ اور آیت کریمہ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمُ الْآيَةُ﴾ (سورہ نور: آیت: ۳۰) جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے کیا معنی ہوں گے؟ (۵۹۲/۱۳۳۷ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: و تمنع المرأة الشابّة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنّه عورة، بل لخوف الفتنة إلخ ولا يجوز النظر إليه بشهوة إلخ. وفي ردّ المحتار: والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها، لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة، وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية. قال في التآثر خانية: وفي شرح الكرخي: النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة إلخ (۱) (شامی: ۲۷۲/۱)

وفي الحظر والإباحة من الدرّ المختار: وينظر من الأجنبية إلخ إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة إلخ فإن خاف الشهوة أو شكّ امتنع نظره إلى وجهها، فحلّ النظر مقيد (۱) ترجمہ: اور جوان عورت کو چہرہ کھولنے سے منع کیا جاوے مردوں کے درمیان، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا چہرہ عورت (ستر) ہے بلکہ بہ خوفِ فتنہ منع کا حکم ہے..... اور جائز نہیں بہ شہوت نظر کرنا عورت کے چہرے کی طرف إلخ

اور رد المحتار میں ہے: اور شہوت کے ساتھ مقید کرنا؛ شہوت کے بغیر جواز کا فائدہ دیتا ہے، لیکن کتاب الحظر میں آ رہا ہے کہ دیکھنے کو ضرورت کے ساتھ مقید کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ضرورت کے بغیر دیکھنا مکروہ ہے۔ تاثر خانیہ میں ہے: شرح الکرخي میں مذکور ہے کہ آزاد اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت دیکھنا مکروہ ہے۔ (الدرّ المختار و ردّ المحتار: ۷۲/۲-۷۳، کتاب الصّلاة - باب شروط الصّلاة - مطلب في النظر إلى وجه الأمر)

بعدم الشهوة و إلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فممنوع من الشَّابَّة . قهستانی وغیرہ إلخ (۱) ان عبارات سے سوال کی شقوں کا جواب حاصل ہے۔ اور آیت: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ الْآيَةَ﴾ (سورہ نور: آیت: ۳۰) میں غَضِّ بصر بہ وقت عدم شہوت محمول بر استحباب ہے (۲)

(۱) ترجمہ: اور مرد باہمی عورت کے صرف چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو ضرورت کے وقت دیکھ سکتا ہے..... پھر اگر شہوت کا خوف یا شک ہو تو مرد کا عورت کے چہرے کی طرف نظر کرنا ممنوع ہے۔ الحاصل دیکھنے کی حلت عدم شہوت کے ساتھ مقید ہے، ورنہ حرام ہے، اور یہ یعنی عدم شہوت کی صورت میں دیکھنے کی حلت ان کے زمانے میں تھی، اور ہمارے زمانے میں جو ان عورت کی طرف نظر کرنا ممنوع ہے۔ قہستانی وغیرہ (الدر المختار مع الشامی: ۹/۲۵۰-۲۵۱، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس)

(۲) مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ہدایت القرآن میں ارقام فرماتے ہیں: جیٹھ، دیور، بہنوئی، چچا، ماموں اور پھوپھی خالہ کے لڑکے بھی غیر محرم ہیں، کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے، مگر ہمارے معاشرہ میں ان سے کامل پردہ مشکل ہے۔ اوّل تو ہندوستانی مسلمانوں کی معیشت کمزور ہے، ہر ایک کا گھر علاحدہ نہیں ہو سکتا۔

دوم ہندو معاشرہ کا مسلمانوں کے معاشرہ پر اثر پڑا ہے، اور اختلاط عام ہو گیا ہے، اس لیے ان کے معاملہ میں بھی دو شرطوں کے ساتھ تخفیف مناسب معلوم ہوتی ہے:

اوّل: بغیر اجازت لیے یہ لوگ اچانک گھر میں نہ آئیں، جب بھی آئیں پہلے آگاہ کریں، تاکہ عورت خود کو سنبھال لے اور مذکورہ اعضاء (یعنی چہرہ، ہتھیلی اور پیر) کے علاوہ باقی جسم کو ڈھانک لے۔

دوم: یہ لوگ تنہائی میں جمع نہ ہوں، اور بے تکلفی سے باتیں نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو! ایک انصاری نے پوچھا: جیٹھ، دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جیٹھ، دیور ”موت“ ہیں! یعنی بڑا فتنہ ہیں، کیونکہ جیٹھ، دیور کی بھانج سے بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے فتنہ پیش آنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہی حکم سالیوں کا ہے، ان کے ساتھ بھی بہنوئی کی بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے فتنہ پیش آتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیٹھ، دیور اگرچہ غیر محرم ہیں، مگر چوں کہ ان کے ساتھ ہر وقت رہنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ تنہائی اور بے تکلفی تو جائز نہیں، مگر باقی پردے میں تخفیف ہے۔ واللہ اعلم (ہدایت القرآن، سورہ نور، آیت: ۳۱، زپر طبع — احقر نے یہ مضمون مسودہ سے نقل کیا ہے) محمد امین پالن پوری

## مدت گزر جانے کے بعد بھی پھوپھا اور ان

کے بیٹے وغیرہ سے پردہ کرنے کا حکم ہے

سوال: (۳۸۰) ہندہ کے انتقال کے وقت اس کی لڑکی خولہ کی عمر تقریباً ایک سال تھی، خولہ کو اس کے مختلف رشتہ داروں مثلاً خالو، ماموں، پھوپھی نے پرورش کیا، خولہ چونکہ معتد بہ رقم کی مالک تھی؛ چنانچہ اس کی پرورش، شادی وغیرہ میں خرچ خولہ ہی کا ہوا، شادی کے دو سال قبل سے خولہ پھوپھی کے گھر رہتی تھی، چنانچہ پھوپھی نے اپنے بیٹے، داماد اور خود پھوپھا سے خولہ کا پردہ نہیں کرایا، خولہ کے شوہر زید نے اب آواز پردہ کرنے کی اٹھائی تو اس کے متعلقین یہ کہہ کر دبا رہے ہیں کہ دو برس سے کیوں چپ تھے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۳۳۹ھ)

الجواب: بطلان اس امر کا ظاہر ہے کہ جو غلطی کسی شخص سے ہو جاوے، یا خلاف شریعت کوئی کام ہو جاوے تو ہمیشہ کو اس پر قائم رہے، بلکہ جس وقت وہ امر خلاف شریعت کو چھوڑ دے، اور اتباع حق کرے بہتر ہے اور عین صواب ہے۔ والحق أحق أن يتبع۔

## پردہ کا حکم شرعی کسی رواج سے ساقط نہیں ہو سکتا

سوال: (۳۸۱) کسی سنی مسلمان نے اپنے مکان کی کھڑکیوں سے دوسرے سنی مسلمان کے مکان کو بے پردہ کر دیا، اور اس بے پردگی سے ہر دو فریق راضی ہو گئے، اس قسم کا عام طور سے رواج ہے تو ایسے رواج کو شرع روک سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۴ھ)

الجواب: پردہ کا حکم شرعی کسی رواج کی وجہ سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ فقط

## عورتوں کو بے پردہ رکھنے کا کوئی عذر معتبر نہیں

سوال: (۳۸۲) مالیکاؤں کے مسلمان اکثر عورتوں کو بے پردہ رکھتے ہیں اور عذرات لغویان کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۱۵۵ھ)

الجواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۳۳) اور ٹھہرو تم اے عورتو! اپنے گھروں میں اور باہر زینت کے ساتھ نہ نکلو اور زینت کو ظاہر نہ کرو، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اول تو گھروں میں رہنا چاہیے اور اگر بہ ضرورت باہر نکلیں تو شرعی پردہ کے ساتھ برقع یا کپڑا اوڑھ کر نکلیں۔ فقط

### والدین کا بیٹے کی بیوی کو پردہ نہ کرنے پر مجبور کرنا

سوال: (۳۸۳) زید اپنی زوجہ کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے، اور والدین اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو باہر پھر اڑے اور کام خانگی کراوے، اس صورت میں زید کے لیے کیا حکم ہے؟  
(۱۳۳۳ھ/۹۲۱-۳۲)

الجواب: واجبات اور ضروریات شرعیہ کو والدین کے کہنے کی وجہ سے چھوڑنا درست نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (۱)

### بلا پردہ غیر محارم کے سامنے آنا خاوند کی اجازت سے بھی درست نہیں

سوال: (۳۸۴) کن کن مردوں سے عورت کو پردہ جائز نہیں اور کن سے جائز ہے؟ اور جن سے پردہ جائز ہے ان کے سامنے آنے کو خاوند اجازت دے سکتا ہے یا نہ؟ (۱۳۳۱/۲۶۱۳ھ)  
الجواب: سوائے محارم کے سب سے پردہ کا حکم ہے، اور جن لوگوں سے پردہ کا حکم ہے، یعنی محارم کے سوا دوسرے مردوں سے تو ان کے سامنے آنا بلا پردہ شوہر کی اجازت سے بھی درست نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (۱) فقط

### غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کب منع ہے؟

سوال: (۳۸۵) مسئلہ شرعی اس بارے میں کیا ہے کہ عورت کو جو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا منع ہے تو اتنا سفر مراد ہے کہ قصر صلاۃ کا حکم عائد ہوتا ہو، یا دس بارہ میل کا سفر بھی تحت النہی داخل

(۱) مشکاة المصابیح، ص: ۳۲۱ کتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثانی .

ہے؟ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے اور نہ کرنے میں عزیمت اور رخصت کا اگر کچھ فرق ہو تو تحریر فرما دیں۔ (۱۵۱/۴۴-۱۳۴۵ھ)

الجواب: غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کے متعلق مختلف احادیث میں بہ الفاظ مختلفہ نہی وارد ہے کسی میں مطلقاً (۱) کسی میں بہ قید یوم و لیلة (۲) کسی میں بہ قید یومین (۳) وغیرہ وغیرہ (۴) ادھر معتبر کتب فقہ میں تصریح ہے کہ مدت سفر سے کم کے لیے غیر محرم کے ساتھ بھی خروج جائز ہے۔ فی الہدایۃ: یباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغیر محرم (۵) وفي الخانية: والحرۃ لا تسافر ثلاثة أيام بغیر محرم انتہی (۶) (خانیۃ، ج: ۳) حضرات علماء نے ان روایات فقہیہ و حدیثیہ کی تطبیق کے سلسلہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ احادیث میں ممانعت کا منشا تو صرف اس سلسلہ کا (۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم الحديث (صحيح البخاري: ۲۵۰/۱، كتاب المناسك - أبواب العمرة - باب حج النساء)

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا مع ذي محرم عليها (الصحيح لمسلم: ۴۳۳/۱، كتاب الحج - سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره)

(۳) عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني و آتقني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم الحديث (البخاري: ۲۵۱/۱، كتاب المناسك - أبواب العمرة - باب حج النساء)

(۴) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، ذو محرم منها (الصحيح لمسلم: ۴۳۳/۱، كتاب الحج - سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره)

(۵) الہدایۃ: ۴۳۳/۱، کتاب الحج .

(۶) الفتاوی الخانیۃ مع الفتاوی الہندیۃ: ۳/۴۰۷، کتاب الحظر والإباحۃ - باب فیما یکرہ من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا یکرہ .

سدّ باب ہے کوئی تحدید مقصود نہیں (۱) اور روایات فقہیہ میں انتہائے حکم شرعی کا اعلان، لہذا اب یوں ہی کہا جاوے گا کہ خروج مع غیر المحرم کراہت سے تو کسی حال میں بھی خالی نہیں، البتہ شدت ممانعت مدت سفر یعنی مسافت موجب قصر صلاۃ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ قال الطیبی فی شرح المشکاة: وليس المراد بقوله مسيرة يوم وليلة التحديد الخ. وقال المحقق ابن الهمام: وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقلّ كل عدد على منع خروجها عن البلاد مطلقاً، إلا بمحرم الخ. نقله صاحب المرقاة فی شرح المشکاة (۲)

(۱) حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں اور طرح تطبیق دی ہے کہ نبی کا منشا خوفِ فتنہ ہے ایک رات ہو یا زیادہ، بلکہ فتنہ سخت ہو تو مسجد اور بازار جانا بھی محرم کے بغیر درست نہیں ورنہ صنعاء یمن سے ایک عورت تنہا مکہ کا سفر کر سکتی ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ ہوائی جہاز کے سفر میں کوئی فتنہ نہیں ہے، پس کوئی عورت بلا محرم ہوائی جہاز کا سفر کرنا چاہے تو ایر ہوٹل کی نگرانی میں سفر کرنے کی گنجائش ہے، ہوائی جہاز تک محرم پہنچائے اور منزل پر ایر ہوٹل محرم یا شوہر کو سونپے، ایسا ایر لائنز کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ فیض الباری میں ہے:

ولما لم يكن عند المصنّف رحمه الله تعالى في القصر والإتمام حديث أخرجه له حديث الحجّ والسّفر للحاجات العامّة كقوله: لا تسافر المرأة ثلاثاً، فإنّه لم يقع في مسألة الإتمام والقصر، بل ورد في سفر الحاجات، واختلف فيه الروايات وفي بعضها مسيرة يوم وليلة وهو عندي مختلف باختلاف الأحوال. والأحاديث في هذا الباب صدرت عن حضرة الرّسالة تارة كذا وتارة كذا وليست محمولة على اختلاف الرواة وفي كتب الحنفية عامّة عدم جواز السّفر إلا مع محرم.

قلت: ويجوز عندي مع غير محرم أيضاً بشرط الاعتماد والأمن عن الفتنة وقد وجدت له مادة كثيرة في الأحاديث، أمّا في الفقه فهو مسائل الفتن.

وفي حاشية البدر السّاري: يقول العبد الضّعيف: منها (الأحاديث) أمر النّبي صلی اللہ علیہ وسلم أبا العاص أن يرسل زينب رضي اللہ عنها مع رجل لم يكن لها محرماً، ومجىء عائشة رضي اللہ عنها في قصّة الإفك (فيض الباري على صحيح البخاري: ۲/۳۹۷، أبواب التقصير، باب في كم يقصر الصّلاة)

(۲) مرقاة المفاتيح، شرح مشکاة المصابيح: ۲۶۹/۵، کتاب المناسک، الفصل الأوّل.

## فتنہ کا خوف نہ ہو تو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۳۸۶) زید اپنی لڑکی کو دوسرے ملک میں جہاں اس کا خاوند ہے وہاں اقارب خاوند کے ساتھ مثلاً خاوند کے چچا یا اس کے پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ بھیجتا ہے، چونکہ خاوند اس کو بلا رہا ہے اور فتنہ سے بھی مامون ہے، اور جو فقہاء منع لکھتے ہیں وہ فتنہ کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح حدیث میں بھی جو نبی وارد ہوئی ہے وہ فتنہ کی وجہ سے ہے، اور صورت مسئلہ میں فتنہ نہیں تو چاہیے کہ یہ جائز ہو۔ (۱۳۳۷/۲۵۳۹ھ)

الجواب: کتب حدیث وفقہ سے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت مطلقاً معلوم ہوتی ہے اس میں گنجائش تاویل کی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو فقہاء یہ قید لگا دیتے کہ فتنہ کا خوف نہ ہو تو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا درست ہے، حالانکہ فقہاء مطلقاً منع فرماتے ہیں، اور کسی حال اجازت نہیں دیتے (۱) کذا فی الدر المختار وغیرہ (۲) فقط

## عورت کا نامحرم کے ساتھ سفر کرنا

سوال: (۳۸۷) زید اپنی لڑکی کو افریقہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے چچا کے ساتھ جو نامحرم ہے سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۴۰۵ھ)

(۱) البتہ حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کا خوف نہ ہو تو عورت بلا محرم سفر کر سکتی ہے، فیض الباری میں ہے: قلت: ویجوز عندی مع غیر محرم أيضاً بشرط الاعتماد والأمن عن الفتنة وقد وجدت له مادة كثيرة في الأحادیث. (فیض الباری: ۲/۳۹۷)

(۲) وجاز سفر الأمة وأم الولد والمکاتبة والمبعضة بلا محرم، هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد وبه يفتي، ابن کمال (الدر المختار) وفي الشامي: وفيه إشارة إلى أن الحرّة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم (الدر المختار و رد المحتار: ۹/۴۷۵، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

الجواب: عورت کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا ناجائز ہے۔ قال فی الشامی: قوله: (فی سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها إلخ وروی عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان إلخ و يؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وقال أيضًا: لكن أشار به: إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزواج أو محرم خاص بالحرمة إلخ (۱) فقط

سوال: (۳۸۸) کیا عورت اپنے دیور و خلیرے (خالہ زاد) بھائی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ اور پردہ کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۲۵۵۸ھ)

الجواب: یہ لوگ غیر محرم ہیں اور غیر محرم کے ساتھ عورت کو سفر کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

مستورات کا پردے میں رہ کر نامحرم مرد سے پڑھنا

سوال: (۳۸۹) عورتوں کو پردہ میں بیٹھ کر غیر مرد سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۵۸۷ھ)

الجواب: اگر خوف فتنہ کا نہ ہو تو درست ہے۔

خواتین کا پردے میں رہ کر اپنے استاذ سے بات کرنا

سوال: (۳۹۰)..... (الف) اگر لڑکی بالغہ کسی بزرگ سن رسیدہ عالم سے درسیات عربی و فارسی اپنے مکان میں پردہ سے پڑھتی ہو اور بعد فارغ ہونے کے ان کو اندر مکان کے بلا کر پردہ سے بات کرے تو جائز ہے یا نہیں؟

(ب) اگر نابالغہ لڑکی کسی نوجوان عالم سے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھے؛ تو بعد بالغ ہونے کے ان سے پردہ سے بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۰ھ)



الجواب: (الف) اگر خوفِ فتنہ نہ ہو اور پردہ سے بات کرے تو درست ہے۔  
 (ب) اس میں بھی وہی امر ملحوظ رہے کہ خوفِ فتنہ نہ ہو اور پردہ سے کوئی ضروری بات ہو تو درست ہے، لیکن احتیاط کرنا اچھا ہے۔

بالغہ لڑکی کا تنہائی میں غیر محرم عالم سے قرآن پڑھنا  
 سوال: (۳۹۱) اگر بالغہ لڑکی نو جوان عالم سے گھر میں قرآن پڑھے جب کہ گھر میں سوائے لڑکیوں کے اور کوئی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۰ھ)  
 الجواب: اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فقط

مستورات کو مردوں کے بیانات سننا درست ہے  
 سوال: (۳۹۲)..... (الف) کیا مردوں کے لکچر (بیان) شرعاً عورتوں کو سننے جائز ہیں یا نہیں؟  
 (ب) کیا مذہبی لکچروں اور سیاسی لکچروں میں فرق ہے؟ (۱۳۳۱/۸۱۳ھ)  
 الجواب: (الف-ب) مردوں کے مواعظ اور تقاریر عورت کو سننا درست ہے، اور شریعت میں ثابت ہے اور وہ امور سیاسیہ جو موافق شریعت ہیں وہ بھی مذہبی ہی ہیں، ان کا سننا بھی درست ہے: کما فی حدیث الشیخین: ثم أتى النساء فوعظهنّ وذکرهنّ وأمرهنّ بالصدقة (۱)

### مستورات کا مجالس وعظ میں شرکت کرنا

سوال: (۳۹۳) اس زمانہ پر آشوب میں عورتوں کا نماز جمعہ وغیرہ اور مجالس وعظ وغیرہ میں جانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۲۳۳ھ)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء الحديث (صحيح البخاري: ۱/۱۳۳، كتاب العيدين - باب خروج الصبيان إلى المصلى، والصحيح لمسلم: ۱/۲۸۹، كتاب العيدين، فصل في الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وتذكير الرجال والنساء وأمرهنّ بالتصدق)

الجواب: درمختار میں ہے: و یکره حضورهِنَّ الجماعة ولو لجمعة وعید و وعظ مطلقاً ولو عجزاً لیلأ علی المذهب المفتی به لفساد الزمان واستثنی الکمال بحثاً العجائز المتفانیة (۱) یعنی مکروہ ہے حاضر ہونا عورتوں کا جماعت میں اگرچہ جمعہ کے لیے ہو، اور عید اور وعظ کے لیے ہو مطلقاً، اور اگرچہ بوڑھی عورت ہو، اور رات کا وقت ہو مذہب مفتی بہ کے موافق بہ وجہ فساد زمانہ کے، اور محقق ابن ہمام نے نہایت بوڑھی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ فرمایا ہے، پس یہی حکم ہے عورتوں کے بارے میں جو کہ درمختار میں مذکور ہے۔

(اسی قسم کا ایک مسئلہ جس کے بارے میں لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں یہاں درج کیا جاتا ہے:)

### مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوریؒ (مفتی اعظم گجرات) کا فتویٰ:

سوال: (۱۶۷) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر تبلیغی جماعت میں جاسکتا ہوں؟ عورتوں کو جماعت میں لے جانا چاہیے یا نہیں؟ فقط

الجواب: حامداً و مصلياً و مسلماً: عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۱۹) کا مصداق ہے، عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (۱۰/۳۹۸)

(فتاویٰ رحیمیہ کامل: ۱۳۶/۲-۱۳۷، باب الدعوة والتبلیغ)

حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحبؒ (صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) کا فتویٰ

اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحبؒ (مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور) نیز حضرت

مولانا عبداللطیف صاحبؒ (ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور) کی تائید و تصدیق

(۵۷۷/د)

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا مع محرم کے درست ہے؟

المستفتی:

حافظ عبدالرحیم مسجد کوٹھے والی صدر بازار دہلی

۱۳۷۱/۲/۱۷ھ

(۱۰۹/د)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب: آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھیں، اور نہ آپ ﷺ نے اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، خیر القرون کے زمانہ میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلہ کی ضرورت ہوتی تھی تو آنحضرت ﷺ یا ازواج مطہرات یا صحابہ کی بیویوں سے آکر دریافت کر لیتی تھیں، تبلیغ مردوں کے ذمے اُس زمانے میں مقرر تھی، اور عورتیں پردہ کے ذریعہ سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھیں، مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائیں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے۔

جب اُس خیر کے زمانے میں یہ صورت حال رہی ہے تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟! یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی؟ اس بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مردان کو تبلیغ کریں اور دین کے احکام ان کو سکھائیں، اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھیں یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کریں ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے جو آج دنیا

پر نظر ڈالنے سے مشاہد بھی ہے۔ فقط واللہ اعلم

سید مہدی حسن غفرلہ  
(صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)

۱۳۷۱/۲/۲۵ھ

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ (مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور)

الجواب صحیح: عبداللطیف (ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور)

نوٹ: ان دونوں حضرات کی تصدیق مظاہر علوم سہارنپور کے دارالافتاء کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔

(مفتی) حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ

۱۴۳۲/۳/۲۳ھ

### حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ کا فتویٰ

سوال: عورتوں کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے اپنے محارم کے ساتھ تین دن، دس دن، سال کے لیے اپنے ضلع یا اپنے صوبہ یا اپنے ملک یا دوسرے ممالک میں نکلنا کیسا ہے؟ جب کہ موجودہ دور کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، اگر ان کا نکلنا جائز ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جائز نہیں تو پھر جو لوگ اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گنہ گار ہوں گے یا نہیں؟ مسئلہ کی مکمل وضاحت مطلوب ہے۔ بینواتو جردا

الجواب باسم ملہم الصواب: عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے (۱) اس لیے حضرات فقہائے

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي (مشكاة المصابيح، ص: ۲۶۹، کتاب النکاح،

باب النظر إلى المخطوبة)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عورت ستر (یعنی چھپانے کی چیز) ہے، پس جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔

(جامع الترمذی: ۲۲۲/۱، أبواب الرضاع، باب)

کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لیے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

قال العلامة الخوارزمي ناقلا عن فخر الإسلام رحمهما الله تعالى : والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد، فمتى كره حضور المسجد للصلاة لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلم أولى. (الكفاية مع فتح القدير: ۳۱۸/۱، كتاب الصلاة، باب الإمامة)

وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى : ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد و وعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الزمان واستثنى الكمال بحثاً العجائز المتفانيّة (۱)

وقال الإمام الطحطاوي رحمه الله تعالى: (قوله ولو لجمعة وعيد و وعظ) قال في مجموع النوازل يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى زيارة الأبوين و عيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما و زيارة المحارم فإن كانت قابلة أو غاسلة أو كان لها على آخر حق أو عليها حق تخرج بالإذن و بغير الإذن والحج على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب و عيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولو أذن لها و خرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام و إن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضى الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج، و إن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضى الزوج، و إن لم يقع لها نازلة و أرادت أن تخرج لمجلس العلم لتعليم المسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها معها له أن يمنعه، و إن كان لا يحفظها الأولى أن يأذن لها أحياناً، و إن لم يأذن لها فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج ما لم تقع نازلة اهـ قوله: (ولو عجوزاً) اسم لمؤنث غير لازم التاء كما في الرضى، وفي القاموس: لا يقال: عجوزة

(۱) الدر مع الرد: ۲/۲۶۳، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا ؟

أو لغة رديئة من إحدى وخمسين إلى آخر العمر قهستاني، وقوله ”ليلا“ بيان للإطلاق أيضاً. قوله (على المذهب المفتى به): قد يقال: هذه الفتاوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشَّابَّةَ تمنع مطلقاً اتفاقاً و أما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام في الصلوات إلا في الظهر والعصر والجمعة فالإفتاء بمنع العجائز في الكل يخالف الكل وما في الدر المنقبي يوافق ما هنا حيث قال: وفي الكافي وغيره: أما في زماننا فالمفتى به منع الكل في الكل حتى في الوعظ ونحوه (۱) حاشية الطحطاوي على الدر: ۱/۲۳۵)

وقال شمس العلماء العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى: قال المصنّف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلّها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلّوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ (۲) (البحر الرائق: ۱/۳۵۸) وقال العلامة عالم بن العلاء رحمه الله تعالى: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة لأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلّوا بحلية العلماء أولى (۳)

(الفتاوى التتارخانية: ۱/۶۲۸)

وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى: (قال: ويكره لهنّ حضور الجماعات) أي يكره للنساء يعني الشَّوَابَّ منهنّ وهي جمع شَابَّةَ وهذه اللفظة بإطلاقها تناول الجمع والأعياد والكسوف والاستسقاء وعن الشافعي رحمه الله تعالى يباح لهنّ الخروج (لما

(۱) الطحطاوي على الدر: ۱/۳۸۳-۳۸۴، كتاب الصلاة، باب الإمامة.

(۲) البحر الرائق: ۱/۶۲۸، كتاب الصلاة، باب الإمامة.

(۳) الفتاوى التتارخانية: ۲/۲۸۱، كتاب الصلاة، بيان ما يمنع صحّة الاقتداء وما لا يمنع، الفصل الثامن في الحث على الجماعة، هل يجوز للنساء حضور المساجد إلخ. المطبوعة: زكريا بك ڈیوبند۔

فیه) أي في حضورهنّ الجماعة (من خوف الفتنة) عليهنّ من الفسّاق، وخروجهنّ سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام، وذكر في كتاب الصلوات مكان الكراهة الإساءة والكراهة فحش.

قلت: المراد من الكراهة التّحريم، ولا سيّما في هذا الزّمان لفساد أهله.

(ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء) لحصول الأمن، وفي المغرب اختلاف الروايات، وفي المنظومة: ألحق المغرب بالعشاء كما ذكره المصنّف والمبسوط لشمس الأئمة، وفي المختلف: ألحق العصر والمغرب بالظّهر كما في مبسوط شيخ الإسلام ويحتمل أن ذلك بناء على أن المغرب تنشر فيه الفسقة أيضًا كالعصر في بعض البلاد، قيل: هذا كلّ في زمانهم، أما في زماننا فيكره خروج النّساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهنّ للصلاة فلاّن يكره حضورهنّ مجالس العلم خصوصًا عند هؤلاء الجهّال الذين تحلّوا بحلية أهل العلم أولى (۱) (البنایة: ۲/۴۲۰)

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وإذا منعت حضور الجماعة فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى، وأدخله العيني في الجماعات وما قلناه أولى (۲) (منحة الخالق بهامش البحر: ۱/۳۵۹)

وقال العلامة منلا مسكين رحمه الله تعالى: ومتى كره حضور المسجد للصلوات لأن يكره حضورهنّ مجالس الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهّال الذين تحلّوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الاسلام.

وقال العلامة أبو السعود رحمه الله تعالى: (قوله ومتى كره حضور المسجد إلخ) أي كراهة تحریمیة دلّ علی ذلك قوله فی النّهر ولا یحضرن أي لا یحلّ لهنّ أن یحضرن (۱) (البنایة شرح الهدایة المشهور بالعینی: ۱/۳۹-۷۴۰، المطبوعة: المطبع العالی نول كشور لكناؤ).

(۲) منحة الخالق علی البحر الرائق: ۱/۲۲۸، كتاب الصلاة، باب الإمامة.

لکن ذکر بعده عن کتاب الصلاة أنه ذکر الإساءة التي هي أدون من الكراهة .

(فتح المعين على منلا مسكين: ۱/۲۱۵، کتاب الصلاة، باب الإمامة)

وقال العلامة أبوبكر بن علي الحداد رحمه الله تعالى : والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهنّ الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط فجعلها كالظهور وفي المبسوط جعلها كالعیدین حتّى أنه يباح لهنّ الخروج إليها بالاجماع (۱) (الجوهرة: ۱/۲۷)

وقال العلامة السّهارنفوری رحمه الله تعالى معزياً لشرح النّقاية : والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد، ومتى كره حضورهنّ في المسجد للصلاة فلأن يكره حضورهنّ في مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلّوا بحلية العلماء أولى هكذا قال المشايخ رحمهم الله ، ولو شاهدوا ما شهدنا من حضورهنّ بين مجالس وعاظ زماننا متبرجات بزینتهن لأنکروا کل الإنکار رحم الله معاشر الأبرار (بذل المجهود: ۱/۳۱۹، کتاب الصلاة، باب التّشديد في ذلك أي في خروج النساء إلى المساجد)

### نصوص مذکورہ کا حاصل

عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مسجد کی جماعت، جمعہ، طلب علم اور وعظ سننے کے لیے عورتوں کے نکلنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جب ایسی اہم عبادات و ضرورات دین کی خاطر تھوڑے سے وقت کے لیے قریب تر مقامات تک نکلنے پر بھی اس قدر پابندی ہے تو تبلیغ کے لیے کئی کئی دنوں بلکہ مہینوں اور چلوں کے لیے دور دراز مقامات میں جانا بہ طریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے۔

(احسن الفتاویٰ: ۸/۵۵-۵۸، کتاب الحظر والإباحة، پردہ و دیگر متعلقہ مسائل، عنوان: خواتین کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں)

(۱) الجوهرة النيرة: ۱/۶۰، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، المطبوعة: المطبع المجتبائی، دہلی .



## اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں اور پڑھانے

### والی عورتوں کو بہ وجہ ضرورت دیکھنا

سوال: (۳۹۴) اسکول میں بہ وجہ ضرورت لڑکیوں پر جو مراہقہ ہیں نظر پڑتی ہے، اور ایک عیسائی کی عورت اسکول میں پڑھاتی ہے اس پر بھی نظر پڑتی ہے؛ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۵۴/۲۲-۱۳۳۵ھ)

الجواب: غرض بصر بہر حال احوط ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (سورہ نور: آیت: ۳۰) اگر اتفاقی نظر پڑ جاوے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے پھر فوراً نظر پھیر لے، اور شہود کے دیکھنے پر اس کا قیاس نہیں ہو سکتا، اور انکار منکر کے لیے جانا اور دیکھنا بھی امر معروف میں داخل ہے، اس پر بھی قیاس صورت موجودہ کا نہیں ہو سکتا۔

### کیا خوب صورت عورتوں کو دیکھنا عبادت ہے؟

سوال: (۳۹۵) جب کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خوب صورت چیز کی طرف دیکھنا عبادت ہے (۱) اس اعتبار سے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے یہ خیال صحیح ہے یا کیا؟

(۱۳۳۳/۳۳-۱۳۳۲ھ)

الجواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (سورہ نور، آیت: ۳۰) اور فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَمْدَدْ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (سورہ طہ، آیت: ۱۳۱) اور حدیث شریف میں اجنبیہ عورت کو بالقصد دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے (۲) پس یہ خیال جو سوال میں مذکور ہے غلط ہے ایسا عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ فقط

(۱) اس مضمون کی کوئی حدیث نہیں ہے۔

(۲) عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (جامع الترمذی: ۱۰۶/۲، أبواب الآداب - باب ما جاء في نظرة الفجاءة)

### توبہ کے بعد نامحرم عورتوں کو دیکھنا

سوال: (۳۹۶) ایک شخص نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتا تھا، اس پر ایک مقدمہ قائم ہو گیا، اس نے توبہ کی اور وعدہ اللہ سے کیا کہ میں آئندہ کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھوں گا، مقدمہ فتح ہو گیا، اور اب بھی اس نے نامحرم عورتوں کے دیکھنے کی عادت نہیں چھوڑی ہے، تو یہ شخص اس نظر کرنے کی وجہ سے پہلے گنہگار تھا یا نہیں؟ اور اب بھی گنہگار ہے یا نہیں؟ (۳۳/۱۶۵-۱۳۳۴ھ)

الجواب: چہرہ محل فتنہ ہے بالقصد دیکھنا چہرہ اجنبیہ کا نہیں چاہیے، جیسا گناہ پہلے تھا ویسا ہی پیچھے بھی ہے، توبہ واستغفار کرتا رہے اور اس عادت مذمومہ کو چھوڑ دے۔ فقط

### نامحرم عورت کو اس غرض سے دیکھنا کہ یہ کون

### عورت ہے؟ اور پڑوسی کے مکان میں دیکھنا

سوال: (۳۹۷)..... (الف) نامحرم عورتوں کو اس غرض سے دیکھنا کہ یہ کون عورت ہے جائز ہے یا نہ؟ اور ضعیفہ کو بے وجہ دیکھنا کیسا ہے؟

(ب) اگر ہم سایہ کے مکان میں جب کہ پردہ دری نہ ہو دیکھنا اس کو ناگوار ہو تو کیا حکم ہے؟

(۳۳/۱۶۸-۱۳۳۴ھ)

الجواب: (الف) نامحرم کو اس غرض سے بھی دیکھنا درست نہیں اور ضعیفہ کا حکم بھی یہی ہے۔

(ب) اگر صاحب مکان کو ناگوار ہے تو دیکھنا نہ چاہیے۔

### لڑکیوں کو اسکول میں تعلیم دینا

سوال: (۳۹۸) گورنمنٹ می خواہد کہ در ملک بنگال برائے تعلیم دختران مسلمانان جا بجا اسکولہا قائم نماید، و در آں درس گاہ تعلیم بنگالہ وغیرہ دادہ آید، و برائے نگرانی انسپکٹر در سہ ماہ آمدہ امتحان کند، بایں ہمہ وجوہ دختران را برائے تعلیم در اسکول دادن جائز است یا نہ؟ (۳۳/۱۶۵-۱۳۳۴ھ)

الجواب: تعلیم نسواں مطلقاً ممنوع نیست، بلکہ تعلیم مسائل دینیہ جماعت نساء را ضروری است،

لیکن در اسکولہ داخل کردن دختران خود را بغرض تعلیم خوب نیست کہ دریں صورت خوف فتنہ است۔ فقط ترجمہ: سوال: (۳۹۸) گورنمنٹ ملک بنگال میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے واسطے جاہ اسکول قائم کرنا چاہتی ہے، اور اس درس گاہ میں بنگلہ زبان وغیرہ کی تعلیم ہوگی، اور انسپکٹر کی نگرانی میں یہ ماہی امتحانات ہوں گے، ان وجوہ کے پیش نظر بچیوں کو اسکول میں تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: تعلیم نسواں کی مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ دینی مسائل کی تعلیم دینا گروہ خواتین کو ضروری ہے، لیکن اسکولوں میں اپنی لڑکیوں کو تعلیم کی غرض سے داخل کرنا ٹھیک نہیں کہ اس میں فتنہ کا خوف ہے۔ فقط

### لڑکیوں کی تعلیم مدارس میں مناسب نہیں

سوال: (۳۹۹) مسلمانان قصبہ میر پور ریاست جموں؛ مروجہ تعلیم نسواں کے خلاف مختلف روایات اور اپنے قیاسی اجتہاد سے عمل پیرا ہیں، حضور مہاراجہ صاحب بہادر ریاست جموں و کشمیر نے اپنی غریب اور جاہل مسلم رعایا کی بہبودی کو مد نظر فرما کر اسلامیہ زنانہ مدرسہ کا گزشتہ سال اجراء فرمایا، اور باوجود مخالفت کے بھی مسلمانوں نے اپنی لڑکیوں کو داخل مدرسہ کر دیا، لیکن اب مروجہ نصاب تعلیم کے ماتحت لازم ہے کہ لڑکوں کے مدارس کی طرح لڑکیوں کے مکاتب میں بھی علاوہ مذہبی تعلیم کے زبان اردو کی نوشت و خواند سکھائی جائے، لیکن مسلمانان قصبہ ہذا بغیر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کے اردو لکھائی اور پڑھائی کی مخالفت کر کے قواعد و ضوابط محکمہ تعلیم ریاست ہذا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خاکسارہ اس امر کے متعلق گزارش کرتی ہے کہ لڑکیوں کو کتابت سکھانے اور مروجہ تعلیم دلوانے کے خلاف یا حق میں اگر کوئی صریح نص قرآنی یا حدیث موجود ہو تو جواب باصواب سے احقرہ کو مستفید فرمایا جائے۔ بینواتو جروا (۱۳۴۳/۴۶۴ھ)

الجواب: لڑکیوں کو کتابت سکھانا اور ضروری مسائل دینیہ کی تعلیم دینا ممنوع نہیں ہے، بلکہ مہارت حاصل کرنا نوشت و خواند و حساب وغیرہ میں بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے، البتہ بحث اس میں ہے کہ طریق تعلیم ایسا ہو جس سے ان کے اخلاق و عادات و چال چلن وغیرہ پر آئندہ کو برا اثر نہ پڑے اور بے پردگی کی عادت ہو کر ہمیشہ کو وہ بے پردہ پھرنے کو جائز نہ سمجھیں، اسی طرح دوسری

ہوا آزادی کی ان میں سرایت نہ کرے، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم مدارس میں مناسب نہیں ہے، بلکہ گھروں میں ہی رہتے ہوئے ان کے محارم باپ بھائی یا والدہ وغیرہ ان کو ضروری تعلیم دیں اور کتابت سکھادیں، اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے، بلکہ دینی ضروری مسائل کی تعلیم و تعلم ایک حد تک فرض اور ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اضافہ از مرتب:

### عورتوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کا بہترین طریقہ

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے: عورتوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر بستی میں مقامی طور پر ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے کہ عورتیں اور لڑکیاں پردہ کے پورے اہتمام کے ساتھ آمدورفت کریں، اور ایسی قابل اعتماد رفاقت اختیار کریں کہ وہ بدنامی سے بالکل محفوظ رہیں، اور ان کی عصمت و پاک دامن، عزت و آبرو پر کوئی داغ دھبہ نہ آنے پائے، اور شام تک اپنے گھر واپس پہنچ جائیں، ان کے بڑے اور اولیاء بھی ان کی تعلیم اور آمدورفت کی پوری نگرانی کریں، عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا یہ طریقہ ان شاء اللہ فتنوں سے محفوظ ہوگا (فتاویٰ رحیمیہ کامل: ۱۰۴/۲، تعلیم و تعلم کا بیان، مطبوعہ: مکتبۃ الإحسان، دیوبند)

### لڑکیوں کا اجلاس عام میں قراءت، اشعار وغیرہ پڑھنا

سوال: (۴۰۰) زنانہ مدرسہ جس میں ایسی لڑکیاں جو سن شعور کو پہنچی ہوں، مرہقہ ہوں، اور کمسن ہوں، ایک امتحانی جلسہ عام میں جس میں شہر کے عمائد و نو جوان جمع ہوں اور درمیان ان کے صرف ایک پردہ حائل ہو، ایسے موقع پر ناظم مدرسہ لڑکیوں کے نام مع ولدیت بہ آواز بلند پکارے اور لڑکیاں پردہ کے پیچھے کھڑی ہو کر بلند آواز سے قراءت اور اشعار نعتیہ سنائیں، اور لڑکیوں کی خوش الحانی پر مجمع عام سے واہ واہ، شاباش، مرحبا، جزاک اللہ کی آوازیں پیہم چلی آئیں، ایسی کارروائی جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۶ھ)

الجواب: ایسی کارروائی سے جس میں خوف فتنہ ہو احتراز کرنا مناسب ہے، اور اگر چہ فی الحال یہ امر ممنوع نہ ہو، لیکن آئندہ کی کسی خرابی کے پیش آنے کے خوف کی وجہ سے ایسے امور سے اہل اسلام کو احتراز لازم ہے۔ فقط

پردہ کے سلسلہ میں باپ وغیرہ کی لاپرواہی باعث گناہ ہے

سوال: (۴۰۱) اگر باپ اپنی لڑکیوں کے پردہ کرانے میں بے پروائی کرے تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۷۸۳)

الجواب: بے شک یہ حق باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو حکم شریعت سے آگاہ کرے، اور بالغ لڑکیوں کو پردہ کا حکم کرے اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا گنہ گار ہوگا۔

سوال: (۴۰۲) جن کی عورتیں بن سنور کر گھونگرودار زیور پہن کر گلیوں میں پھریں، اور عالم سید ہو کر منع نہ کرے تو ایسے عالم کے واسطے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۱۷۸۳)

الجواب: ان عورتوں کو گھونگرودار زیور پہن کر باہر نکلنے سے منع کر دینا چاہیے، پھر اگر وہ نہ مانیں تو مواخذہ ان کے ذمے ہے۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے پردہ کرنے کی وجہ؟

سوال: (۴۰۳) جب ازواج مطہرات مثل ماں کے ہیں تو پردہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جیسے ماں سے پردہ نہیں ویسے ہی ان سے بھی نہ ہونا چاہیے۔ (۱۳۳۲/۱۲۲۲)

الجواب: حق تعالیٰ نے جیسا کہ ازواج مطہرات کو مؤمنین کی ماں فرمایا: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۶) میں، اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۵۳) پس معلوم ہوا کہ ماں فرمانا ان کو بہ اعتبار تعظیم و حرمت نکاح کے ہے، اور پردہ میں وہ مثل اجنبیات کے ہیں۔ کذا فی معالم التنزیل (۱)

(۱) قوله عز وجل: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۶) ..... وَهِنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَعْظِيمٍ حَقَّهُنَّ، وَتَحْرِيمٍ نِكَاحَهُنَّ عَلَى التَّأْيِيدِ، لَا فِي النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ، وَالْخُلُوعِ بِهِنَّ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۵۳)

(معالم التنزیل للبقوي رحمة الله عليه: ص: ۷۰۴، سورۃ الاحزاب)

## محارم عورتوں کا ستر

سوال: (۴۰۴) عورت کو اپنے محرم سے کس قدر بدن چھپانا واجب ہے؟

(۱۳۳۳-۳۳/۶۷۲ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: ومن محرمه ..... إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته و شهوتها أيضًا إلخ (۱) اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مرد کو اپنے محرم کے سر اور چہرہ اور سینہ اور ساق اور بازو کو دیکھنا درست ہے، بشرطیکہ شہوت کا خوف نہ ہو۔

## حجاب اور ستر عورت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟

سوال: (۴۰۵) حجاب اور ستر عورت ایک چیز ہے یا دو؟ اور حجاب فرض ہے یا واجب؟ بعضے

فرض کہتے ہیں اور بعض واجب۔ (۱۳۳۳-۳۲/۲۱۵ھ)

الجواب: حجاب فرض ہے، اگر کہیں وجوب کا لفظ ہے تو اس سے مراد بھی فرضیت ہے اور ستر عورت اور حجاب علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ فقط

اضافہ از مرتب:

## ستر عورت کے احکام اور حجابِ نساء میں فرق

مرد و عورت کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کہتے ہیں جس کا سب سے چھپانا شرعی، طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر عمل ضروری ہے، وہ ستر عورت یعنی اعضائے مستورہ کا چھپانا ہے، یہ فریضہ تو ابتداءً آفرینش سے فرض ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، بلکہ شرائع کے وجود سے بھی پہلے جب جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کے سبب حضرت آدم و حواء علیہما السلام کا جنتی لباس اتر گیا اور ستر کھل گیا تو وہاں بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا، اسی لیے آدم و حواء دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر باندھ لیے ﴿وَلَقَفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ (سورہ اعراف، آیت: ۲۲) کا یہی مطلب ہے، دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء ﷺ

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۹/۴۲۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی النظر والمس.

تک ہر پیغمبر دین کی شریعت میں ستر چھپانا فرض رہا ہے، اعضاء مستورہ کی تعیین اور تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ مگر اصل فرضیت ستر عورت کی تمام شرائع انبیاء میں مسلمہ ہے، اور یہ فرض ہر انسان مرد و عورت پر فی نفسہ عائد ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اسی لیے اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے، حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا اُس کے پاس موجود ہو تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے، حالانکہ اس کو ننگا کسی نے دیکھا نہیں۔ (البحر الرائق) اسی طرح نماز اگر کسی ایسی جگہ پڑھی جہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں اس وقت بھی اگر نماز میں ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے (کما فی عامۃ کتب الفقہ) خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی صحیح قول یہی ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھول کر ننگا بیٹھنا جائز نہیں۔ (کما فی البحر عن شرح المنیۃ)

یہ حکم تو ستر عورت کا تھا، جو اول اسلام سے بلکہ اول آفرینش سے تمام شرائع انبیاء میں فرض رہا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، خلوت و جلوت میں بھی برابر ہیں، جیسے لوگوں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں، ایسے ہی خلوت و تنہائی میں بھی بلا ضرورت ننگا رہنا جائز نہیں۔

دوسرا مسئلہ: حجاب اور پردہ کا ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں، اس مسئلہ میں بھی اتنی بات تو انبیاء و صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے محابا اختلاط نہ ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی دولڑکیوں کا قصہ جو قرآن کریم میں پارہ ۲۰ میں آیا ہے اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ انداز میں وہاں گذر ہوا تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا تو لڑکیوں نے دو باتیں بتلائیں۔

اول یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔

دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا، مگر والد کے ضعف و مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا۔

یہ حال قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتلایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بہ دوش چلنا اور بے محابا اختلاط پسند نہیں تھا، اور ایسے کام جن

میں مردوں کے ساتھ اختلاط ہووے عورتوں کے سپرد ہی نہیں کئے جاتے تھے، بہر حال اس مجموعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردہ میں رہنے کا حکم اس وقت نہیں تھا، اسی طرح ابتداء اسلام میں بھی یہی صورت جاری رہی، ۳۵ یا ۵۵ میں عورتوں پر اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض کر دیا گیا، جس کی تفصیلات آگے آتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ستر عورت، اور حجاب نساء یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نساء ۵۵ ہجری میں فرض ہوا، ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، اور حجاب صرف عورتوں پر، ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے، حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں، یہ تفصیل اس لیے لکھی گئی کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط ملط کر دینے سے بہت سے شبہات مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ (معارف القرآن: ۸/۲۱۱-۲۱۳، سورۃ احزاب، آیت: ۵۵)

نیز حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بیان فرماتے ہیں:

### مرد اور عورت کا ستر ایک ہے

ستر: مرد اور عورت کا ایک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے، یعنی چھپانے کا بدن ہے، اس کو بے ضرورت کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں، ایک عورت دوسری عورت کے سامنے جسم کا یہ حصہ بے ضرورت نہیں کھول سکتی، مجبوری کی بات الگ ہے، جیسے بچہ کی ولادت ہے یا کوئی آپریشن کرانا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن بے ضرورت نہیں کھول سکتی۔ مرد و عورت دونوں کا یہی ستر ہے۔

### عورت کے لیے حجاب ہے اور وہ تین مرحلوں میں ہے

پھر مرد کے لیے کوئی حجاب نہیں، لیکن عورت کے لیے ستر کے علاوہ حجاب بھی ہے اور وہ حجاب تین مرحلوں میں ہے:

پہلا حجاب: اللہ سے بندی کا حجاب ہے، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ یہ تین اعضاء نماز کے حجاب میں داخل نہیں، لیکن اگر کوئی عورت ہاتھ میں دستانے اور پیر میں موزے پہن کر نماز پڑھے تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں، کیونکہ یہ نماز کے حجاب میں داخل نہیں، البتہ ٹخنے چھپانے ضروری ہیں اگر وہ کھلے رہیں گے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی کان چھپانے بھی ضروری ہیں اگر ان کو کھلے رکھ کر نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ صرف تین اعضاء ہی کھلے رہ سکتے ہیں باقی بدن چھپا کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بندی کا اللہ سے حجاب ہے۔



دوسرا حجاب: محارم کا حجاب ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے سامنے پیٹ اور اس کے مقابل کی پیٹھ نہیں کھول سکتی، اس کے علاوہ باقی بدن کھول سکتی ہے، سینہ، سینے کے مقابل کی پیٹھ، سینہ سے اوپر کا حصہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پنڈلیاں یہ سب اعضاء محارم کے سامنے عورت کھول سکتی ہے لیکن کھول سکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھول کر رہے۔

پنڈلی، سر اور گردن وغیرہ میں تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا لیکن سینہ اور اس کے مقابل کی پیٹھ حجاب میں نہ ہونے پر آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، عورت گھر میں چھاتی کھول کر بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور اسی گھر میں باپ، خسر اور بھائی ہیں، پس اگر سینہ کو حجاب میں لیا جائے گا تو عورت بچہ کو دودھ کیسے پلائے گی؟ اس ضرورت سے سینہ کو محارم کے حجاب سے باہر رکھا گیا ہے، اور جب سینہ کا حصہ باہر رکھا گیا تو اس کے مقابل کی پیٹھ کو بھی باہر رکھا گیا۔ اور پیٹ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے پیٹ کو اور اس کے مقابل کی پیٹھ کو حجاب میں لیا۔ غرض یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے اگر اس پر پابندی لگائی جائے گی تو کام نہیں چلے گا۔

تیسرا حجاب: اجنبیوں کا حجاب ہے، اور وہ پورے بدن کا حجاب ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ سب کا حجاب ہے بلکہ آواز کا بھی حجاب ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز اجنبیوں کو نہ سنائے، ٹیلی فون پر بھی نہ سنائے، کوئی دروازے پر دستک دے تو بھی نہ سنائے، ہاں مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں، تو عورت فون اٹھا کر جواب دے سکتی ہے، مگر سریلی آواز میں جواب نہ دے کر آواز میں جواب دے یہ حکم قرآن میں ہے: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ کراری آواز میں جواب دے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں۔ عورت کا یہ پوچھنا کہ تم کون ہو؟ تمہارا نسب نامہ کیا ہے؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ یہ سب غلط ہے، عورتوں کو اس سے کیا لینا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں، اور اگر گھر میں کوئی مرد ہے یا سمجھ دار بچہ ہے تو وہ فون اٹھا کر جواب دے، عورتیں فون نہ اٹھائیں۔ مگر آج کل ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ کسی کے گھر فون کرو پہلے عورت فون اٹھاتی ہے، وہ دنیا بھر کی تفصیل پوچھتی ہے، پھر شوہر کو دیتی ہے، وہ بھی وہیں بیٹھا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ کے خلاف ہے، عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

حجاب کے اس تیسرے مرحلے کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾: اے پیغمبر! آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے پر اپنی چادریں کھینچ لیں، یعنی جب کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں تو اوڑھنا چہرے پر کھینچ لیں، یہ چہرے کا حجاب ہے اور جب چادریں اپنے چہرے پر کھینچ

لیں گی تو ہاتھ تو چھپے ہوئے ہوں گے ہی، اگر چھپے ہوئے نہ ہوں تو کوئی خاص حکم ان کے بارے میں نہیں دیا، اسی طرح پیروں کے بارے میں بھی کوئی خاص حکم نہیں دیا، صرف چہرے کے بارے میں حکم دیا کہ عورتیں چہرے پر چادر کھینچ کر گھر سے نکلیں، کیونکہ چہرہ مجمع المحاسن ہے سارے جسم کی بیوٹی (خوب صورتی) چہرے میں اکٹھا ہوتی ہے، اور وہ پانچ حواس خمسہ جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے جو انسان کا کمال ہیں، وہ سب چہرے میں جمع ہیں، اس لیے سارے جسم کی خوب صورتی چہرے میں آ جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر اسی کے حجاب کا حکم دیا اور ہاتھوں اور پیروں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ (علمی خطبات: ۱۱۱/۲-۱۱۴) نیز یہ مضمون تحفة الالمعی شرح سنن الترمذی میں بھی ہے: ۲۰۴/۲-۲۰۵، عنوان ہے: بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔

### کیا ستر چھپانا ہر وقت فرض ہے؟

سوال: (۴۰۶) مرد کو ستر عورت صرف نماز کے واسطے فرض ہے یا ہر وقت کے لیے؟  
(۱۳۳۳ھ-۳۲/۵۰۶)

الجواب: ہر وقت مجزؤ وقت پیشاب، پاخانہ یا صحبت کے۔

### نظر بر قدم رکھنا

سوال: (۴۰۷) میں ہر روز صبح و شام برائے سیر و تفریح جنگل جاتا ہوں، اور ہر طرف درختوں پر نظر ڈالتا ہوں تاکہ دماغ اور نظرقوی ہو جائے اور خوب علم دین حاصل کروں تو کیا ایسے وقت بھی نظر بر قدم رکھنا مستحب ہے یا کیا؟ (۱۳۳۵ھ/۱۲۱۹)

الجواب: سیر و تفریح کے لیے جس وقت جنگل کو جانا ہو تو درختوں اور سبزی کو دیکھنا جائز ہے، اور جب کہ نیت نیک ہو تو ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور نظر بر قدم اس لیے بہتر ہے کہ اجنبیہ عورت وغیرہ پر نظر نہ پڑے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے کی چیز کو بھی نہ دیکھے کہ کیا آرہا ہے۔ فقط

### پہلوانوں کی کشتی دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۴۰۸) کشتی پہلوانوں کی دیکھنی جن کے گوڈا (گھٹنا) سے اوپر انہیں کھلی ہوئی ہیں،

جائز ہے یا نہیں؟ (۲۹/۹۷۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: ران عورت (ستر) ہے، ایسی کشتی میں شریک ہونا جس میں نظر عورت (ستر) کی طرف ہو، جائز نہیں۔ فقط

### لنگوٹ باندھ کر ڈنڈ کرنا اور کشتی لڑنا

سوال: (۴۰۹) ایک مرد کو دوسرے مرد کے سامنے لنگوٹا باندھ کر ڈنڈ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرنے والے کی نسبت شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۱۴۹)ھ

الجواب: جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ران کسی کے سامنے نہ کھولے، کیونکہ ران بھی عورت (ستر) میں داخل ہے (۱) پس جو شخص ایسا کرے وہ عاصی ہے اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے۔ فقط

سوال: (۴۱۰) عمر ایک پہلوان ہے، جس کا ذریعہ معاش فن کشتی لڑنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ پہلوان کشتی لڑتے وقت صرف جانگیا (لنگوٹ) باندھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۲۰۹۰/۱۳۴۳)ھ

الجواب: کشتی کرنا فی حد ذاتہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس وقت کشف عورت حرام ہے، اور ہار جیت میں کچھ لینا دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ فقط

### بالکل برہنہ ہو کر سونا اور جماع کرنا

سوال: (۴۱۱)..... (الف) اپنے گھر کے صحن میں کہ وہاں اور کوئی نہ ہو، بالکل برہنہ ہو کر سونا جائز ہے یا نہ؟

(ب) نیز زوجین اپنے گھر کے صحن میں تنہا بالکل برہنہ ہو کر جماع کر سکتے ہیں یا نہ؟

(۲۲۳/۴۴-۱۳۴۵ھ)

الجواب: (الف) مکروہ ہے۔ والرابع: ستر عورتہ و وجوبہ عام و لو فی الخلوة علی

(۱) عن ابن عباس وجرهد و محمد بن جحش رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الفخذ عورة الحدیث (صحیح البخاری: ۵۳/۱، کتاب الصلوة، باب ما یذکر فی الفخذ)

الصَّحِيحُ إِلَّا لِفَرْضٍ صَحِيحٍ الْخ (۱) (درمختار)

(ب) یہ بھی مکروہ ہے۔ فقط

سوال: (۴۱۲) زوجہ و شوہر ننگے ہو کر مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۵۰/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: خلوت میں کر سکتے ہیں مگر خلاف ادب اور خلاف مستحب ہے۔

ننگا صحن میں نہانا مکروہ ہے

سوال: (۴۱۳) بلا حجاب عورت کو صحن میں نہانا کیسا ہے؟ (۸۸۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: عورت ہو یا مرد ننگا صحن میں نہانا مکروہ ہے۔ فقط

اجنبی کے گھر اور صحن کو دیکھنا

سوال: (۴۱۴) اجنبی کے گھر اور صحن کو بھی دیکھنا منع ہے یا نہیں؟ (۶۱۵/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: مکان اور صحن کو دیکھنا منع نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھے اور پردہ دری کسی

کی نہ کرے۔ فقط

ولادت کے وقت زچہ کا ستر دیکھنا

سوال: (۴۱۵) پیدائش کے وقت عورتوں کو عورت کے ستر پر نظر کرنا کیسا ہے؟ (۱۱۹۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: ایسی حالت میں درست ہے۔ کما لا یخفی (۲)

ملازمت کے لیے برہنہ ہو کر ڈاکٹری معائنہ کرانا

سوال: (۴۱۶) خلاصہ سوال یہ ہے کہ جو شخص اسکول میں ملازمت کرنا چاہے اس کو برہنہ ہو کر

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۶۹/۲-۷۰، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب فی ستر العورة.

(۲) ينظر الطَّيِّبُ إِلَى مَوْضِعِ مَرْضَاهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، إِذَا الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَكَذَا

نَظَرُ قَابِلَةٍ وَخَتَانِ الْخ (الدر المختار مع الشامی: ۴۵۱/۹-۴۵۲، کتاب الحظرو الإباحة - فصل

فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ)

معائنہ ڈاکٹری کرانا ہوتا ہے؛ یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۰۹/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: روایات فقہیہ اس بارے میں یہ ہیں: والرَّابِع: ستر عورتہ ووجوبہ عام الخ (درمختار) أي في الصَّلَاة وخارجها (۱) (شامی) علیہ غُسل وثُمَّ رجال لا يَدْعُهُ وَإِنْ رَأَوْهُ (درمختار) قوله: (لا يَدْعُهُ وَإِنْ رَأَوْهُ) قال في شرح المنية: وهو غير مسلّم، لأن ترك المنهي مقدّم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمّم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند مَنْ لا يجوز نظره إليها بخلاف الختان الخ (۲) (شامی) وكذا نقل المنع عن الحلية (۳)

الحاصل نصوص وآیات (۴) واحادیث (۵) وروایات فقہیہ سے یہ ثابت ہے کہ اپنے اختیار سے برہنہ ہو کر معائنہ ڈاکٹری کرانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور جب کہ ضرورت و فرائض شرعیہ میں مثل غسل جنابت کے برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے غسل کرنا صحیح مذہب کے موافق جائز نہیں ہے؛ تو ملازمت مذکورہ کی وجہ سے برہنہ ہو کر معائنہ کرانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟! اور کوئی وجہ جواز کی اپنے اختیار سے معلوم نہیں ہوتی اضطراب اور عدم اختیار کا قصہ جدا ہے۔ فقط

### بلا ضرورت اجنبی عورتوں سے باتیں کرنا

سوال: (۴۱۷) کیا اجنبی عورتوں سے بلا ضرورت شرعی دیر تک باتیں کرتے رہنا جائز ہے؟

(۱۳۴۰/۵۷۰ھ)

(۱) الدر المختار والشامی: ۶۹/۲، کتاب الصَّلَاة، باب شروط الصَّلَاة، مطلب في ستر العورة.

(۲) رد المحتار: ۲۵۹/۱، کتاب الطَّهَارَة، مطلب في أبحاث الغسل.

(۳) وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن الجامع الصغير للإمام التمرناشي عن الإمام البقالي: لو كان عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورتہ يصلي معها، لأن إظهارها منهى عنه والغسل مأمور به، وإذا اجتماعا كان النهي أولى (الشامی: حوالہ بالا)

(۴) ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الْآيَةُ﴾ (سورة نور، آیت: ۳۰)

(۵) عن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة الحديث (الصحيح لمسلم:

۱۵۴/۱ كتاب الحيض باب تحريم النظر إلى العورات)

الجواب: خلوت میں اجنبی عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے رہنا درست نہیں ہے۔

بھابھی کو خط لکھنا اور بھابھی اور سالی سے ہم کلام ہونا

سوال: (۴۱۸) بھائی حقیقی کی زوجہ یعنی بھابھی کو اس مضمون کا خط لکھنا کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، اپنی خیریت سے مطلع کرو، اور بھائی کی اجازت ضروری ہے یا بلا اجازت بھی لکھ سکتا ہے؟ اور بھابھی اور سالی سے ہم کلام ہونا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۲۲/۱۰۱)

الجواب: اس مضمون کا خط لکھنے میں اور خیریت طلب کرنے میں کچھ ممانعت نہیں ہے، اور اس میں بھائی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بہ ضرورت بھابھی اور سالی سے ہم کلام ہونا درست ہے۔ فقط

سوال: (۴۱۹) اپنی سالی سے بات کرنا یا اس کو کچھ دینا بہ شرطیکہ بدعتی نہ ہو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۲۹۴)

الجواب: جائز ہے۔

اجنبی عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں

سوال: (۴۲۰) اصلاح الرسوم میں ہے کہ مرد کو عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں، یہ مقید ہے یا مطلق؟ (۱۳۳۴ھ/۳۲/۳۵۷)

الجواب: یہ مسئلہ مقید ہے یعنی مرد کو اجنبیہ عورت سے بدن دبوانا درست نہیں، بہ خلاف زوجہ کے کہ مطلقاً درست ہے اور محرمات سے بہ شرط امن شہوت درست ہے۔ قال فی الدر المختار: وما حلّ نظره مما مرّ من ذكر أو أنثى حلّ لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها (۱)

بہو سے گفتگو کرنا اور خدمت لینا

سوال: (۴۲۱) زید اگر اپنی بہو کے ساتھ گفتگو کرے یا اس سے خدمت جائز اور ناجائز لے تو

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی النظر والمسّ.

اس پر کیا جرم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۲۱۲ھ)

الجواب: بہ وقت ضرورت زید کو اپنی بہو کے ساتھ کلامِ مباح جائز ہے۔ ویجوز الکلام المباح مع امرأة أجنبية (۱) (شامی عن القنیة: ۵/۲۵۷) اور خوفِ فتنہ نہ ہو اور زید کا فاسق ہونا ثابت نہ ہو تو خدماتِ جائزہ اس سے لے سکتا ہے۔ كما في الشامي عن القنية في عكس هذه الصورة: ماتت عن زوج وأم، فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة الخ (۱) اس مسئلہ کے آخر میں صاحب شامی فرماتے ہیں: والعلّة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها۔ (یعنی یہی حکم ہے بیوی کی بیٹی وغیرہ محارم عورتوں کا) (۱) (۵/۲۵۷)

بیٹی، بہن، والدہ وغیرہ سے سر میں تیل لگوانا یا دیگر خدمات لینا

سوال: (۳۲۲) اپنی دختر یا بہن یا والدہ وغیرہ سے سر میں تیل ڈلوانا یا موچنے (۲) سے بال چنوانا یا پانی اور کھانا مانگنا، یا باتیں کرنا، یہ خدمات لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۶۹۱ھ)

الجواب: ان خدمات کے لینے میں شرعاً کچھ حرج نہیں ہے جب کہ وہ بہ خوشی و رضا یہ کام کریں۔ کما هو معروف (۳) فقط

عورت کا اپنے مکان میں ننگے سر رہنا


سوال: (۳۲۳) جو عورت اپنے مکان میں ننگے سر رہتی ہو، اور خاوند بھی اس سے ناراض ہو، جب کہ مکان کے اندر اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی بالغ بھی آتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۶/۳۲۲ھ)

(۱) الشامي: ۹/۳۲۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمسّ .

(۲) موچنا: بال چننے کا اوزار، بال اکھاڑنے کا آلہ۔ (فیروز اللغات)

(۳) ماتت عن زوج وأم، فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة الخ (کوئی عورت: شوہر اور ماں چھوڑ کر مر گئی ہو تو وہ دونوں یعنی داماد اور ساس ایک گھر میں رہ سکتے ہیں جب دونوں کو فتنہ کا خوف نہ ہو) اس مسئلہ کے آخر میں صاحب شامی فرماتے ہیں: والعلّة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها (یعنی یہی حکم ہے بیوی کی بیٹی وغیرہ محارم عورتوں کا)

الجواب: گھر میں جب کہ کوئی اجنبی مرد سوائے شوہر کے نہ ہو تو گرمی کے وقت برہنہ سر رہنا بھی جائز ہے، لیکن ہر وقت اس طرح رہنا خصوصاً جب کہ شوہر اس سے منع کرے اور جب کہ شوہر کے بھائی بھی آتے جاتے ہوں اس طرح رہنا نہ چاہیے، اور دوپٹا اوڑھے رکھنا چاہیے اور اس قسم کے امور میں خاوند کی اطاعت لازم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم





## بالوں اور ختنہ کے احکام

### بال رکھنے کی مقدار

سوال: (۴۲۴) مرد کو سر کے بال کس مقدار رکھنے جائز ہیں؟ (۳۶/۳۱۶۵-۱۳۴۷ھ)

الجواب: عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه (۱) (شمائل ترمذي، باب ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بال نصف کانوں تک تھے، پس یہ مقدار مسنون ہوئی، اگرچہ اس سے کمی زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ فقط

سوال: (۴۲۵) بال رکھنا کیسا ہے؟ (۳۲/۱۲۹۵-۱۳۳۳ھ)

الجواب: بالوں کے رکھنے میں مختلف اوقات میں مختلف کیفیات کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے، کبھی آپ کے موئے مبارک مونڈھوں تک ہو گئے ہیں اور کبھی کانوں تک اور کبھی بین بین (۲) پس ان امور میں زیادہ تشدد نا مناسب ہے۔

(۱) شمائل ترمذي، ص: ۳۔

(۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة و دون الوفرة.

وعن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه (شمائل الترمذي، ص: ۳، ==

## سر کے بال کتر وانا اور منڈانا

سوال: (۴۲۶) بالوں کو قصر کرانا چاہیے یا منڈانا؟ (۳۳/۵۹۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: بالوں کو کتر وانا بھی درست ہے اور حلق کروانا بھی درست ہے جیسی مصلحت ہو اور ضرورت ہو کرے۔ فقط

## بالوں کی بدہیئتی سے بچنے کا حکم

سوال: (۴۲۷) جب زید کے سر کے بال بہ قدر تین چار جو بڑھ جاتے ہیں تو وہ بہ قدر دو جو سر کے دونوں طرف بال چھوڑ کر خوبصورتی کے لیے باقی بال بنواتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۹/۱۲۲۱ھ)

الجواب: اگر تمام سر کے بال برابر برابر کتر وادے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے، لیکن بڑے چھوٹے کرانا اور ایک جگہ سے کتر وانا اور دوسری جگہ سے بڑھانا یہ اچھا نہیں ہے — اور انگریزی بال اس کا نام ہونا یہ دوسری وجہ ممانعت اور کراہت کی ہے کہ اس میں تَشْبُہ بالنِّصَارِی ہے، اور اسی طرح لباس میں نصاری کا تَشْبُہ ممنوع ہے اگرچہ بعض لباس میں ہو۔ فقط

## سر کے کچھ بال منڈانا

سوال: (۴۲۸) ایسی کوئی حدیث ہے جس کا مندرجہ ذیل مضمون ہو یعنی سارے سر کے بال منڈو، یا تمام سر کے بال رکھو۔ (۳۳/۳۴۹-۱۳۳۴ھ)

الجواب: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً

== باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعن قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. وعن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه (صحيح البخاري: ۸۷۶/۲، كتاب اللباس - باب الجعد)

قد خُلِقَ بعضُ رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كلّه أو اتركوا كلّه (۱)

رواہ مسلم (مشکاۃ شریف، ص: ۳۷۲، باب التّرجل، مطبع أحمدی) فقط

سوال: (۴۲۹) سرکودک دریں دیار ہنگی می تراشد، و سر دختر چیزے می تراشد و چیزے می

گزارند، ایں جائز است یا نہ؟ فرق درکودک و دختر است یا نہ؟ (۳۵/۴۱۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: مذکور مؤنث دریں امر یکساں اند، تراشیدن بعض موئے سر و تراشتن بعض چنانچہ

در طفل مذکر ممنوع است و در دختر ہم ممنوع است۔ فقط

ترجمہ: سوال: (۴۲۹) ہمارے دیار میں لڑکے کے سر کو مکمل منڈواتے ہیں، اور لڑکی کے سر

کو کچھ منڈواتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہ؟ لڑکے اور لڑکی (کے بالوں میں) فرق

ہے یا نہ؟

الجواب: لڑکا اور لڑکی اس حکم میں برابر ہیں، سر کے کچھ بال کو کاٹنا اور کچھ رکھنا جس طرح

لڑکے میں ممنوع ہے، لڑکی میں بھی ممنوع ہے۔ فقط

سر کے بال آگے اور پیچھے سے منڈانا

سوال: (۴۳۰) سر کے بال اگر رکھے جائیں تو کہاں تک؟ اور آگے پیچھے سے حجامت کرانے

میں کیا حکم ہے؟ (۱۵۲۳/۱۳۳۹ھ)

الجواب: سر کے بال اگر رکھے جائیں تو تمام سر پر بال رکھے جائیں، اور کانوں تک یا اس

سے کچھ نیچے رکھنا جائز ہے اور آگے پیچھے سے منڈوانے نہ چاہیے۔ فقط

اچھی نیت سے انگریزی بال رکھنا اور ڈاڑھی منڈانا

سوال: (۴۳۱) انگریزی بال رکھنا، ڈاڑھی منڈانا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کیسا ہے؟ اگر عیب

(۱) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بچے کو دیکھا جس

کے سر کا کچھ حصہ مونڈا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، پس آپ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ

پورے سر کو مونڈ دیا پورے سر کو چھوڑ دو۔ (مشکاۃ، ص: ۳۸۰، الفصل الأول)

ہے تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

(۱۳۳۳ھ/۳۲/۷۴۷)

الجواب: یہ امور حرام اور معصیت ہیں، حرام فعل میں نیت نیک نہیں ہو سکتی، حدیث: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (بخاری: ۲/۱) کا یہ مطلب ہے کہ عبادت میں بدون نیک نیتی کے ثواب نہیں ہے۔ فقط سوال: (۴۳۲) ڈاڑھی منڈوانا ضرورت کے وقت جائز ہے کہ نہیں؟ (۱۳۳۷ھ/۲۷۱۹)

الجواب: کسی حال جائز نہیں ہے۔ فقط

### پشت اور سینہ کے بال مونڈنا

سوال: (۴۳۳) سینہ کے بال منڈوانے یا کتروانے کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۶۷۶)

الجواب: سینہ کے بال منڈوانے یا کتروانے مباح ہیں، لیکن بلا ضرورت ایسا فعل اچھا نہیں ہے (۱) فقط

سوال: (۴۳۴) پشت، سینہ وغیرہ کے بال مونڈنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۳۲/۲۰۹۱)

الجواب: درست ہے۔ فقط

### ماتھا، رخسار اور گردن پر استرا پھیرنا

سوال: (۴۳۵) ماتھا یا رخسار یا گردن پر استرا پھیرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۴۳/۱۴۳۰)

الجواب: اچھا نہیں ہے اگرچہ جائز ہے۔ فقط

### پنڈلی کے بال اتارنا

سوال: (۴۳۶) پنڈلی کے بال اتارنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۴ھ/۳۳/۲۷۱)

الجواب: اگر ضرورت ہو تو پنڈلی کے بال اتارنا منع نہیں ہے۔ فقط

(۱) وفي حلق شعر الصدر والظفر ترك الأدب (رد المحتار: ۹/۴۹۸، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

## انگریزی بال رکھنا

سوال: (۴۳۷) انگریزی بال سر پر رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۴۹۴ھ)

الجواب: انگریزی طرز کے بال سر پر رکھنا ظاہر ہے کہ خلاف شرع امر کا ارتکاب ہے، اور حدیث شریف سے ممانعت اس طرح بال رکھنے کی ثابت ہے (۱) پس مسلمانوں کو اس تَشْبِہِ مَمْنُوع سے احترازِ کلی لازم ہے۔ فقط

## ہندو کی طرح چوٹی رکھنا کیسا ہے؟

سوال: (۴۳۸) یہاں کے مسلمانوں کو مثل ہندو کے بچ سر کے چوٹی رکھتے ہوئے دیکھ کر دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟

(۱۳۳۸/۱۷۵۶ھ)

الجواب: یہ کسی کا مذہب نہیں ہے جاہلوں کی حرکت ہے جو کہ اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں ہیں۔ فقط

سوال: (۴۳۹) چوٹی کے بال یعنی سر کے اگلے حصہ میں رکھنا کس قسم کا گناہ ہے؟ اور کس وجہ سے منع ہے؟ (۱۳۳۵-۴۴/۵۶۰ھ)

الجواب: حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے (۲) اور غالباً یہ تَشْبِہِ بِالْکُفَّارِ کی وجہ سے منع فرمایا ہے، بہر حال اگر وجہ ممانعت نہ معلوم ہو تو آنحضرت ﷺ کا ارشاد کافی ہے۔ فقط

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كلُّه أو اتركوا كلُّه، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰، كتاب اللباس - باب التَّرجل، الفصل الأوَّل)

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القزع، قيل لنافع: ما القزع؟ قال يُحلق بعض رأس الصَّبِيِّ ويترك البعض، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰، كتاب اللباس - باب التَّرجل، الفصل الأوَّل)

## عورتوں کی طرح چوٹی باندھنا کیسا ہے؟

سوال: (۴۴۰) عورتوں کی طرح مردوں کو چوٹی رکھنا کیسا ہے؟ اور اس کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۵/۲۱۳ھ)

الجواب: مردوں کو عورتوں کی طرح چوٹی رکھنے کی حرمت اس حدیث سے ثابت ہے: عن ابن عباس رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري (۱) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود (۲) اسی طرح دیگر احادیث میں وارد ہے۔ ایک روایت میں ہے: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقليل يتشبه بالنساء، فأمر به، فنفى إلى النقيع، الحديث (۳) الغرض ان احادیث اور دیگر اس قسم کی روایات سے مرد کو عورتوں کی سی چوٹی باندھنے کی ممانعت ظاہر ہے۔ فقط

## خط بنوانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۴۴۱) سر کے بالوں کا کٹنا مشین وغیرہ سے اور پیشانی پر سے بالوں کو مونڈا کر کے اس کو مربع کرنا اور ریش کے بال جو کہ رخساروں پر ہوتے ہیں ان کو مونڈنا یعنی خط کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۷/۱۵۶۴ھ)

الجواب: تمام سر کے بالوں کا کٹنا مشین وغیرہ سے درست ہے، اور حلق بعض کا اور چھوڑنا

(۱) صحيح البخاري: ۸۷۴/۲، كتاب اللباس - باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال .

(۲) سنن أبي داود: ص: ۵۶۶، كتاب اللباس - باب في لباس النساء .

(۳) سنن أبي داود: ص: ۶۷۴، كتاب الأدب - باب الحكم في المخنثين .

بعض کا اچھا نہیں ہے، اگر حلق کرائے تو کل سر کے بالوں کا حلق کرائے اور اگر رکھے تو کل سر کے بال رکھے، اور رخساروں کے بال حلق کرنا درست ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ کما قالوا: وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب (۱) (شامی) وفيه أيضاً: ولا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف رحمه الله لا بأس به ط. وفي المضمرة: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث إلخ (۲) اور ظاہر ہے کہ لا بأس اکثر خلاف ادب پر بولا جاتا ہے۔ فقط

سوال: (۴۴۲) رخساروں کے بالوں کا جن کو خط کہتے ہیں منڈانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز حلق کے بالوں کا منڈانا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔ (۱۳۴۵-۴۴/۳۹۵ھ)

الجواب: رخساروں کے بالوں کو بنوانا شامی میں جائز لکھا ہے، اور حلق کے بالوں کو بنوانا مختلف فیہ لکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ بنوائے جاویں۔ شامی میں ہے: ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف رحمه الله لا بأس به وفي المضمرة: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث تاتر خانية (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### قلمیں بنوانا اور گردن و گلے کے بال منڈوانا

سوال: (۴۴۳) سر کی حد کہاں سے کہاں تک ہے جس جگہ تک منڈوانا اور کتر وانا چاہیے؟ اور اس میں ڈاڑھی کس جگہ سے شروع ہے کہ جس جگہ سے اس کا منڈوانا اور کتر وانا منع ہے، اور بچے جو قلمیں بنواتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ گردن اور حلق اور لب زیریں کے بال منڈوانا کیسا ہے؟

(۱۳۴۳/۲۱۵ھ)

الجواب: سر اور ڈاڑھی کی حد معلوم و معروف ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ چہرہ کی حد طولا و عرضاً چھوڑ کر جو جگہ سر کے بالوں کے اُگنے کی جگہ ہے وہ سر ہے۔ جیسا کہ درمختار میں وجہ کی حد یہ لکھی ہے: من مبدأ سطح جبهته ..... إلى أسفل ذقنه ..... طولا ..... وما بين

(۱) رد المحتار: ۴۹۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) الشّامی: ۴۹۷/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۳) رد المحتار: ۴۹۷/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

شحمۃ الأذنین عرضاً (۱) پس اس کے اوپر جو حصہ ہے وہ سر کے بالوں کا ہے، اسی طرح ڈاڑھی کے بالوں کی جگہ معروف ہے اور مشاہدہ سے معلوم ہے، پس بچے جو قلمیں بنواتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، اور حلق اور لب زیریں کے نیچے کے بال ڈاڑھی کے منڈوانے بھی ناجائز ہیں۔ قال فی الشّامی: ولا یحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف رحمه الله لا بأس به إلخ (۲) اور ظاہر ہے کہ لفظ لا بأس سے بھی کراہت کی نفی نہیں ہوتی۔ تنبیہ: نَتَفُ الْفَنِيكَيْنِ بدعةٌ وهما جانبَا الْعُنُقَةِ وهي شَعْرُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إلخ (۲) (شامی)

### چھوٹی لڑکی کا سر منڈانا

سوال: (۴۴۴) چھوٹی لڑکی کا سر منڈانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس عمر تک؟  
(۱۳۴۲/۲۰۷۶ھ)

الجواب: اس میں کچھ تحدید شرعی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ بالغہ عورت کا سر بلا عذر نہ منڈایا جائے (۳) اور قریب البلوغ کا بھی یہی حکم ہوگا، اس کے سوا درست ہے۔

سوال: (۴۴۵) لڑکیوں کا سر منڈانا کئی سال تک درست ہے؟ (۱۳۳۷/۱۳۲۱ھ)  
الجواب: بلوغ سے پہلے بہ ضرورت مضائقہ نہیں ہے۔ فقط

### ڈاڑھی کو رنگنا اور سفید رکھنا

سوال: (۴۴۶) ڈاڑھی کو رنگت دینی کیسی ہے؟ اور سفید رکھنی کیسی؟ (۱۳۳۷/۲۸۵ھ)

الجواب: ڈاڑھی کو خضاب مہندی وغیرہ کا درست ہے، اور سیاہ خضاب مکروہ ہے اور سفید رکھنا

(۱) الدر المختار مع الشّامی: ۱/ ۱۸۸-۱۸۹ کتاب الطّہارة - أرکان الوضوء أربعة .

(۲) الشّامی: ۹/ ۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل فی البیع .

(۳) وإذا حَلَقَتِ الْمَرْأَةُ شَعَرَ رَأْسِهَا، فَإِنْ كَانَ لَوَجَعَ أَصَابُهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ حَلَقَتْ تُشَبِّهُ

الرِّجَالُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (تكملة البحر الرائق: ۹/ ۳۷۵، کتاب الکراہیة، فصل فی البیع)

وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة

رأسها (مشكاة المصابيح: ص: ۳۸۴، کتاب اللباس، باب التّرجل)



بھی درست ہے۔ حدیث سے سفید رکھنا بھی ثابت ہے (۱) اور خضاب مہندی وغیرہ کا بھی ثابت ہے (۲)

### مہندی وغیرہ کا خضاب جائز ہے

سوال: (۴۴۷) خضاب کیوں لگاتے ہیں؟ خضاب کرنا کیسا ہے؟ اور کس رنگ کا کرنا چاہیے؟

(۳۲/۷۴۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: خضاب، مہندی وغیرہ کا لگانا جائز اور ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے (۳) سیاہ خضاب کی ممانعت احادیث شریف میں آئی ہے (۴) پس اگر خضاب کرے تو مہندی وغیرہ کا کرے، سیاہ نہ کرے، اور اگر بالکل خضاب نہ کرے بالوں کو سفید رکھے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، مسلمانوں کو دین کے مسائل سیکھنے چاہئیں، ان کی وجہ دریافت کرنے

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفؤا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعها بها درجة، رواه أبو داود (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۲، كتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثّاني)

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال ما أحسن هذا. الحديث (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۲، كتاب اللباس - باب التّرجل)

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا، قال: فمرّ آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا، ثم مرّ آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۲، كتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثّاني)

وعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك؛ إنّما كان شيباً في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم (شمائل الترمذي: ص ۴، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(۴) عن جابر رضي الله عنه قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة و رأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، رواه مسلم (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۰، كتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الأوّل)

کے درپے نہ ہونا چاہیے، بالا جمال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بہ ذریعہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہیں ان میں حکمت ہے؛ اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آوے۔ فقط

### سیاہ خضاب کرنا مکروہ ہے

سوال: (۴۳۸) سیاہ خضاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۷۱۹ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: ویکرہ بالسّواد (۱) اور مکروہ ہے خضاب سیاہ۔ فقط

سوال: (۴۳۹) سیاہ خضاب کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۱۷۳۳ھ)

الجواب: قال في الدرّ المختار: ویکرہ بالسّواد، وقيل: لا، مجمع الفتاوی، وفي الشّامي: وإن لیزین نفسه للنّساء فمکروه، وعليه عامّة المشایخ، و بعضهم جوّزه بلا کراهة إلخ (۲) اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے اکثر مشائخ کے نزدیک، اور بعض عدم کراہت کے بھی قائل ہیں بہر حال اجتناب بہتر ہے۔ فقط

سوال: (۴۵۰) سیاہ خضاب کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۳۴۰ھ)

الجواب: عبارت درمختار اس بارے میں یہ ہے کہ يستحبّ للرجل خضاب شعره و لحيته ولو في غير حرب في الأصحّ، والأصحّ أنّه عليه الصّلاة والسّلام لم يفعله، و يکره بالسّواد، وقيل: لا. مجمع الفتاوی (۳) اور شامی میں ہے: قوله: (ویکرہ بالسّواد) أي لغير الحرب. قال في الذّخيرة: أمّا الخضاب بالسّواد للغزو لیکون أهیب في عين العدو فهو محمود بالاتّفاق وإن لیزین نفسه للنّساء فمکروه، وعليه عامّة المشایخ، و بعضهم جوّزه بلا کراهة، روى عن أبي يوسف رحمه الله أنّه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها (۴) اس عبارت درمختار اور شامی سے معلوم ہوا کہ حنفیہ میں سے اکثر مشائخ خضاب سیاہ کو بلا ضرورت حرب مکروہ تحریمی فرماتے ہیں، اور بعض مشائخ جواز بلا کراہت کے قائل

(۱) الدرّ المختار مع الشّامي: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

(۲) الدرّ المختار و ردّ المحتار: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

(۳) الدرّ المختار: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

(۴) الشّامي: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

ہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، پس احوط ترک خضاب اسود ہے، لیکن چونکہ مسئلہ مختلف فیہا ہے اس لیے اس میں نزاع کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ احادیث میں جو وعید خضاب اسود میں وارد ہے، وہ کراہت تحریمی کو ہی مرئج ہے، اس لیے ترک خضاب اسود کے احوط ہونے میں تردد نہیں ہو سکتا۔ فقط

سوال: (۴۵۱) سیاہ خضاب کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بکر کہتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث ابو ہریرہ وابن عباس رضی اللہ عنہم سے استدلال کرتا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہیں، زید اس کے خلاف ہے، شرعی فیصلہ سے معزز فرمائیں۔ (۱۳۳۳/۹۴۰ھ)

الجواب: مشکاة شریف میں یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یكون قوم في آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي (۱) اس لیے اکثر علماء سیاہ خضاب کو مکروہ تحریمی فرماتے ہیں، اور مرتکب مکروہ تحریمی کا مثل مرتکب حرام کے فاسق ہو جاتا ہے، اس حدیث سے بے شک سیاہ خضاب کا گناہ کبیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اور حنفیہ نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ لڑائی میں دشمن کے مقابلہ میں درست ہے اور ویسے مکروہ تحریمی ہے جو کہ عملاً حرام کے مثل ہے۔ ویکرہ بالسواد وقیل: لا (درمختار) قولہ: (ویکرہ بالسواد) أي لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو لیكون أهیب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن لیزین نفسه للنساء فمکروه، وعليه عامة المشایخ، وبعضهم جوزہ بلاکراہة، روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: كما یعجبني أن تتزين لي یعجبها أن أتزين لها إلخ (۲) (شامی) پس معلوم ہوا کہ اگرچہ بعض ائمہ سے جواز بھی منقول ہے، لیکن اکثر مشائخ اور عامۃ الفقہاء کا مذہب یہی ہے کہ سوائے جنگ کے موقع کے ویسے سیاہ خضاب مکروہ تحریمی ہے۔ فقط

### علاج کی غرض سے سیاہ خضاب کرنا

سوال: (۴۵۲) ایک شخص کو مرض نزلہ کا ہوا کہ اس کے دانت جاتے رہے، ایک شخص نے اس

(۱) مشکاة المصابیح، ص: ۳۸۲، کتاب اللباس - باب الترجل، الفصل الثانی .

(۲) رد المحتار: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

کو بتلایا کہ وسمہ یعنی نیل کا خضاب کرتا رہے تو مرض نزلہ سے فائدہ رہے گا، اور بصارت بھی قوی رہے گی، لہذا ایسے مرض نزلہ کی وجہ سے سیاہ خضاب کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۱۵۲۷)

الجواب: یہ ظاہر ہے کہ مرض نزلہ کے بہت سے علاج اس سے بہتر موجود ہیں، لہذا یہ وجہ جواز خضاب سیاہ کی نہیں ہو سکتی۔ فقط

### جوان بیوی کی دل جوئی کے لیے سیاہ خضاب کرنا

سوال: (۴۵۳) عمر نے اپنی زوجہ کے مرنے کے بعد ایک بیوہ پچیس سالہ سے عقد ثانی کیا، اب وہ عورت اصرار کرتی ہے کہ تم اپنی ڈاڑھی کو سیاہ خضاب لگاؤ، ایسی حالت میں عمر کو سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۴۲)

الجواب: شامی میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ عورتوں کے لیے سیاہ خضاب کرنا مکروہ ہے: وإن لیزین نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة، روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يُعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها (۱) (شامی)

سوال: (۴۵۴) ایک شخص ضعیف العمر کی شادی جوان عورت سے ہو جائے، اور وہ عورت کے لحاظ سے خضاب سیاہ یعنی وسمہ لگائے تو اس وجہ سے خضاب سیاہ درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۱/۱۵۲۶)

الجواب: شامی کی عبارت ذیل سے سیاہ خضاب کرنا بہ غرض مذکور ممنوع معلوم ہوتا ہے۔

وإن لیزین نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ (۲) یعنی اگر اس لیے خضاب سیاہ کرے کہ عورتوں کی نظر میں مزین ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت جواز کی نقل کی ہے (۳) مگر اکثر مشائخ کا مذہب ممانعت کا ہے اور یہی احوط ہے یعنی ترک

(۱) رد المحتار: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) الشّامي: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۳) روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن

أتزين لها (الشّامي: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

خضاب سیاہ احوط ہے کیونکہ حدیث شریف میں اس پر وعید شدید وارد ہے (۱) فقط

### جائز اور ناجائز خضاب کی تفصیل

سوال: (۴۵۵) کس کس چیز کا خضاب لگانا جائز ہے؟ اور کس چیز کا حرام یا مکروہ؟ سیاہ خضاب کا کیا حکم ہے؟ اور سیاہ خالص اور غیر خالص میں بہ اعتبار جواز و عدم جواز کے کچھ فرق ہے یا نہیں؟ زعفران کے خضاب کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۲۴۲ھ)

الجواب: خضاب کرنا مستحب اور سنت ہے اور سیاہ خضاب حرام ہے اور سرخ اور زرد و سبز درست ہے، زعفران کا بھی درست ہے، شرح شرعۃ الاسلام میں ہے: والخضاب سنة الخ ولا يختضب بالسواد إلخ فقد جاء فيه وعيد عظيم إلخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خضاب أهل النار. وفي لفظ آخر: الخضاب بالسواد خضاب الكفار، ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون كذا في الإحياء ويختضب بالصفرة والحمرة الخ (۲) وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يُصفر لحيته بالورس والزعفران الحديث (۳) سوال: (۴۵۶) وسمہ (۴) اور حنا ملا کر سفید ریش و بُرُوت (ڈاڑھی و مونچھ) میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اور در صورت جائز ہونے نیل اور حنا بہم آمیختہ (باہم ملا ہوا) کے، اس حدیث کی کیا تاویل ہوگی؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة رواه

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي (مشكاة المصابيح: ص: ۳۸۲، كتاب اللباس - باب الترجل، الفصل الثاني)

(۲) شرح شرعۃ الإسلام: ص: ۲۹۴-۲۹۶، فصل في سنن اللباس وأحبه.

(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر الحديث (سنن النسائي: ۲/۲۴۸، كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران)

(۴) وسمہ: نیل کے پتے جن سے خضاب تیار کیا جاتا ہے۔ (فیروز اللغات)

أبو داؤد والنسائي (۱) اور طبرانی نے روایت کیا: من خضب بالسواد سواد الله وجهه يوم القيامة (۲) نیل میں رنگت نیلی ہے، حنا کے ساتھ مل کر سرخی سیاہی کی رنگت ہو جاتی ہے، فقہاء حنا اور کتم اور وسمہ کو جائز لکھتے ہیں، فتاویٰ عالمگیری، ترجمہ درمختار وغیرہ میں خضاب وسمہ حنا کو ہر حالت میں خواہ جہاد پر ہو یا نہ ہو مباح اور جائز ارقام فرماتے ہیں، زید اور بکر میں اس مسئلہ پر تنازعہ ہے کہ حنا یا وسمہ خواہ فردا ہو یا مجموعہ حرام قطعی ہے، بکر کہتا ہے کہ جائز ہے۔ (۱۳۳۹/۹۵۶ھ)

الجواب: سیاہ خضاب عند الحنفیہ بھی مکروہ ہے، اور احادیث مذکورہ کی وجہ سے اس سے اجتناب لازم ہے، درمختار میں ہے: ویکره بالسواد (۳) البتہ جس میں سیاہی غالب نہ ہو سرخی غالب ہو تو وہ جائز ہے اور یہی مطلب ہے ان روایات کا جن میں حنا و کتم کے ساتھ خضاب کو جائز لکھا ہے، شامی میں ہے: وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والکتم (۴)

سوال: (۲۵۷) خضاب وسمہ اور حنا کا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۲۵۹۸ھ)

الجواب: اصل یہ ہے کہ سیاہ خضاب ممنوع ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، اور اس پر وعید آئی ہے۔ جیسا کہ مروی ہے: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة رواه أبو داؤد والنسائي (۵) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی کہ وہ سیاہ خضاب کرے گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہ آوے گی، اس وجہ سے حنفیہ نے سیاہ خضاب کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے۔ کما فی الشامی: قوله: (و یکره بالسواد) أي لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود

(۱) مشکاة المصابيح: ص: ۳۸۲ کتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثّاني .

(۲) أخرج الطبراني: ابن أبي عاصم عن أبي الدرداء رفعه من خضب الحديث (مراقبة

المفاتيح، شرح المشكاة: ۳۰۴/۸، کتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثّاني)

(۳) الدر المختار مع الرد: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۴) الشّامي: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۵) مشکاة المصابيح: ص: ۳۸۲ کتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثّاني .

بالا تفاق، و إن لیزین نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ الخ (۱) (شامی) پس جب کہ یہ محقق ہوا کہ خضاب بالسواد غیر حرب میں عند عامة المشايخ مکروہ تحریمی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز سے خضاب سیاہ حاصل ہو وہ خضاب مکروہ ہوگا، اور دسمہ حنا کے ساتھ شامل کر کے خضاب کرنے سے خضاب سیاہ ہوتا ہے، لہذا وہ ممنوع و مکروہ ہوگا، اور حدیث جو کہ اس کے جواز کی ہے اس کی تاویل کی جاوے گی۔ لتقدم المحرم على المبيح (۲) قال في المرقاة شرح المشكاة: فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود، وقد صحَّ النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير، و لكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم انتهت فيكون التقدير بالحناء تارةً فيكون لونه أحمر وبالكتم أخرى فيكون لونه أخضر (۳)

### مستورات کو مہندی لگانا مستحب ہے

سوال: (۴۵۸) مہندی لگانا مسنون سنا جاتا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۱۷۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: مہندی لگانا عورتوں کو مستحب ہے، حدیث شریف میں آیا ہے (۴) فقط

### بجّو وغیرہ کے بالوں کا برش بالوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنا

سوال: (۴۵۹) بجّو کے بالوں کا برش سر اور ڈاڑھی میں صفائی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا

(۱) رد المحتار: ۵۱۸/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المحرم والمبيح غلب الحرام والمحرم (قواعد الفقه،

الرسالة الثالثة: ص: ۵۵ - رقم القاعدة: ۱۴)

(۳) مرقاة المفاتيح، شرح المشكاة: ۳۰۳/۸، کتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثاني .

(۴) عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني، فقال: لا أباعك حتى تغيري كفيلك، فكأنهما كفا سُبُع، رواه أبو داود .

وعنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة، قال:

لو كنت امرأة لغيرت أظفاري يعني بالحناء، رواه أبو داود والنسائي (مشكاة المصابيح، ص:

۳۸۳، کتاب اللباس - باب التّرجل، الفصل الثاني)

نہیں؟ (۱۳۴۱/۲۸۱۷ھ)

الجواب: بال ہر ایک جانور کے خواہ وہ ماکول اللحم ہو یا نہ ہو پاک ہیں سوائے خنزیر کے، لہذا بچو کے بالوں کا برش سر اور ڈاڑھی کے بالوں پر استعمال کرنا درست ہے۔ فقط

### مستورات بالوں کو کھلا چھوڑیں یا جوڑا باندھیں؟

سوال: (۴۶۰) عورتیں بال گوندھ کر پیچھے کی جانب کھلا چھوڑ دیں یا پلیٹ دیں، جس کو ہماری طرف جوڑا کہتے ہیں، اور یہاں شاید مینڈھی کہتے ہیں، گویا پلیٹ دینے پر ایک دوشت کے قریب اونچا ہو جاتا ہے، ان صورتوں میں کون صورت جائز اور کون ناجائز ہے؟ (۱۳۴۲/۶۳ھ)

الجواب: عورت کے لیے مینڈھیاں گوندھنا یا پیچھے چوٹی گوندھ کر چھوڑنا جیسا کہ عموماً مروج ہے یا کسی وقت بال کھلے چھوڑ دینا بھی اگر ضرورت ہو جائز ہے، ان سب صورتوں میں کوئی صورت ممنوع شرعاً نہیں ہے۔

### جمعہ کے دن حجامت بنوانا افضل ہے

سوال: (۴۶۱) جمعہ کے دن حجامت بنوانا سنت ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۳۰۳ھ)

الجواب: جمعہ کے دن افضل اور مستحب ہے، جیسا کہ درمختار میں ہے: ويستحب قلم أظافير الخ يوم الجمعة الخ ويستحب حلق عاتته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة والأفضل يوم الجمعة الخ (۱) فقط

### حالت جنابت میں حجامت بنوانا

سوال: (۴۶۲) جس شخص پر غسل واجب ہے اس کو حجامت کی اگر ضرورت ہو تو پہلے غسل کرے یا حجامت بنوائے؟ (۱۳۴۹/۱۴۸۷ھ)

الجواب: حالت جنابت میں قبل غسل بھی حجامت بنوانا درست ہے، اور بعد غسل کے ہو تو اچھا ہے۔

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۹/۴۹۵-۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .



## زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی کا طریقہ

سوال: (۴۶۳) عورتوں کو موئے زیر ناف اور موئے بغل خلاف سنت مقراض (قینچی) سے کتر نایا اُسترا سے صاف کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ اگر موچنا (۱) وغیرہ سے بہ خیال تکلیف کام نہ لے سکے اور ہڑتال وغیرہ نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ (۵۱۰/۱۳۳۹ھ)

الجواب: موئے زیر ناف میں مرد کے لیے حلق اور عورت کے لیے نہف (نوچنا) سنت ہے، لیکن اگر عورت بہ وجہ مجبوری اور ضرورت کے حلق کرے تب بھی کچھ گناہ نہیں ہے، البتہ طریق سنت کے خلاف ہے۔ قال في الهندية: والسنة في عانة المرأة التفت الخ (۲) فقط

## زیر ناف کی صفائی کی مدت

سوال: (۴۶۴) زیر ناف کے بال کتنے دنوں کے بعد کاٹنے چاہیے؟ (۴۳۰/۴۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑے (۳)

## صابون وغیرہ سے زیر ناف کی صفائی

سوال: (۴۶۵) ایک شخص بہ وجہ ضعیفی اور بڑا پیٹ ہونے کے موئے زیر ناف اچھی طرح

- (۱) موچنا: بال اکھاڑنے کا آلہ، بال چننے کا اوزار۔ (فیروز اللغات)
- (۲) رد المحتار: ۹/۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .
- اور بغل کے بال مونڈنا جائز اور اکھاڑنا اولیٰ ہے۔ شامی میں ہے: قوله: (وتنظيف بدنه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه، ويجوز فيه الحلق والتفت أولى، وفي المجتبى عن بعضهم: وكلاهما حسن (رد المحتار: ۹/۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)
- (۳) عن أنس رضي الله عنه قال وَقَتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأُظْفَارِ، وَتَفِيفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰، کتاب اللباس - باب التَّرجِل، الفصل الأول)
- و يستحبّ حلق عانته و تنظيف بدنه بالاغتسال في كلّ أسبوع مرّة، و الأفضل يوم الجمعة، و جاز في كلّ خمسة عشرة، و كره تركه وراء الأربعين (الدر المختار مع الشامي: ۹/۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

صاف نہیں کر سکتا، اکثر استرا لگ جاتا ہے، ایسی صورت میں صابن بال صاف کرنے والا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۴۹۰ھ)

الجواب: ایسی حالت میں صابون بال اڑانے والا استعمال میں لاسکتا ہے۔ فقط  
سوال: (۴۶۶) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور مرض راشہ بہت ہے، اور اس کی بیوی بھی نہیں، زیر ناف کے بال استرا سے صاف پاک نہیں کر سکتا، اس کے واسطے کیا حکم شرع شریف کا ہے؟ (۱۳۳۳/۱۶۷۰ھ)  
الجواب: وہ کسی دوا یا چونا وغیرہ سے صاف کر لے درست ہے۔ فقط

### عورتوں کو پیشانی کے بال صاف کرنا جائز نہیں

سوال: (۴۶۷) بعض عورتوں کی پیشانی کے بال آگے آگے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کا دور کرنا جائز ہے؟ (۱۳۴۰/۲۰۰۱ھ)  
الجواب: یہ جائز نہیں ہے (۱) فقط

(۱) عورت کے پیشانی کے بال آگے آگے ہوئے ہوں تو اصح قول کے اعتبار سے ان کو دور کرنا جائز ہے۔  
حسن الفتاویٰ میں ہے:  
سوال: عورت کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں نَامِصَّة اور مُتَنَمِّصَة پر لعنت وارد ہوئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مینو اتو جروا۔  
الجواب باسم ملہم الصواب: عورت کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا جائز ہے، اور اگر ڈاڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا ازالہ مستحب ہے۔  
نَامِصَّة اور مُتَنَمِّصَة پر لعنت کا مورد یہ ہے کہ ابرو کے اطراف سے بال اکھاڑ کر باریک دھاری بنائی جائے، کما یدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ۔

ابرو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں تو ان کو درست کر کے عام حالت کے مطابق کرنا جائز ہے، غرضیکہ تزئین مستحب ہے، اور ازالہ عیب کا استحباب نسبتاً زیادہ مؤکد ہے، اور تلمیس و تغیر خلق ناجائز ہے۔  
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تحت قولہ: (وَالنَّامِصَةُ الْخ) ذكره في الاختيار، أيضا: وفي المغرب: التَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعْرِ، ومنه المِنْمَاضُ الْمِنْقَاشُ اهـ ==

## دوسرے کی کنگھی استعمال کرنا

سوال: (۴۶۸) ایک شخص کی کنگھی دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۳۲/۵۰-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: مالک کی اجازت سے کر سکتا ہے۔

## ڈاڑھی رکھنے کا حکم حدیث سے ثابت ہے

سوال: (۴۶۹)..... (الف) ڈاڑھی رکھنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو مع حوالہ تحریر ہو۔

(ب) ترکی مسلمان ڈاڑھی منڈاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ (۳۵/۵۳۴-۱۳۳۶ھ)

الجواب: (الف) حدیث شریف میں ہے: أَوْفَرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْهَكَوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتر واؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ موچھوں کو خوب کتر واؤ اور ڈاڑھیوں کو چھوڑا اور بڑھاؤ، اور کتب فقہ میں ہے کہ

== وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا فَعَلْتَهُ لَتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ، وَالْأَفْلُو كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ فِي تَحْرِيمِ إِزَالَتِهِ بَعْدَ لَأَنَّ الزَّيْنَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَازِمُورَةِ إِلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمَنْصَاصِ مِنَ الْإِيذَاءِ، وَفِي "تَبْيِينَ الْمَحَارِمِ" إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبٌ فَلَا تَحْرُمُ إِزَالَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ أَهْ وَفِي "التَّائِرِ خَانِيَةِ" عَنْ "الْمُضْمِرَاتِ": وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْحَاجِبِينَ وَشَعْرَ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشَبَّهِ الْمُخَنَّثَ أَهْ. وَ مِثْلُهُ فِي "الْمَجْتَبَى" تَأْمَلِ (الشَّامِي: ۴۵۵/۹، كِتَابُ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ، فَصْلُ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ). وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ (أَحْسَنُ الْفَتَاوَى: ۷۵/۸-۷۶، كِتَابُ الْحِظَرِ وَالْإِبَاحَةِ - بِالْوَلَدِ كِتَابُ الْحِظَرِ، عُنْوَانُ: عَمُورَتِ كَاچِرِے كَے بَال صَافِ كَرْنَا)

(۱) عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفَرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مَشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ، ص: ۳۸۰ كِتَابُ اللَّبَاسِ - بَابُ التَّرَجُلِ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

منڈانا ڈاڑھی کا اور کتر وانا ڈاڑھی کا جب کہ قبضہ سے کم ہو حرام ہے (۱)

(ب) یہ کام وہ برا کرتے ہیں اور خلاف شرع کرتے ہیں، اس کی وجہ انہیں سے پوچھنا چاہیے، بہت سے ان میں سے نماز بھی نہ پڑھتے ہوں گے اور روزہ بھی نہ رکھتے ہوں گے، تو ان کا فعل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟! حجت ہو سکتا ہے؟! حجت ہو سکتا ہے!؟

سوال: (۴۷۰) زید کہتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، علماء اپنی طرف سے یہ مسئلہ نکال کر لوگوں کو حکم کرتے ہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۲۰۹ھ)  
الجواب: ڈاڑھی رکھنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ واعفوا اللّٰحي: اور بڑھاؤ ڈاڑھیوں کو، یہ صاف حکم ہے ڈاڑھی کے رکھنے کا، پس یہ قول زید کا جو سوال میں ہے غلط ہے۔ فقط

### ڈاڑھی رکھنا واجب ہے

سوال: (۴۷۱) ڈاڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟ جو شخص ہمیشہ ڈاڑھی منڈائے یا کتر وائے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے وہ کس گناہ کا مرتکب ہے؟ اور منڈانا اور کتر وانا برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ اور پیغمبر خدا ﷺ نے کبھی قبضہ سے کم ڈاڑھی رکھی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۸۸ھ)  
الجواب: ڈاڑھی رکھنا واجب ہے جیسا کہ مقتضائے امر اعفوا اللّٰحي (۲) کا ہے اور جو شخص ہمیشہ ڈاڑھی صاف کراوے وہ فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور قبضہ سے کم کرانا ڈاڑھی کا حرام ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے قبضہ سے کم کبھی ڈاڑھی کو نہیں کرایا ہے۔ فقط

### ڈاڑھی اور مونچھ کی مقدار

سوال: (۴۷۲) جو لوگ شریعت کے موافق ڈاڑھی مونچھ نہ رکھتے ہوں اور بینک سے سود (۱) قوله: (وَالسَّنة فِيهَا الْقَبْضَةُ) وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد منها على قبضة قطعه، وفي الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته (الدر والرد: ۹/۴۹۸، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)  
(۲) مشکاة المصابيح، ص: ۳۸۰، كتاب اللباس، باب التّرجل، الفصل الأوّل.

لیتے ہوں اور پابند صوم و صلاۃ نہ ہوں وہ لوگ متشرع ہیں یا فاسق؟ اور ڈاڑھی مونچھ کی درازی کتنی ہونی چاہیے؟ (۱۰۱۲/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: وہ لوگ جن کا ذکر سوال میں ہے، وہ لوگ معاصی کبار کے مرتکب ہیں متشرع نہیں ہیں بلکہ فساق و فجار ہیں، شرعاً ان پر فساق کا لفظ عائد ہوتا ہے اور وہ سخت گنہگار اور عاصی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: احفوا الشوارب واعفوا اللحي الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم (۱) یعنی مونچھوں کو کتر واؤ اور ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو اس قدر کتر وانا چاہیے کہ ہونٹ اوپر کے کھلے رہیں اور باریک سی لکیر مونچھوں کی رہے، اور ڈاڑھی کو ایک قبضہ کے برابر رکھنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۴۷۳) ڈاڑھی کا بڑھانا کہاں تک جائز ہے؟ (۱۱۹۶/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ڈاڑھی کی حد ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی ہے اس سے کم کرنا درست نہیں ہے اور زیادہ کرنا جائز ہے (۲) درمختار میں ہے: وأما الأخذ منها (أي اللحية) وهي دون ذلك (أي القبضة) كما يفعله بعض المغاربة و مُخَنَّثَةُ الرِّجَال فلم يُحِبَّه أحد (۳) اور حدیث شریف میں ہے: واعفوا اللحي الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم یعنی ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ۔ فقط

سوال: (۴۷۴) ضروری ڈاڑھی کس قدر طویل ہونی چاہیے؟ (۲۱۵۸/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ضروری ڈاڑھی اس قدر ہے کہ ایک مشت سے کم نہ ہو، منڈوانا ڈاڑھی کا اور خش خشی

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أو فروا اللحي واحفوا الشوارب وفي رواية: أنفكوا الشوارب واعفوا اللحي. متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰، كتاب اللباس - باب الترجل، الفصل الأول)

(۲) حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک مشت سے زائد ڈاڑھی طول و عرض دونوں جانب سے کاٹتے تھے۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها و طولها (جامع الترمذي: ۱۰۵/۲، أبواب الآداب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية) اور شامی میں ہے: فما زاد منها على قبضة قطعه (الدر المختار والشامي: ۴۹۸/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع) پس ایک مشت سے زائد ڈاڑھی کا ٹنانت ہے۔

(۳) الدر المختار مع الشامي: ۳۵۴/۳-۳۵۵، كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية.

کرانا حرام ہے، اور جب کہ یہ حرام ہوا تو رکھنا ڈاڑھی کا فرض ہوا، کیونکہ حرام فعل کا چھوڑنا بھی انسان پر فرض ہے، مثلاً زنا و چوری حرام ہے تو اس کا چھوڑنا فرض اور ضروری ہوا، یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ”ترک حرام فرض ہوتا ہے اور ترک فرض حرام ہوتا ہے“۔ فقط

### ہر جانب سے ڈاڑھی ایک مشت ہونی چاہیے

سوال: (۴۷۵) ڈاڑھی کا وہ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے جو چار انگشت سے کم نہ ہو؟

(۱۳۳۳ھ/۳۲/۱۷۳۱)

الجواب: ڈاڑھی کا تمام حصہ چار انگشت سے کم نہ ہونا چاہیے، کسی جانب سے بھی ڈاڑھی کو چار انگشت سے کم نہ رکھا جاوے۔ والسنة فيها القبضة (۱)

### ایک مشت ڈاڑھی کہاں سے ناپی جائے؟

سوال: (۴۷۶) بعض کا قول ہے کہ یک مشت ڈاڑھی رکھنا مسنون ہے، اگر یہ صحیح ہے تو یک

مشت کہاں سے لی جائے گی؟ بینوا تو جروا (۱۳۳۳ھ/۳۲/۱۷۸۵)

الجواب: قال في الدر المختار: والسنة فيها القبضة الخ وفي الشامي: وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد منها على قبضة قطعه الخ (۲) (شامي) اور یہ قبضہ ٹھوڑی سے نیچے سے لیا جائے گا۔ فقط

### ایک مشت سے کم ڈاڑھی رکھنا حرام ہے

سوال: (۴۷۷) ڈاڑھی کی حد شریعت نے کہاں تک رکھی ہے؟ اگر کوئی حد مقررہ سے کم

رکھے تو کیا وہ ڈاڑھی منڈانے کے برابر ہے؟ (۱۳۳۷ھ/۳۴۴)

الجواب: ڈاڑھی کی حد ایک قبضہ ہے، قبضہ سے کم کرنا درست نہیں ہے، اور حد مشروع سے کم

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۹/۴۹۸، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) الدر المختار والشامي: ۹/۴۹۸، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ منڈوانا اگرچہ منڈوانے والا زیادہ برا ہے کہ وہ تَشْبِہُ بِالْكَفَّار بھی کرتا ہے اور یہ خود حرام ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْآيَةَ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۴۷۸) ڈاڑھی کے بالوں کو طولا و عرضا اس قدر تراشنا کہ قبضہ سے چھوٹے ہو جائیں خواہ بہ مقدار ایک انچ کے باقی رہیں یا ایک جَوُّ کے؛ جائز و سنت ہے یا ممنوع؟ اور جو اس کے سنت ہونے کا فتویٰ دے وہ کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۲۲۹ھ)

الجواب: ڈاڑھی کو ایک قبضہ سے کم کرنا ممنوع ہے اور سنت ایک قبضہ رکھنا ہے (۱) کما فی الدر المختار: وَالسَّنةُ فِيهَا الْقَبْضَةُ (۲) وَفِيهِ أَيْضًا: وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ ..... فَلَمْ يُحِمْ أَحَدٌ (۳) اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ سے کم رکھنا ڈاڑھی کا ناجائز ہے اور جو شخص جائز یا سنت کہتا ہے وہ خطا پر ہے۔ فقط

### ڈاڑھی منڈانے والا متقی نہیں بلکہ فاسق ہے

سوال: (۴۷۹) جو مسلمان ڈاڑھی مونچھ منڈاتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو ایسا شخص متقی ہے یا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۸۹۱ھ)

الجواب: وہ متقی نہیں ہے بلکہ فاسق و عاصی ہے۔ فقط

### ڈاڑھی منڈانا اور خش خشی کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے

سوال: (۴۸۰) ڈاڑھی منڈانا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۶۵۰ھ)

الجواب: گناہ کبیرہ ہے۔ فقط

(۱) یہاں 'سنت' سے فقہاء والی سنت مراد نہیں، بلکہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا پسندیدہ طریقہ مراد ہے۔

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۹۸/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع.

(۳) الدر المختار مع الشامی: ۳۵۴/۳-۳۵۵ کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم ومالا یفسده، مطلب فی الأخذ من اللّٰحیة.

سوال: (۴۸۱) ڈاڑھی کا منڈانا یا خش خشی کرنا حرام ہے یا جائز ہے؟ حرمت یا جواز ہر دو سے بہ حوالہ قرآن و حدیث مطلع فرمادیں، کوئی قوم بہ وقت جہاد یا ہمیشہ ڈاڑھی منڈاؤے تو ہم میں اور ترکوں میں کیا کچھ فرق ہے؟ اگر کوئی قوم سوائے امام صاحب کے اور کسی امام کی پیروی ہو تو کس امام کے نزدیک ڈاڑھی منڈانا جائز ہے؟ (۴۳/۱۰۳-۱۳۴۵ھ)

الجواب: ڈاڑھی کا منڈانا اور خش خشی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ و أمّا الأخذ منها وهي دون ذلك ..... فلم يُحَـجَّه أَحَدٌ (۱) اور حدیث شریف میں ہے: اعفوا اللّٰحی (۲) یعنی ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ، اور اگر کوئی قوم یا افراد اس حکم شرعی کا خلاف کریں تو وہ گنہگار ہیں، ان کے فعل سے دوسروں کو حجت پکڑنا نہ چاہیے۔ (اور کسی امام کے نزدیک ڈاڑھی منڈانا جائز نہیں) فقط  
سوال: (۴۸۲) ایک انگل تک ڈاڑھی رکھنا یا بالکل منڈوانا دونوں برابر ہیں یا کم و بیش؟  
(۴۶/۵۵۹-۱۳۴۷ھ)

الجواب: ترک سنت (یعنی واجب) میں اور گناہ میں دونوں برابر ہیں، البتہ منڈوانے میں چونکہ تشبہ بالكفار بھی ہے، اس لیے وہ اور زیادہ قبیح اور مذموم اور معصیت ہے۔ فقط

### ڈاڑھی منڈانے اور خش خشی کرانے کی سزا

سوال: (۴۸۳) جو لوگ ڈاڑھی شرعی نہ رکھتے ہوں، بلکہ منڈاتے اور خش خشی کراتے ہوں، وہ گنہگار ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو آخرت میں کس سزا کے مستحق ہوں گے؟ (۴۲/۱۴۱۶-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: ڈاڑھی منڈانا حرام ہے، ڈاڑھی منڈانے والا فاسق ہے، جو عذاب فساق، نجا رکوعیا مت میں ہوگا، اس کے لیے بھی وہی عذاب ہے، اور قینچی سے خش خشی کرنا ڈاڑھی کا بھی حکم میں منڈوانے کے ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) الدر المختار مع الرد: ۳/۳۵۴-۳۵۵ کتاب الصوم — باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسده، مطلب فی الأخذ من اللّٰحیة .

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أفروا اللّٰحی واحفوا الشوارب الحديث، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰ کتاب اللباس — باب التّرجل، الفصل الأوّل)



سوال: (۲۸۴) ڈاڑھی کا کٹوانا کیسا گناہ ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جیسا اپنی ماں کے ساتھ ستر دفعہ زنا کر لیا، دوسرا شخص کہتا ہے کہ ایسی سخت بات نہ کہنی چاہیے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟  
(۱۳۳۵/۱۵۵ھ)

الجواب: ڈاڑھی کا منڈوانا اور کتر وانا جب کہ وہ قبضہ سے کم ہو حرام ہے، حدیث شریف میں ہے: اعفوا اللہی و احفوا الشوارب (۱) یعنی ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتر واد، اور در مختار میں ہے: وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (۲) یعنی ڈاڑھی کا کتر وانا جب کہ وہ قبضہ سے کم ہو کسی نے جائز نہیں رکھا، پس جب کہ یہ فعل بھی حرام ہے اور زنا بھی حرام ہے تو اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو اس میں کچھ خرابی نہیں ہے، ایک حدیث شریف میں ایسا آیا ہے کہ سود کے ستر جزو ہیں ان میں سے کمتر ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے زنا کیا (۳) البتہ خاص ڈاڑھی کتر وانے یا منڈوانے میں ایسا لفظ نہیں آیا، لیکن جب کہ دونوں فعل حرام ہیں تو اگر حرمت میں ایسی تشبیہ دی جاوے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط

### مجاہد کو بھی ڈاڑھی منڈانا رو انہیں

سوال: (۲۸۵) جس وقت آدمی جہاد پر جائے اس کے لیے ڈاڑھی منڈانا رو ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۹/۱۲۸ھ)

الجواب: ڈاڑھی اس وقت بھی منڈانا نہ چاہیے۔ فقط

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أو فروا اللہی و احفوا الشوارب الحديث، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۰، كتاب اللباس - باب الترجل، الفصل الأول)  
(۲) الدر المختار مع الرد: ۳/۳۵۴-۳۵۵ كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية .

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءاً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة المصابيح، ص: ۲۴۶، كتاب البيوع - باب الربا).  
وسنن ابن ماجه، ص: ۱۶۴، أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا

## ڈاڑھی منڈانے کو سنت کہنا گناہ کبیرہ ہے

سوال: (۴۸۶) ایک دفعہ بکرنے ڈاڑھی منڈانے کو سنت طریقہ کہا شرعاً کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۶/۱۳۳۹ھ)

الجواب: ڈاڑھی منڈانے کو سنت طریقہ کہنا یہ سخت گناہ تھا اور خوفِ کفر تھا، الغرض بکر کو جلد توبہ کرنی لازم ہے اور فوراً تجدیدِ اسلام و تجدیدِ نکاح کرنا ضروری ہے (احتیاطاً)۔ فقط

## ڈاڑھی شرعی مقدار سے کم ہو تو بالوں کو یکساں کرانا کیسا ہے؟

سوال: (۴۸۷) ریش کم سے کم کس قدر لمبی ہو؟ اور زیادہ کہاں تک بڑھا سکتا ہے؟ اگر شرعی مقدار سے کم ہو تو کیا اس میں چھوٹے بڑے بالوں کا یکساں کر دینا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۰۷۲/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ریش کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ ایک قبضہ کے برابر رکھنا مسنون ہے، اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو تو کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن قبضہ سے کم کرانا درست نہیں ہے۔ درمختار میں ہے: و أما الأخذ منها وهي دون ذلك ..... فلم يُبحه أحد إلخ (۱) یعنی کتر وانا ڈاڑھی کا جب کہ وہ قبضہ سے کم ہو کسی نے جائز نہیں رکھا، پس معلوم ہوا کہ جب ڈاڑھی قبضہ سے کم ہو تو پھر کتر وانا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## نیچے کے ہونٹ کے بال کاٹنا کیسا ہے؟

سوال: (۴۸۸) نیچے کے لب سے بعض آدمی بال منڈاتے ہیں، جو ٹھوڑی سے اوپر ہوتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ڈاڑھی میں شامل ہیں اس میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۲۷۱۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: شامی جلد خامس خطر و اباحہ میں ہے: نَتَفُ الْفَنِيكَيْنِ بَدْعٌ وَهُمَا جَانِبَا الْعَنْفَقَةِ

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۳/۳۵۴-۳۵۵ کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، مطلب فی الأخذ من اللحية.

وہی شعر الشَّفَّة السُّفْلَى (۱) اس سے معلوم ہوا کہ نیچے کے ہونٹ کے بال نہ کاٹے۔

کسی کی ڈاڑھی منڈنا یا کترنا حجام کے لیے جائز نہیں

سوال: (۴۸۹) ہم لوگوں کی حجامت بناتے ہیں، بعض لوگ ڈاڑھی منڈواتے ہیں اور بعض کترواتے ہیں کیا حکم ہے؟ (۳۳/۸۳۰-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ایسا کرنا نہ چاہیے، اگر کوئی مسلمان ڈاڑھی منڈائے یا خلاف شریعت کرائے تو نہ کی جائے، ایسا پیشہ اختیار کرنا نہ چاہیے۔ فقط

حجام ڈاڑھی مونڈنے سے گنہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۴۹۰) مسلمان حجام مسلمان کی ڈاڑھی مونڈنے سے گنہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ (۵۳۴/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: گنہ گار ہوتا ہے۔ فقط

موچھوں کو کس قدر کتر وانا چاہیے؟

سوال: (۴۹۱) موچھوں کو کس قدر کتر وانا اور کس قدر چھوڑنا چاہیے؟ (۹۶۲/۱۳۳۱ھ)

الجواب: موچھوں کو بالکل کتر وادینا چاہیے کہ ہونٹ پر بال نہ آویں اور ہونٹ کھلا رہے جیسا کہ معروف ہے۔ فقط

موچھیں کاٹنا سنت ہے یا منڈانا؟

سوال: (۴۹۲) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ تمام موچھیں جڑ سے قینچی سے کاٹی جائیں یا کیا؟ (۴۷۰/۱۳۳۹ھ)

الجواب: موچھوں کے بارے میں دونوں قول ہیں حلق بھی اور قص بھی، شامی میں ہے: وعبارۃ

المجتبیٰ بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سنة، ونسبه إلى أبي حنيفة رحمه الله و صاحبيه،  
والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع اهـ (۱) پس یہ ثانی  
قول ہی معمول بہ ہے۔ (یعنی مونچھیں کاٹنا ہی سنت ہے)

### ختنہ کیوں کرایا جاتا ہے؟

سوال: (۴۹۳) ختنہ کیوں کرائے جاتے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ کو تکلیف دینا  
میری سمجھ میں نہیں آتا؟ (۱۳۴۰/۹۹۹ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
صلی اللہ علیہ وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم  
الأظفار، ونتف الإبط (۲) اس حدیث سے واضح ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ختنہ کرانے کو  
فطرت اسلامی و طریقہ اسلام مقرر فرمایا ہے، پس بہ حکم ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورہ حشر، آیت: ۷) اہل اسلام کو آنحضرت ﷺ کے طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے،  
اور فقہاء رحمہم اللہ نے ختنہ کو شعار اسلام فرمایا ہے، پس اگر حکمت اس کی کسی کی سمجھ میں نہ بھی آوے  
تب بھی بہ اتباع نبی کریم ﷺ اس کو شعار اسلام سمجھ کر لازم پکڑنا چاہیے، اور تشبہ بالكفار سے  
بچنا چاہیے۔ فقط

زخم کی وجہ سے چمڑی کٹ کر گر گئی ہو تو ختنہ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟

سوال: (۴۹۴) لڑکے نابالغ کے سر ڈ کر پر زخم ہو گیا، اور چمڑا کٹ کر اس قدر گر گیا ہے کہ  
سر ڈ کر بخوبی کھل گیا ہے اور حشفہ پورا نہیں کھلا؛ تو اس کے لیے ختنہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟  
(۱۳۴۱/۵۳۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختوناً ولا

(۱) رد المحتار: ۹/۴۹۷، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) مشكاة المصابيح: ص: ۳۸۰، کتاب اللباس، باب الترجل .

تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه، ترك على حاله كشيخ أسلم، و قال أهل النظر: لا يطبق الختان ترك أيضاً (۱) اس سے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئلہ میں پورا حشفہ نہیں کھلا (پس) ختنہ ہونا چاہیے۔ فقط

### جس کا حشفہ ظاہر ہو اس کا ختنہ ضروری نہیں

سوال: (۴۹۵) جس کا چمڑا خود اوپر چڑھ کر جگہ صاف ہو جاوے اس کو ختنہ کی ضرورت ہے یا نہ؟ (۱۳۳۹/۱۸۳۳ھ)

الجواب: جس کا ختنہ ظاہر ہے اس کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

### جو شخص مختون پیدا ہوا ہے اس کا ختنہ ضروری نہیں

سوال: (۴۹۶) جو شخص مختون پیدا ہو تو پھر دوبارہ اس کے ختنہ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۸۹ھ)

الجواب: اس کا ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط

### بالغ ہونے کے بعد بھی ختنہ کرانا ضروری ہے

سوال: (۴۹۷) جوان کے ختنہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کس طرح کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۳/۹۹۴ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: ينظر الطيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة، إذ الضرورات تنقذ بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان الخ (۲) وأيضاً فيه: ومن بلغ غير

(۱) ترجمہ: جس بچہ کی سپاری اس طرح ظاہر ہو کہ اگر آدمی اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے، اور اس کے ذکر کی کھال شدید تکلیف پہنچائے بغیر کاٹنا ممکن نہ ہو تو اس کو اسی حال پر چھوڑا جائے جیسے کوئی بوڑھا مسلمان ہوا اور اہل بصیرت نے کہا کہ یہ بوڑھا ختنہ کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا بھی ختنہ نہ کیا جائے۔  
(الدر المختار مع الشامی: ۱۰/۳۹۸، کتاب الخنثی - مسائل شتی)

(۲) الدر المختار: ۹/۴۵۱-۴۵۲، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس.

مختون أجبره الحاكم عليه إلخ (۱) ان عبارات سے معلوم ہوا کہ جوان کو ختنہ کرانا دوسرے شخص سے جو ختنہ کرنا جانتا ہے جائز ہے، جب کہ خود وہ اپنا ختنہ نہ کر سکتا ہو، اور نہ اس کی منکوحہ یا باندی ختنہ کر سکتی ہو۔ فقط

سوال: (۴۹۸) زید بالغ ہو گیا، مگر ختنہ نہیں ہوا، اب ختنہ کرانا چاہیے یا نہیں؟

(۱۳۳۴ھ/۱۰۷۳-۳۳/۱۳۳۴ھ)

الجواب: ختنہ کرانا چاہیے، درمختار میں ہے: وكذا نظر قابلة وختان إلخ (۲)  
سوال: (۴۹۹) ایک شخص کہتا ہے کہ ختنہ کرنا لڑکے کا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، چنانچہ ایک آدمی کا بچہ بڑا ہو گیا، ابھی تک اس نے ختنہ نہیں کرایا اس پر ختنہ واجب ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳ھ/۱۳۰۹)

الجواب: ختنہ کرنا لڑکوں کی سنت ہے اور احادیث سے ثابت ہے (۳) بلکہ درمختار میں فرمایا ہے کہ ختنہ شعائر اسلام سے ہے۔ الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الإسلام وخصائمه (۴) اور وقت ختنہ کرنے کا عند البعض سات برس کی عمر سے بارہ برس تک (۵) اور اگر کوئی لڑکا بالغ ہو گیا اور اس کا ختنہ نہیں ہوا تو اس کا بھی ختنہ کرنا چاہیے، اگر وہ خود کر سکتا ہے خود کرے ورنہ بہ ضرورت دوسرے سے کرائے اور یہ جائز ہے، جیسا کہ درمختار میں ہے: وكذا يجوز نظر قابلة وختان (۶) فقط

(۱) رد المحتار: ۳۹۹/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۵۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس .

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء (المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الطبراني: ۱۲/۱۳۱، رقم الحديث: ۱۲۸۲۸، ۱۱/۱۸۶، رقم الحديث: ۱۱۵۹۰)

(۴) الدر المختار مع الشامی: ۳۹۸/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۵) وقته غير معلوم، وقيل: سبع سنين كذا في الملتقى، وقيل: عشر، وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة، (الدر المختار مع الشامی: ۳۹۸/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی )

(۶) الدر المختار مع رد المحتار: ۴۵۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس .

## عورت کا ختنہ کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۵۰۰) عورت کا ختنہ کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۴-۳۳/۹۱۰ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال إلخ (۱) اور شامی نے بھی عورت کے ختنہ کا غیر مسنون ہونا راجح کیا ہے (۲) فقط

سوال: (۵۰۱) جس طرح مردوں کے واسطے ختنہ کرنا سنت ہے اسی طرح عورت کے لیے

جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۲۹۳۵ھ)

الجواب: یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا ختنہ کرنا معمول نہیں ہے، سلف سے خلف تک ایسا ہی معمول رہا ہے اور اب تک ہے، اس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے ختنہ سنت نہیں ہے اور حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ رجال کے لیے سنت ہے، اور عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ مکرمہ ہے رجال کے لیے (۳) درمختار میں ہے: وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال (درمختار) قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه أُلد في الجماع زيلعي (۴) (شامی) فقط

## عورت کا ختنہ عورت ہی کر سکتی ہے

سوال: (۵۰۲) عورتوں کے ختنہ کیوں کرائے جاتے ہیں؟ اور کس طرح کرائے جاویں؟ اور

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۳۹۸-۳۹۹، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۲) قوله: (وقيل سنة) جزم به البزازي معللاً بأنه نصّ على أن الخنثى تختن، ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى لاحتمال أن تكون امرأة ولكن لا كالسنة في حق الرجال اهـ أقول: ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلاً، وختان الرجل لا يترك، فلذا كان سنة احتياطاً

ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة، تأمل (رد المحتار: ۳۹۹/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی)

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء (المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الطبراني: ۱۲/۱۲، رقم الحديث: ۱۲۸۲۸، ۱۸۶/۱۱،

رقم الحديث: ۱۱۵۹۰ - المطبوعة: دار الإحياء التراث العربي، بيروت)

(۴) الدر المختار والشامی: ۳۹۸-۳۹۹، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

کتنی عمر میں ہونے چاہئیں؟ (۱۳۳۷/۲۷۶۴ھ)

الجواب: عورت کا ختنہ عورت ہی کر سکتی ہے، اور جب کہ عورت ختنہ کرنے والی اور جاننے والی نہ ہو تو ختنہ نہ کرایا جائے، کیونکہ عورتوں کا ختنہ ضروری نہیں ہے، اس لیے متروک ہو گیا ہے۔ درمختار میں ہے: وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال الخ قوله: (بَلْ مَكْرَمَةٌ لِلرِّجَالِ) لأنه أُلْدَ في الجماع (۱) (شامی) و وقتہ غیر معلوم (۱) (درمختار) و قيل: سبع سنين الخ (۱)

### قوی عذر کے بغیر ختنہ ترک کرنا درست نہیں

سوال: (۵۰۳) ایک شخص نے ایک لڑکے کا ختنہ قبل از بلوغ حسب دستور کیا، اور وہ لڑکا ختنہ کے بعد ہی دو روز میں بعارضہ تپ شدید فوت ہو گیا، کچھ عرصہ کے بعد دوسرے لڑکے کا ختنہ کیا، اور وہ لڑکا بھی اسی طور سے دو تین روز تپ شدید لاحق ہو کر قضا کر گیا، کچھ زمانہ گزرا تھا کہ تیسرے لڑکے کا ختنہ کیا گیا، وہ بھی دو تین روز تک سخت بخار میں مبتلا ہو کر گزر گیا، اب نوبت چوتھے لڑکے کی آئی ہے، مگر والدین کو تجربہ سابقہ سے گمان غالب ہوتا ہے کہ جس طرح پیشتر اس کا رروائی سے متواتر تین بچوں کے فوت ہو جانے کا صدمہ اٹھانا پڑا، شاید اب کی دفعہ بھی ختنہ کی خوشی کے ساتھ ہی بچہ کی موت کا غم دیکھنا نہ پڑے، اس لیے موجود لڑکے کے ختنہ میں والدین کو تامل ہوتا ہے، آیا شرعاً ایسی حالت میں ترک ختنہ یا تاخیر درست ہے یا نہیں؟ بینوا تو جردا (۱۳۳۵/۴۱۰ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائمه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر، و وقتہ غیر معلوم، و قيل: سبع سنين كذا في الملتقى، و قيل: عشر، و قيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة، و قيل: العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا علم لي بوقته الخ (۲) اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ختنہ کرانا سنت ہے، اور وہ شعار اسلام میں سے ہے، بلا عذر قوی ترک اس کا درست نہیں ہے، اور ایسا بوڑھا

(۱) الدر المختار والشامی: ۱۰/۳۹۸-۳۹۹، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۱۰/۳۹۸، کتاب الخنثی - مسائل شتی .



جس میں طاقت ختنہ کی نہیں ہے عذر اس کا ظاہر ہے — اور وقت اس کا معین نہیں ہے الخ یعنی قبل بلوغ جب چاہے ختنہ کرا دے الخ، پس صورت مسئلہ میں ترک ختنہ جائز نہیں ہے، لیکن تاخیر بلوغ تک درست ہے، اچھے موسم میں اور جب کہ وہ لڑکا متحمل اس کا ہو سکے ہوشیار شخص سے ختنہ کرایا جاوے۔ فقط

### جو بچہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے اس کا ختنہ کرانا

سوال: (۵۰۴) ایک لڑکے کی عمر دس سال ہے، اور چلنے پھرنے سے قطعاً محتاج ہے، اس کے والدین کا ارادہ ختنہ کرانے کا ہے، اس کا ختنہ کرانا چاہیے یا نہیں؟ (۱۶۵/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: اگر اس میں طاقت ختنہ کرانے کی ہے تو ختنہ کرایا جائے۔ فقط

### بالغ نو مسلم کا بھی ختنہ کرانا ضروری ہے

سوال: (۵۰۵) ہم دو بھائی نو مسلم ہیں، ایک کی عمر ۲۵ سال، اور دوسرے کی عمر ۲۲ سال، اگر ہم لوگوں کو ختنہ کرانا جائز ہے تو ختنہ کرائیں یا جو حکم ہو؟ (۱۶۵/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: چونکہ ختنہ شعار اسلام سے ہے، لہذا ختنہ آپ صاحبوں کو ضرور کرانی چاہیے، ضرورت کی وجہ سے غیر کا نظر کرنا درست ہے۔ فی الدر المختار: و کذا نظر قابلة و ختان الخ (۱) اگر خود ختنہ کرنے کی ہمت ہو تو سب سے اولیٰ اور افضل ہے۔ فقط

سوال: (۵۰۶) جب کوئی غیر مذہب شخص بالغ مسلمان ہو، اگر اس کا ختنہ نہ کرایا جاوے تو اس کے اسلام میں کچھ فرق رہتا ہے یا کیا؟ تیس چالیس برس کی عمر میں ختنہ کرانے کا کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۵/۸۳۲ھ)

الجواب: در مختار مسائل شتی میں ہے: والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الإسلام وخصائصه — إلى أن قال — فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ (۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۵۲/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس.

لا یطیقہ ظاہر إلخ (۱) اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ختنہ سنت ہے اور اسلام کی خاص علامات میں سے ہے، بدون عذر قوی کے ترک نہ کیا جاوے، اور ایسا بوڑھا جس میں طاقت ختنہ کی نہ ہو معذور ہے، پس جو شخص ایسا معذور نہ ہو یعنی بوڑھا نہ ہو اس کو ختنہ کرانا ضرور چاہیے، اگرچہ ترک ختنہ سے وہ کافر نہ ہوگا، اور اس کے اسلام میں فرق نہ آوے گا، لیکن تارک سنت اور تارک شعار اسلام ہو کر گنہگار ہوگا، لہذا حتی الوسع نو مسلموں کے ختنہ ضرور کرائے جاویں، چالیس پچاس برس کی عمر میں وہ ایسا معذور نہیں ہے کہ ترک ختنہ اس کو درست ہو۔ فقط

### ختنہ کی تقریب میں اقرباء اور احباب کی دعوت کرنا اور نیوتا لینا

سوال: (۵۰۷)..... (الف) ختنہ کے وقت احباب و اقرباء کو بلانا اور نیوتا وغیرہ لینا اور دعوت کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ بندہ کا خیال ہے کہ ختنہ کے وقت بجائے رسوم کے خیرات کرنا اچھا ہے یہ خیال کیسا ہے؟

(ب) ختنہ کے موقع پر سنت کیا ہے؟ (۳۶۳/۱۳۳۸ھ)

الجواب: (الف) ختنہ کی تقریب میں اقرباء و احباب کو بلانا اور دعوت کرنا درست ہے اور نیوتا لینے دینے کو بھی فقہاء نے جائز لکھا ہے (۲) البتہ جبر نہ ہو اور نہ کرنے والے پر طعن و تشنیع بے جا ہے،

(۱) الدر المختار مع الشامی : ۱۰/۳۹۸، کتاب الخنثی - مسائل شتی .

(۲) نیوتا: شادی بیاہ کی تقریبوں میں نقدی (وغیرہ) دینے لینے کی رسم (فیروز اللغات)

وفي الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به إن مثلياً فبمثله وإن قيمياً فبقيمته، وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه إلخ .

ترجمہ: فتاویٰ خیر یہ میں ہے: دریافت کیا گیا اس ساز و سامان کے بارے میں جس کو ایک شخص دوسرے کو شادی بیاہ کی تقریبوں میں دیتا ہے، آیا اس کا حکم قرض کے حکم جیسا ہے کہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟  
الجواب: اگر عرف و رواج یہ ہے کہ لوگ بدل کے طور پر اس کو دیتے ہیں تو اس کو واپس کرنا ==

یہ جہالت کی بات ہے، اور یہ جو آپ کا خیال ہے یہ بھی اچھا ہے۔

(ب) حدیث سے ختنہ کے وقت کوئی تقریب خاص ثابت نہیں ہے، باقی خوشی کے موقع پر دعوت وغیرہ کرنا شرعاً درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے۔ فقط سوال: (۵۰۸) ختنہ پر دعوت کرنا کیسا ہے؟ آج کل علاقہ ہذا میں اس مروجہ کھانے کو عوام ضروری سمجھتے ہیں، اسی واسطے بعض بچے بے ختنہ سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں شرعاً کیا حکم ایسی حالت میں ہوگا؟ (۱۳۳۸/۱۱۷۴ھ)

الجواب: ختنہ پر دعوت کرنا درست ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یا اس وجہ سے ختنہ نہ کرانا ممنوع و قبیح ہے ایسی رسومات کو چھوڑنا چاہیے۔ فقط

### مردہ بچہ کی ناف نہ کاٹی جائے

سوال: (۵۰۹) لڑکا بعد پیدا ہونے کے مر گیا، اس کی ناف کاٹنا چاہیے یا نہیں؟ ایک عالم کہتا ہے کہ ناف کاٹنا چاہیے کیوں کہ نجس چیز رہتے ہوئے نماز نہ ہوگی، دوسرا عالم منع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مردہ ہے اور مردہ پر ہتھیار چلانا ناجائز ہے؟ (۱۳۳۱/۹۵۲ھ)

الجواب: دوسرا قول صحیح ہے، طفل میت جو کہ زندہ پیدا ہو کر مر گیا، اور حالت حیات میں اس کی ناف نہ کاٹی گئی ہو، تو بعد مرنے کے اس کی ناف نہ کاٹی جاوے جیسا کہ کتب فقہ کی اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے: ولا یسرح شعره ای یکره تحریماً ولا یقص ظفره إلا المکسور ولا شعره ولا یختن الخ (۱) (درمختار) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

== ضروری ہے، اگر ذوات الامثال میں سے ہے تو اس کا شل اور ذوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت بدل کے طور پر دی جائے گی، اور اگر عرف و رواج اس کے خلاف ہے اس طرح کہ لوگ وہ ساز و سامان ہبہ کے طور پر دیتے ہیں اور اس کا بدل دینے کی طرف نظر نہیں کرتے تو اس کا حکم تمام احکام میں ہبہ کے حکم جیسا ہے (یعنی اس کا عوض دینا ضروری نہیں) (رد المحتار مع الدر المختار: ۴۳۴/۸، کتاب الہبۃ)

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۸۴/۳، کتاب الصلاۃ۔ باب صلاۃ الجنائزۃ، مطلب فی القراءۃ عند المیت۔

## کھیل، تماشے اور تصاویر وغیرہ کے احکام

کبڈی اور گیند بلا سے کھیلنا کب جائز ہے؟

سوال: (۵۱۰) امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیاۓ سعادت میں لکھا ہے کہ تمام دن میں بچوں کو ایک گھڑی کھیلنے کی اجازت دینا چاہیے، تو کس قسم کے کھیل کی؟ (۱۴۳۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مطلب یہ ہوگا کہ طبیعت بچوں کی خوش رہے، اس لیے کوئی کھیل مباح یا صرف چلنا پھرنا دوڑنا کچھ ہو جانا چاہیے تاکہ ہر وقت پڑھنے سے دماغ مشغول نہ ہو، مباح کھیل بھی بعض ہیں جیسے کبڈی کھیلنا، گیند بلا سے کھیلنا وغیرہ بدون شرط ہار جیت کے۔ فقط

نکاح میں ناچ، آتش بازی اور ڈھول باجا وغیرہ بجانا حرام ہے

سوال: (۵۱۱) نکاح میں ڈھول باجا رقص وغیرہ آلاتِ لہو و لعب کا بجانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۱۱۷ھ)

الجواب: نکاح میں بہ غرض اعلان صرف دف بجانا مباح ہے اور باجا اور رقص وغیرہ سب حرام ہیں۔ فقط

سوال: (۵۱۲) شادی بیاہ میں ناچ باجا آتش بازی وغیرہ بہ غرض اعلان نکاح جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۷۳۳ھ)

الجواب: یہ اشیائے محرمہ جائز نہیں ہیں، البتہ اگر بہ ذریعہ دف کے اعلان کیا جاوے تو مضائقہ

نہیں ہے۔ کما ورد: اعلنوا هذا النکاح ولو بالذف أو كما قال صَلَّى اللہ علیہ وسلم (۱)

### حمد و نعت کے ساتھ دف بجانا سوئے ادبی ہے

سوال: (۵۱۳) ایک جماعت با وضو حلقہ باندھے ہوئے حمد و نعت رسول اللہ ﷺ بامناقب اولیاء کرام یا تعریف بزرگان دین میں قصائد پڑھیں اور ہمراہ دف بجائیں تو جائز ہے یا نہیں؟ اور دف کی شکل کس طور کی رہنی چاہیے؟ (۱۳۸۷/۱۳۳۹ھ)

الجواب: دف اور مزامیر کی حرمت نصوص میں وارد ہے (۲) اور حمد و نعت کے ساتھ محرمات شرعیہ کو جمع کرنا اور بھی زیادہ مذموم و قبیح ہے اور سوئے ادبی ہے۔ فقط

### تھیٹر کا تماشا کرانا اور دیکھنا

سوال: (۵۱۴)..... (الف) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کرشمہ اور مفصل زندگی کا نقشہ (ب) ڈاکٹر پیرس کا نور تھ پول کو تلاش کرنے کا تماشا۔ (ج) ڈاکٹر فاسٹ یعنی شیطان کے غلام کا تماشا۔ (د) عجائبات کرشمہ جنت و دوزخ وغیرہ، پس سوال یہ ہے کہ تھیٹر کا تماشا کرانا اور دیکھنا جس میں انبیاء علیہم السلام کے تماشے اور مذاہب کے تماشے کیے جاتے ہیں جائز ہے؟ اور وہ روپیہ جو اس تماشے سے حاصل ہو حرام ہے یا حلال؟ بعض حضرات اس کو حرام فرماتے ہیں اور سیکریٹری صاحب حلال کہتے ہیں۔ (۵۹۳/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: (الف-د) شرعاً کھیل اور تماشے سب حرام اور مذموم ہیں، آیات و احادیث و کتب فقہ سے حرمت لہو و لعب کی ثابت ہے۔ قَالَ اللہُ تَعَالٰی: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَأْدِيَةِ فَرَسٍ وَفِي رَوَايَةٍ مَلَا عَبْتَهُ بِفَرَسٍ وَرَمِيَهُ عَنْ قَوْسٍ وَ مَلَا عَبْتَهُ مَعَ أَهْلِهِ (شامی) اور

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالذفوف، رواه الترمذي (مشكاة المصابيح، ص ۲۷۲، کتاب النکاح - باب إعلان النکاح، الفصل الثاني)  
(۲) مزامیر کی حرمت کی تفصیل سوال (۵۴۴-۵۴۶) میں ملاحظہ فرمائیں۔

درمختار میں ہے: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام الخ (۱) پس محقق ہوا کہ تھیٹر کا تماشا کرنا اور کروانا اور دیکھنا اور شریک ہونا اس میں سب ناجائز ہے، خصوصاً انبیاء علیہم السلام کے تماشے کرنا اور ان کو آلہ لہو و لعب بنانا یا دین اسلام کو لہو و لعب بنانا سخت معصیت اور مفضی الی الکفر ہے، پس اس میں کسی قسم کی اعانت کرنا اور تماشا دیکھنے والوں کو ترغیب دے کر بھیجنا اور شریک تماشا کرنا حرام ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْفِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) پس وہ آمدنی جو بہ ذریعہ حرام حاصل ہو وہ بھی حرام ہے۔ فقط

سوال: (۵۱۵) ایک مجلس میں ایک تماشا اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کو ایک یہودی کی بیٹی بنا کر اسلام کا گرویدہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے دو شخص جن میں سے ایک کا فرضی نام ایمان اور دوسرے کا شیطان رکھا جاتا ہے؛ پیش کیے جاتے ہیں، عورت مذکورہ کی طرف سے ایمان کی محبت اور صداقت کا اظہار یقین ہوتا ہے اور ایمان اس کی تائید کرتا ہے، اور شیطان اسلام کے خلاف سخت سے سخت اور ناجائز سے ناجائز حملے اور اعتراض پیش کرتا ہے، اور ایمان ان کا جواب دیتا ہے، آخر میں اسلام کی فتح ہوتی ہے، اور شیطان ناکام قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسی تماشا میں یہودی کی لڑکی کا پارٹ ایک رقاصہ کرتی ہے جو بد چلن اور بد فعل ہونے کے علاوہ قرآن مجید کی آیتیں طبلے اور ہارمونیم پر گاتی ہے، اور بسا اوقات الفاظ قرآن غلط بھی پڑھتی ہے، اور ایمان اور شیطان کا تمثیل دو شخص کرتے ہیں وہ بھی اعمال ناشائستہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسا تماشا دیکھنا اور کرنا جائز ہے یا نہیں؟ باجوں سے قطع نظر کر کے اس میں اسلام کی اور مذہب کی توہین ہے یا نہیں؟ (۱۰۴۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: قال في الدر المختار: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنههم لإنكار المنكر الخ (۱) وفي الشامي: قال عليه الصلاة والسلام: لہو المؤمن باطل إلا في ثلاث الحديث (۱) پس معلوم ہوا کہ اس قسم کا تماشا کرنا اور اس کو دیکھنا اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ وہ لہو و لعب ہے، اور اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ تماشا اور لہو و لعب کیا جاتا ہے، اس میں بے شک استہزاء کرنا اور کرانا ہے اسلام کے ساتھ اور وہ حرام ہے، پس بند کرنا اس کو ضروری ہے: قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم (۱) فقط

### صحابی کا ڈراما کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۵۱۶) پٹیالہ کے مقامی مسلم اسکول نے ہرقل اور سفیر رسول اللہ ﷺ کا ڈراما کیا، ایک شخص کو نقل میں ہرقل بنایا، اور ایک شخص کو سفیر آنحضرت ﷺ، اور نامہ مبارک عربی میں پڑھا گیا اور ترجمان نے اس کا ترجمہ کر کے سنایا، ہرقل اور سفیر نے مکالمہ کیا، یہ جائز ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۲/۱۵۲۳ھ)

الجواب: جاء في الحديث: دع ما يُرِيك إلى ما لا يُرِيك (۲) وقال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةِ﴾ (سورة لقمان، آیت: ۶) اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی نقلیں اتارنا لَهْوَ الْحَدِيثِ میں داخل ہے اور ممنوع ہے، پس جب کہ کوئی غرض صالح اس قسم کی نقل اتارنے سے نہ ہو اور محض تماشا مقصود ہو تو فعل مذکور شرعاً جائز نہیں ہے، نیز اگر کوئی اچھی غرض اور نیت بھی اس میں ہو تب بھی اس سے بچنا چاہیے کہ اس میں استہزاء بالشریعت کا راستہ کھلتا ہے۔ فقط

### میلہ یا نمائش میں جانا کیسا ہے؟

سوال: (۵۱۷) میلہ یا نمائش وغیرہ میں بہ غرض خرید اشیاء جانا کیسا ہے؟ (۲۹/۶۷-۱۳۳۰ھ)  
الجواب: جہاں محض نمائش ہو اور کوئی میلہ و عرس نہ ہو اس میں بہ غرض خریدنے یا فروخت کرنے اشیاء کے جانا درست ہے، سیر کی غرض سے جانا اچھا نہیں، اور جس جگہ کوئی میلہ بھی پہلے سے ہے، اس میں نمائش بھی ہے اس میں جانا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) الصَّحِيح لمسلم: ۵۱/۱، کتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان الخ.  
(۲) عن أبي الحوراء السَّعْدِي قال: قلت لحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُ مَا يُرِيكُ إِلَى مَا يُرِيكُ الْحَدِيثُ (جامع الترمذي: ۷۸/۲، أبواب صفة القيامة، باب، قبيل أبواب صفة الجنة)

## کفار کے میلوں میں شریک ہونا کیسا ہے؟

سوال: (۵۱۸) جو بازار یا میلہ بتوں کی پرستش اور اس کی تقریب میں ہوا کرتا ہے، اس میں مسلمانوں کو شریک ہونا اور کسی قسم کی اعانت کرنا اور اظہارِ مسرت کرنا بہ حالت موجودہ جائز ہے یا نہیں؟ بر تقدیر عدم جواز مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی میلہ یا بازار مسلمانوں کے لیے قائم کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس کی مخالفت کرنا مسلمانوں کا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۵۲۰)

الجواب: کفار کی پرستش کے میلوں میں مسلمانوں کو شریک ہونا اور کسی قسم کی اس میں اعانت کرنا اور اظہارِ مسرت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اظہارِ مسرت میں خوفِ کفر ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور مسلمانوں کو کوئی بازار قائم کرنا اور اس میں بیع و شراء کرنا جائز ہے، اور اس کی مخالفت کرنا کفار کے ساتھ ہو کرنا جائز ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) فقط

## کفار کے مذہبی میلوں میں خرید و فروخت کے لیے جانا

سوال: (۵۱۹) ہندو کے میلوں میں خرید و فروخت کے لیے جانا درست ہے کہ نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۲)

الجواب: کفار کے مذہبی میلوں میں جانا اور کچھ خرید و فروخت کرنا درست نہیں، اس سے احتراز لازم ہے۔ فقط

سوال: (۵۲۰) ہندو کے میلے میں بہ غرض تجارت دکانیں لے جانا اور بہ غرض بیع و شراء جانا جائز ہے یا نہ؟ خصوصاً اس صورت میں جب کہ وہ میلہ ان کی پوجا اور بتوں کی جگہ سے ایک آدھ میل کے فاصلہ پر ہو؟ (۱۳۳۷ھ/۱۳۶)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: من کثر سواد قوم فهو منهم (۱) لہذا شرکت ایسے مجامع

(۱) أخرجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري من أبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: من كثر سواد قوم فهو منهم (فتح الباري: ۱۳/۴۷، كتاب الفتن، باب من كره أن يكثر الفتن والظلم، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت) ==



فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۱۶ ۲۷۱ کھیل، تماشے اور تصاویر وغیرہ کے احکام  
اور میلوں میں بہ غرض تجارت و بیع و شراء بھی درست نہیں ہے۔

### پٹا (لکڑی کا تماشا) کھیلنا

سوال: (۵۲۱) جو شخص دین کے علم سے واقف نہ ہو اس کے لیے کھیل جو اکثر ماہِ محرم کے شروع عشرہ میں ہوتا ہے جس کو پٹا کہتے ہیں اور باجا ڈھول بھی ہوتا ہے یہ کھیل بھی درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۹۴)

الجواب: کھیل کو د، لہو و لعب کسی قسم کا بھی درست نہیں ہے حرام ہے۔ درمختار میں ہے: اُن الملامی کلہا حرام (۱)

سوال: (۵۲۲) پٹا کھیلنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۹۱۲)

الجواب: عموماً پٹا کھیلنا لہو و لعب ہے اور لہو و لعب شرعاً حرام و ممنوع ہے۔ فقط

سوال: (۵۲۳) پٹا وغیرہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۶۸)

الجواب: پٹا وغیرہ کھیلنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی غرض صحیح اور نیت صالحہ کے ساتھ ہو اور لہو و لعب کی غرض سے نہ ہو جیسا کہ عموماً فساق و فجار کھیلے ہیں تو درست ہے۔

### سرکس دیکھنا کیسا ہے؟

سوال: (۵۲۴) سرکس کا تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنے والا کہتا ہے کہ سرکس دیکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ (۱۳۳۲/۱۶۳)

الجواب: بہ حکم: کل لہو المسلم حرام (۲) و نیز بہ حکم آیت کریمہ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةَ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) شرکت اس میں درست نہیں ہے۔

== من سوّد مع قوم فہو منهم (کنز العمال: ۶/۹، کتاب الصحبة، من قسم الأقوال، رقم الحديث: ۲۲۶۷۶، المطبوعة: دارالکتب العلمیة، بیروت)

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۸۱/۹، کتاب الحظر والإباحة – فصل فی البیع .

## بائس کوپ کا حکم

سوال: (۵۲۵) بائس کوپ (۱) کے تماشے کی مشین جاری کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۲۳۷۱ھ)  
 الجواب: شرعاً اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، احادیث و روایات فقہیہ سے اس کی حرمت ظاہر و باہر ہے اس میں کسی اہل علم و اہل تدین کو خلاف نہیں ہو سکتا، درمختار میں ہے: وفي السراج ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات إلخ (۲) فقط

## ہولی کھیلنا حرام ہے

سوال: (۵۲۶) اہل اسلام کے لیے ہولی کھیلنا کیسا ہے؟ (۱۳۴۲/۲۶۹۱ھ)  
 الجواب: مسلمانوں کو ہولی کھیلنا حرام ہے، اور ہنود کے ساتھ ہولی کھیلنے والا شخص فاسق ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور ہرگز ہنود کو اجازت نہ دے کہ وہ اس پر رنگ ڈالیں۔ فقط

## گشتی لڑنا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۵۲۷) گشتی بلا شرط یا شرط سے لڑنا لڑانا اور اس کے بعد دونوں کو یا ایک کو لوگوں کی طرف سے بہ طور انعام کے کچھ دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۹۴۳ھ)  
 الجواب: یہ لہو و لعب ہے اور جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی نیت صحیحہ کے ساتھ ہو اور کسی فعل حرام مثل کشف عورت وغیرہ کا ارتکاب نہ ہو تو اس صورت میں مضائقہ نہیں ہے۔

سوال: (۵۲۸) مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں گشتی لڑنا درست ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص

(۱) بائس کوپ (Biscope) بچوں کو تماشہ دکھانے کی مشین جس میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچے ان شیشوں میں دیکھتے ہیں تو فلم میں جو کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ۱۲  
 (۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

ورزش جسمانی کے لیے کشتی کرتا ہے تو کس طریقے سے کرے؟ (۱۳۳۳/۲۲۵۶ھ)

الجواب: کشتی کرنا جیسا کہ عام طور سے بہ طریق لہو و لعب و کشف عورت وغیرہ مروج ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لہو و لعب شریعت میں حرام ہے۔ قال فی الدر المختار: إن الملاهي كلها حرام (۱) البتہ اگر تہائی میں بہ غرض ورزش و حصول قوت بہ مقابلہ اعدائے دین کی جائے تو جائز ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (سورہ انفال، آیت: ۶۰) فقط

### کشتی کا دنگل قائم کرنا اور ٹکٹ مقرر کرنا

سوال: (۵۲۹)..... (الف) آج کل عموماً لنگوٹ یا جانگھیا باندھ کر کشتی لڑی جاتی ہے، جس میں بے ستری ہوتی ہے، اس طرح کشتی لڑنا اور دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) دنگل کشتی کا قائم کرنا اور اس میں ٹکٹ مقرر کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/۱۶۴۴ھ)

الجواب: (الف) فی الحدیث: الفخذ عورة (۲) پس کشتی کرنا لنگوٹ وغیرہ باندھ کر جس میں کشف عورت ہو جائز نہیں ہے، اور کشتی کرنا اگر اچھی نیت سے ہو تو وہ اگرچہ درست ہے، لیکن لہو و لعب کے طریقے سے جیسا عموماً مروج ہے جائز نہیں ہے۔

(ب) اور دنگل قائم کرنا اور ٹکٹ مقرر کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دنگل وغیرہ قائم کرنا لہو و لعب و تماشا ہے اور لہو و لعب حرام ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) در مختار میں ہے: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام وفي الشامي: قال عليه الصلاة والسلام لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه وفي رواية: ملاعبته بفرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله (۳) (شامي) فقط

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۴۲۴/۹، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

(۲) عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد، هذا من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا و فخذني منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة (سنن أبي داود: ص: ۵۵۷، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري)

(۳) الدر والشامي: ۴۲۴/۹، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

## گشتی میں ہار جیت کے لیے روپیہ مقرر کرنا اور گشتی جیتنے کے لیے اکھاڑا پر قرآن ختم کرنا

سوال: (۵۳۰) ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کانٹے کی کشتی لڑنا جس میں مغلوب کرنا اور ذلیل کرنا مقصود ہو جائز ہے یا نہیں؟ اور ہار جیت کے لیے روپیہ مقرر کرنا یعنی جو شخص کشتی جیتے وہ سو روپیہ پائے، دوسرے کشتی جیتنے کے لیے قرآن شریف کا ختم کرنا اکھاڑا پر جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۷ھ/۲۶/۳۲۱)

الجواب: کشتی اور ورزش بہت مفید اور ضروری چیز ہے، اور جو لوگ کشتی لڑتے ہیں ان کے لیے ورزش کرنا لابدی اور ضروری ہے جو کہ صحت اور قوت کے لیے مفید ہے، لہذا کشتی لڑنا جائز بلکہ مستحسن ہے (۱) اور ورزش کرنا بہ اعتبار صحت و قوت کے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کی طرف سب کو توجہ کرنی چاہیے، البتہ ہار جیت کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا اور طعن و تشنیع کرنا نہایت مذموم اور ناجائز ہے، جو شخص ایسا کرے گا، وہ گنہگار ہوگا، اور کشتی جیتنے والے کو کچھ روپیہ بہ طور انعام کے دینا جیسا کہ امراء و رؤساء دیتے ہیں جائز ہے، البتہ ہار جیت کی وجہ سے آپس میں روپیہ لینا دینا ناجائز ہے۔

اور اکھاڑا پر ختم قرآن شریف کا کرنا نہیں چاہیے، اور نہ اس کی کچھ ضرورت ہے، بلکہ قرآن شریف کی بے ادبی کا خوف ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ فقط

## تاش کھیلنا کیسا ہے؟

سوال: (۵۳۱) تاش کھیلنا خاص کر رمضان شریف میں روزہ کی حالت میں کیسا ہے؟ روزہ میں کچھ نقص تو نہیں آیا؟ (۱۳۳۰ھ/۲۹/۴۰۵)

الجواب: حرام ہے، خصوصاً رمضان شریف میں زیادہ برا ہے کہ روزہ کی حالت میں کھیل میں (۱) لیکن گشتی کرنا لنگوٹ وغیرہ باندھ کر جس میں کشفِ عورت ہو جائز نہیں ہے، جیسا کہ سوال (۵۲۹) کے جواب میں گذرا۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

مشغول ہو۔ فقط

سوال: (۵۳۲) تاش کھیلنا اور دوسروں کو بلا کر کھلانا کیسا ہے؟ اور کھیلنے اور کھلانے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۷/۳۶۴ھ)

الجواب: تاش کھیلنا حرام ہے اور جو شخص تاش کھیلے اور کھلاوے وہ گنہگار ہے۔ درمختار میں ہے: کل لھو المسلم حرام (الحديث) (۱) فقط

سوال: (۵۳۳) غیبت سے بچنے کے لیے تاش کھیلنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۰/۱۶۳۱ھ)

الجواب: جائز نہیں ہے۔

سوال: (۵۳۴) تاش کھیلنا کیسا ہے؟ جواب ہے یا نہیں؟ اور آیت کریمہ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ میں داخل ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۸۵۸ھ)

الجواب: تاش کھیلنا حرام ہے کیونکہ یہ ایک لہو و لعب ہے، اور تمام لہو و لعب شریعت میں حرام ہیں۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) اور اگر تاش کھیلنے میں کوئی شرط ہارجیت کی لگائی جائے گی تو پھر وہ آیت: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْآيَةُ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۹۰) میں داخل ہو جائے گا اور حرام قطعی ہوگا۔ فقط

### بہ وقت ورزش بینڈ باجا بجانا حرام ہے

سوال: (۵۳۵)..... (الف) بعض اسلامیہ اسکولوں میں طلباء کو ورزش کراتے وقت بینڈ باجا بجایا جاتا ہے، اور اس کے جواز کے لیے مصری، ترکی، انگریزی فوجی طریقہ سے استدلال کیا جاتا ہے، آیا بینڈ باجا مطلقاً جائز ہے یا ناجائز؟ یا بعض جگہ جائز اور بعض جگہ ناجائز؟

(ب) نیز اسکولوں میں بعض وقت مجلس منعقد کی جاتی ہے جس میں انگریزی طرز کے ڈرامے کیے جاتے ہیں اور ہارمونیم برابر بجتا رہتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۷-۳۶/۳۳۲۸ھ)

الجواب: (الف) بینڈ باجا بجانا اور سننا حرام اور ناجائز اور معصیت ہے، اور محفوظ ہونا اس سے کفران نعمت ہے۔ درمختار میں فتاویٰ سراجیہ سے نقل کیا ہے: وفي السراج: ودلت المسئلة

أن الملاهي كلها حرام إلخ قال ابن مسعود رضي الله عنه : صوت اللّهُو والغناء يثبت النّفاق في القلب كما يثبت الماء النّبات. قلت: وفي البزّازية: استماع صوت الملاهي كضرب قَصَب ونحوه حرام لقوله عليه الصّلاة والسّلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر أي بالنّعمة ، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنّعمة لا شكر فالواجب كلّ الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روى أنّه عليه الصّلاة والسّلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه الخ (۱) اور مصری و ترکی فوجی طریقہ سے مطلقاً باجا کے جواز پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ لڑائی میں چونکہ مقابلہ دشمن سے ہوتا ہے، اور دشمن کو مغلوب و مرعوب کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہاں دشمن کو مرعوب کرنے کی غرض سے اس قسم کی باتیں جائز ہو جاتی ہیں، مثلاً سیاہ خضاب کرنا مکروہ ہے، لیکن لڑائی میں فقہاء نے دشمن کو مرعوب کرنے اور اس پر ہیبت ڈالنے کے لیے سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو محمود فرمایا ہے، اور زینت کے لیے سیاہ خضاب کرنا مکروہ لکھا ہے (۲) اسی طرح ناخن کٹوانا اور مونچھیں کٹوانا مستحب اور سنت ہے، لیکن دارالحرب میں غازی کے لیے ناخن اور مونچھوں کو بڑھانا مستحب لکھا ہے۔ درمختار میں ہے: و يستحبّ قلم أظافيره إلا لمجاهد في دار الحرب فيستحبّ توفير شاربه وأظفاره إلخ اور شامی میں ہے: وفي المنع ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا: وَقَرُّوا الْأَظْفِيرَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ السِّلَاحُ مِنْ يَدِهِ وَقَرَّبَ الْعَدُوَّ مِنْهُ رُبَّمَا يَتِمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِأَظْفِيرِهِ وَهُوَ نَظِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ، وَتوفيره في دار الحرب للغازی مندوب ليكون أهيب في عين العدو اهـ ملخصاً (۳)

اسی طریقے سے اگر لڑائی کے موقع پر دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنی فوج کو براہیجنتہ کرنے کے لیے ہینڈ باجا بجایا جائے تو جائز ہے، اور اگر محض لہو و لعب کی نیت سے بجایا جائے تو ممنوع

(۱) الدرّ مع الشّامي: ۴۲۳/۹-۴۲۶، أوائل كتاب الحظر والإباحة .

(۲) (ویکرہ بالسّواد) أي لغير الحرب. قال في الذّخيرة: أمّا الخضاب بالسّواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنّساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ. (الشّامي: ۵۱۸/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

(۳) الدرّ المختار والشّامي: ۴۹۵/۹، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

ہے، اور علاوہ لڑائی کے بینڈ باجا بجانا اور سننا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، اسکول میں ورزش کراتے وقت بھی باجا بجانا حرام اور ناجائز ہے، اور جو ماسٹر اور استاد اس میں ساعی ہوں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے اور یہ اعانت علی المعصیت ہوگی جو کہ ممنوع ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) فقط (ب) یہ بھی اہو لعب ہے، اور ممنوع ہے۔ فقط

### گھنٹہ بجانے والی گھڑیوں کا حکم

سوال: (۵۳۶) رسول اللہ ﷺ نے جو ممانعت جرس فرمائی ہے اس میں گھنٹہ بجانے والی گھڑیاں شامل ہیں یا نہیں؟ اور گھونگر وغیرہ جو اکثر زیورات میں شامل ہوتے ہیں شامل ہیں یا نہیں؟ (۱۲۰/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: گھنٹہ بجانے والی گھڑیاں جرس محرم میں داخل نہیں ہیں، اور گھونگر و زیورات اس میں داخل ہیں کہ اس کی ممانعت صراحتاً وارد ہوئی ہے (۱) اور گھڑی سے اندازہ اوقات کا ہوتا ہے اور اس امر کی شرعاً ضرورت ہے کما لا یخفی۔ اور ایسے امور میں مدار نیت پر ہے، بلکہ جملہ امور میں نیت کا اعتبار ہے، اگر گھنٹہ بجانے والی گھڑی سے بھی نیت اور غرض گھنٹہ کا سننا اور اس کی آواز متصل سے خوش ہونا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا، اور اگر اوقات کا معلوم ہونا اور اوقات نماز کی پابندی کا خیال اور نیت ہو تو ثواب حاصل ہوگا، جرس عرفاً خود معلوم ہے، لیکن ضرورت اور غیر ضرورت کی وجہ سے جواز و عدم جواز کا فرق ہو جاتا ہے، ریل کی گھنٹی بھی جرس ہے، مگر بہ وجہ ضرورت کے اور اطلاع

(۱) عن ابن الزبیر أن مولاً لهم ذهب بانبنة الزبیر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رجلها أجراس فقطعها عمر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع كل جرس شيطان، رواه أبو داود.

و عن بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخلت عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود (مشكاة المصابيح: ص: ۳۷۹، كتاب اللباس - باب الخاتم - الفصل الثاني)

کرنے کی نیت سے اس کا بجانا درست ہے، وقس علیہ۔ قاعدہ ہے: الضَّرُورات تبیح المحظورات (۱) ضرورتیں بعض ممنوعات کو بھی جائز کر دیتی ہیں مگر فقہاء کے اقوال و تفصیل کو اس میں پیش نظر رکھنا چاہیے، ممکن ہے جس کو ہم ضرورت سمجھیں وہ شرعاً ضرورت نہ ہو اور فقہاء اس کو ضرورت نہ سمجھیں، باقی اختلاف علماء سے مشوش نہ ہوں، اول تو اختلاف الأئمة رحمة (۲) کو پیش نظر رکھیں، علاوہ بریں علماء میں سے ان علماء کے اقوال و افعال کو لیویں جو متبع سنت خفی اہل سنت و جماعت جامع ظاہر و باطن ہوں، بندہ کی رائے میں آج کل حضرت مولانا اشرف علی صاحب سلمہ تھانوی کی تصانیف کو پیش نظر رکھیں اور وہ کتابیں منگوالیں، فہرست ان کتابوں کی تھانہ بھون سے منگا کر دیکھ لیں۔ فقط

### نماز کی آگاہی کے لیے مسجد میں نقارہ بجانا

سوال: (۵۳۷) مسجد میں واسطے حاضری نمازیوں کے نقارہ بجانا کیسا ہے؟ (۷۰۷/۲۹-۱۳۳۰ھ)  
الجواب: اذان کہیں، نقارہ مسجد میں حاضری کے واسطے درست نہیں ہے۔

سوال: (۵۳۸) جو لوگ شہر سے میل دو میل کے فاصلہ پر کام کرتے ہیں، اور ان کو جمعہ کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اور بعض دفعہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ آج کیا دن ہے، اگر ایسے لوگوں کی

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۱۷۵/۵، کتاب الطلاق - باب العدة، فصل في الحداد .  
(۲) آنحضرت ﷺ سے حدیث کے یہ کلمات ثابت نہیں، بلکہ حدیث کے کلمات یہ ہیں: اختلاف أصحابي لكم رحمة. شامی میں ہے: قال في المقاصد الحسنة رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيت من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد من تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأیما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة و أورده ابن الحاجب في المختصر بلفظ اختلاف أمتي رحمة للناس وقال ملا علي القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند. (رد المحتار: ۱/۱۵۵، مقدمة - مطلب: في حديث اختلاف أمتي رحمة)



اطلاع کے لیے نقارہ جمعہ کے دن وقت ۱۲ بجے کے بجایا جاوے تو درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۰/۶۵۶ھ)

الجواب: صورت مذکورہ میں بہ غرض اطلاع نمازیں نقارہ بجانا درست ہے (۱)

سوال: (۵۳۹) بعد اذان کے نقارہ بجانا واسطے اطلاع اور جمع کرنے نمازیوں کے جائز

ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۷۹۵ھ)

الجواب: اذان کے بعد بہ غرض اطلاع نمازیں نقارہ بجانا ممنوع ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے،

اور اوقات نماز میں شریعت میں وسعت ہے۔ فقط

### سحر و افطار کی آگاہی کے لیے نقارہ بجانا

سوال: (۵۴۰) مسجد کے حجرہ کی چھت پر رمضان المبارک میں سحر کے واسطے نقارہ بجانا جائز

ہے یا نہیں؟ یہ نقارہ ۲ بجے سے سحر تک ایسا متواتر زور سے بجایا جاتا ہے کہ چار پانچ منٹ کو بھی بند نہیں ہوتا، جس سے نمازی اور مریض کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اس کا اسناد ممکن ہے کہ ہر گھنٹہ میں کئی مرتبہ تین چار منٹ کے واسطے بجایا جاوے اور اخیر میں ممانعت کے واسطے دس بارہ منٹ بجاتا ہے۔

شرعاً جو ارشاد ہو مطلع فرمائے۔ (۱۳۳۰/۱۸۷۳ھ)

الجواب: نقارہ مذکورہ جو بہ غرض اطلاع وقت سحر وغیرہ بجایا جاتا ہے درست ہے، لیکن اس

کے ساتھ یہ ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ ناٹمین (سونے والوں) و مصلین (نمازیوں) و مرضی (بیماروں)

کو تکلیف و انتشار نہ ہو (۲) سو اس کی صورت وہ بہتر ہے جو سوال میں درج ہے کہ نقارہ کے اوقات

حسب ضرورت متعین کر دیے جاویں، اور زیادہ ممتد نہ بجایا جاوے، بلکہ قدر حاجت پر اکتفا کیا

جاوے۔ در مختار میں ہے: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبیه فلا بأس به، كما إذا

(۱) مگر بہتر یہ ہے کہ نقارہ نہ بجایا جائے، بلکہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی جائے، تاکہ اذان کی آواز دور تک پہنچ

جائے۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری

(۲) أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن

يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ (الشامي: ۲/۳۷۷، كتاب الصلاة، مطلب في

رفع الصوت بالذكر)

ضرب فی ثلاثة أوقات الخ (۱) وفي رد المحتار: وينبغي أن يكون بُوق الحَمَام يجوز كضرب النوبة، وعن الحسن: لا بأس بالذَّف في العرس لِيشتهر الخ . أقول: وينبغي أن يكون طبل المُسَحَّر في رَمَضانَ لا يقاظ النائمین للسَّحور كَبُوق الحَمَام (۱) فقط

### مدارس میں اوقات کی آگاہی کے لیے گھنٹہ بجانا

سوال: (۵۴۱) عن علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابتة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه و في رجلها أجراسٌ فقطعها عمر، ثم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع كل جرس شيطاناً (۲) (رواه أبو داود، كتاب الخاتم: ۲/۲۲۹)

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها..... وقالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس (۲) (رواه أبو داود كتاب الخاتم: ۲/۲۳۰) ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھنٹہ بجانا حرام ہے، مدارس عربیہ میں اوقات معلوم کرنے کو گھنٹہ بجانا جس طرح دارالعلوم میں بجاتا ہے اس میں تردد معلوم ہوتا ہے، تحقیق سے مطلع فرمائیں۔ (۱۸۴۸/۱۳۳۰ھ)

الجواب: رد المحتار میں ہے: أقول: وهذا يفيد أن آلة اللّهُو ليست محرّمة لعينها، بل لقصد اللّهُومنها: إمّا من سامعها، أو من المشتغل بها، وبه تُشعر الإضافة، ألا ترى أنّ ضرب تلك الآلة بعينها حلّ تارةً وحُرْم أخرى باختلاف النّية، والأُمور بمقاصدها — إلى أن قال — عن الإمام البرذوي وينبغي أن يكون بُوق الحَمَام يجوز كضرب النوبة، وعن الحسن: لا بأس بالذَّف في العرس لِيشتهر. وفي السَّراجية: هذا إذا لم يكن له جَلَجَلٌ ولم يُضرب على هيئة التَّطَرُّب. أقول: وينبغي أن يكون طبل المُسَحَّر في رَمَضان لا يقاظ النائمین للسَّحور كَبُوق الحَمَام الخ (۳) (كتاب الحظر والإباحة) پس اوّل تویہ گھنٹہ مدارس

- (۱) الدر المختار و رد المحتار: ۹/۳۲۶-۳۲۷، كتاب الحظر والإباحة - قبيل: فصل في اللبس  
(۲) سنن أبي داود: ص: ۵۸۱، كتاب الخاتم - باب ما جاء في الجلاجل .  
(۳) الشامي: ۹/۳۲۶-۳۲۷، كتاب الحظر والإباحة - قبيل: فصل في اللبس .

کا جرس اور جلاجل نہیں ہے، اور پھر یہ مثل بڑی گھڑی بجنے والی کے ہے کہ اس سے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور مقصود اس سے لہو نہیں ہے اور وجہ ممانعت جرس لہو و لعب ہے، جیسا کہ **إِنْ مَعَ كَلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا (۱)** سے ظاہر ہے اور جب کہ دف بھی مزامیر میں سے ہے اور وہ بہ غرض صحیح نص سے جائز ہے **(۲)** تو یہ قاعدہ فقہاء کا مستنبط من الاحادیث ہے: **إِنْ آلَةُ اللّٰهُو لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِّعَيْنِهَا بَلْ لِقَصْدِ اللّٰهُو مِنْهَا (۳)** فقط

سوال: (۵۴۲) افتتاح مدرسہ اور جماعت کی تبدیل کے لیے گھنٹہ بجانا درست ہے یا نہ؟

(۱۳۴۵-۴۴/۲۶۱ھ)

الجواب: اوقات مدرسہ کے افتتاح و اختتام و تبدیل اسباق کی اطلاع کے لیے گھنٹہ بجانا درست ہے جیسا کہ عام مدارس اسلامیہ میں معمول ہے۔ ومارآہ المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن ولا سيماً إذا فعله قوم من الصالحاء الأخيار (۴)

## قوالی کا حکم

سوال: (۵۴۳) قوالی دف کے ساتھ سننا اور مضامین قوالی بھی عارفانہ ہوں تو عند الشرع

جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۸۰۷ھ)

الجواب: شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ درمختار میں ہے: وفي السراج: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صوت اللّٰهُو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النّبات. قلت:

(۱) سنن أبي داود: ص: ۵۸۱، كتاب الخاتم - باب ما جاء في الجلاجل .

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النّكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدّفوف، رواه الترمذي (مشكاة المصابيح، ص: ۲۷۲، كتاب النّكاح - باب إعلان النّكاح، الفصل الثّاني)

(۳) الشّامي: ۴۲۶/۹-۴۲۷، كتاب الحظر والإباحة - قبيل: فصل في اللّبس .

(۴) عمدة القاري شرح البخاري: ۶۱/۸، كتاب الجنائز - باب من استعدّ الكفن في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يُنكر عليه .

وفي البزازیة : استماع صوت الملاهی كضرب قَصَب ونحوه حرام الخ (۱) فقط  
سوال: (۵۴۴) بعض بعض عرسوں میں اولاً چند آیتیں قرآن شریف کی یا کوئی پوری سورت  
تَبْرُکًا تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے بعد اسی مجلس میں قوال میراثی کچھ غزلیں اور نعتیں مع آلات  
ملاہی مثل سارنگی، باجے وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا ایسی مجالس اور عرس؛ شریعت میں عموماً اور مذہب حنفی  
میں خصوصاً جائز و درست ہیں یا حرام و ناجائز؟ اور ایسی مجالس میں اہل اسلام کا شامل ہونا جائز ہے  
یا نہیں؟ بینواتو جروا (۱۰۸۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: قلت: وفي البزازیة: استماع الملاهی كضرب قَصَب  
ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهی معصية، والجلوس عليها  
فسق الخ، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روى أنه عليه الصلاة  
والسلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه الخ (۲) پس معلوم ہوا کہ ایسی مجلس میں شریک ہونا  
جائز نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۵۴۵) قوالی یعنی حمد باری یا نعتِ نبی ﷺ یا بزرگان دین کی تعریف ڈھولک ستار  
سارنگی یا اور کسی قسم کے باجے کے ساتھ سننا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹۸۵/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: مزامیر کے ساتھ کسی قسم کے اشعار کا سننا اور اس مجلس میں بیٹھنا درست نہیں ہے،  
آیات و احادیث و اقوال ائمہ دین سے اس کی حرمت ثابت ہے، چنانچہ آیت کریمہ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ  
مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورۃ لقمان، آیت: ۶) سے مفسرین نے حرمت غناء ثابت فرمائی ہے  
اور مزامیر کی حرمت متفق علیہ ہے۔ فقط

سوال: (۵۴۶) قوالی سننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور سلف صالحین سے ثابت ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳/۵۲۶ھ)

الجواب: حنفیہ کا مسلک اس بارے میں احتیاط کا ہے کہ سماع مجرد سے بھی منع کرتے ہیں، اور  
مزامیر کی حرمت تو متفق علیہ ہے۔ درمختار میں ہے: وفي البزازیة: استماع صوت الملاهی

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۴/۹-۴۲۵، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۵/۹-۴۲۶، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

کضرب قصب ونحوہ حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع ، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعة في أذنه عند سماعه الخ (۱)

وفيه قبيله : قال ابن مسعود رضي الله عنه : صوت اللّهُو والغناء يثبت النّفاق في القلب كما يثبت الماء النّبات (۲)

شامی میں ہے: قوله: (قال ابن مسعود رضي الله عنه) رواه في "السّنن" مرفوعاً إلى النّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلّم بلفظ "إن الغناء يُثبت النّفاق في القلب الخ" وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لأبأس به، وبه أخذ السرخسي. وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةَ﴾ (لقمان، الآية: ۶) جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحُكْمُ والمواعظ (۲) فقط

### گراموفون میں قرآن پاک بھرنا اور سننا

سوال: (۵۴۷) گراموفون میں جو اکثر حفاظ وقاری خوش الحان ریکارڈ بھرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور بہ خیال خوش الحانی اس کا سننا کیسا ہے؟ (۳۲/۱۲۹-۱۳۳۳ھ)

الجواب: یہ فعل یعنی گراموفون میں قرآن شریف کا بھرنا اور اس کا سننا پسندیدہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ باجا مذکور از قسم لہو و لعب ہے جو بالکلیہ خود بہ استثناء بعض صور کے شریعت میں حرام ہے، پس قرآن پاک کو اس صورت و صوت میں لانا اور بہ ذریعہ آلہ لہو اس کا سننا ایسا ہے کہ ستار و سارنگی میں قرآن پاک گایا جائے اور اس کو سنا جاوے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ .

سوال: (۵۴۸) فونوگراف باجا کے ذریعہ کلام اللہ اور نعت وغیرہ سننا جائز ہے یا نہیں؟ اور

(۱) الدر المختار مع الرد: ۹/۳۲۵-۳۲۶، أوائل كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس.

(۲) الدر والشامي: ۹/۳۲۴، أوائل كتاب الحظر والإباحة.

اس کے سماع کے شغل میں جماعت مفروضہ دانستہ ترک کرنی کیسی ہے؟ اور باجاسنے والا بھی ایک عالم اور مقتداۓ خلق ہو کر مرتکب اس امر کا ہو تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۳/۸۹۰ھ)

الجواب: کلام اللہ سننا باجا مذکورہ میں جائز نہیں ہے، اسی طرح نعت و غزل وغیرہ سننا بھی باجا مذکورہ میں درست نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جملہ مزامیر اور باجوں کے سننے سے منع فرمایا ہے (۱) اور قرآن شریف میں بھی اس کی ممانعت ہے کما حررہ الفقہاء (۲) اور جب کہ ترک جماعت اس کی وجہ سے ہو تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، تارک جماعت بدون کسی عذر شرعی کے فاسق ہو جاتا ہے، پس عالم و مقتدا شخص کو ایسے امور سے بالخصوص اجتناب لازم ہے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو گمراہی ہوتی ہے، اور شخص مذکور مصداق حدیث: فضلوأضلو (۳) کا ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ الْآيَةُ﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۶) فقط

### تیتربازی اور مرغ بازی سکھانا

سوال: (۵۴۹) کوئی شخص تیتربازی و مرغ بازی کا استاد ہے، لوگوں کو لڑانے کی ترکیب

(۱) استماع الملاہی کضرب قَصَب ونحوہ حرام لقولہ علیہ الصَّلَاة والسلام: استماع الملاہی معصیۃ، والجلوس علیہا فسق الخ، فالواجب کل الواجب أن یجتنب کی لا یسمع لما روی أنه علیہ الصَّلَاة والسلام أدخل إصبعه فی أذنه عند سماعه الخ (الدرا المختار مع الشامی: ۳۲۵-۳۲۶/۹ أوائل کتاب الحظر والإباحة)

(۲) وذكر شیخ الإسلام أن کل ذلك مکروه عند علمائنا واحتج بقولہ تعالیٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةُ﴾ (لقمان، الآیة: ۶) جاء فی التفسیر: أن المراد الغناء (الشامی: ۳۲۳/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة)

(۳) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: إن اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً، فُسِّلُوا فافتوا بغير علم، فضلوا و أضلوا (صحیح البخاری: ۲۰/۱، کتاب العلم، باب کیف یقبض العلم وکتب عمر بن عبد العزیز الخ)

بتاتا ہے، مگر خود نہ تو لڑاتا ہے نہ لڑائی دیکھتا ہے؛ یہ سکھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۸۱۶/۱۳۳۱ھ)  
الجواب: یہ بھی گناہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ سکھانا اس کا زیادہ گناہ ہے۔ فقط

### کبوتر پالنا اور اڑانا کیسا ہے؟

سوال: (۵۵۰) کبوتر پالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اڑانا کیسا ہے؟ (۱۲۹۵/۱۳۳۸ھ)  
الجواب: پالنا کبوتر کا درست ہے، لیکن اڑانا درست نہیں ہے (۱)

### بلا شرط مرغ لڑانا کیسا ہے؟

سوال: (۵۵۱) بلا شرط کے مرغ لڑانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۹۱/۱۳۳۰ھ)  
الجواب: جائز نہیں ہے (۲)

### ناچنا اور گانا حرام ہے

سوال: (۵۵۲) ناچنا پینا گانا جائز ہے یا حرام؟ (۱۲۸۶/۳۳-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ فقط

سوال: (۵۵۳) گانا بجانا مع ساز و سامان کیسا ہے؟ (۳۸۵/۱۳۳۷ھ)

الجواب: گانا بجانا مع باجا کے حرام ہے، احادیث وفقہ سے اس کی حرمت ثابت ہے (۳)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة،

فقال: شيطان يتبع شيطانة (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۶، كتاب اللباس، باب التصاوير،

الفصل الثاني، وأبو داود: ص: ۶۷۵، كتاب الأدب، باب في اللعب بالحمام)

(۲) مشكاة کے حاشیہ میں ہے: قال النووي: اتّخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس جائز بلا

كراهة، وأما اللعب بها بالتطير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردّت

الشهادة، طيبي (حاشیہ: ۶، ص: ۳۸۶، باب التصاوير، الفصل الثاني)

(۳) استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام:

”استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر“ أي بالنعمة، فصرف

الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر (الدر المختار مع الشامي: ۴۲۵/۹، أوائل

كتاب الحظر والإباحة)

سوال: (۵۵۴) ایک قسم کا گانا ہے جس کو اکثر ہنود کی عورتیں و نیز فاحشہ بازاری عورتیں گایا کرتی تھیں، اور اب بھی گاتی ہیں، اب تھوڑے زمانے سے مردوں میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے، اور اس میں وہ مسلمان بھی شرکت کرتے ہیں جو صوم و صلاۃ کے پابند ہیں شرعاً کیا حکم ہے؟

(۱۳۴۳/۹۴۱ھ)

الجواب: گانا بجانا شرعاً حرام ہے اور مرتکب اور شرکاء ایسی مجالس کے فساق و فجار اور شرار، بدکار ہیں، مسلمانوں کو ایسی مجالس میں شرکت سے احتراز کرنا لازم ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ انعام، آیت: ۶۸) فقط

سوال: (۵۵۵) ایک مولوی صاحب نے اپنے وعظ میں یہ بیان فرمایا کہ جو شخص ڈھول باجانے، اور اس سے لذت حاصل کرے اس کی بی بی کو طلاق پڑ جاتی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟

(۱۳۴۵/۳۰۰۲ھ)

الجواب: بے شک ڈھول باجانا اور اس سے لذت حاصل کرنا حرام ہے، اور وہ شخص فاسق ہو جاتا ہے، مگر اس کو کافر نہ کہا جاوے، اور اس کی زوجہ اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی۔

### گانے کی اجرت میں کچھ دینا

سوال: (۵۵۶) گانا بجانا سننا اور اجرت میں کچھ دینا کیسا ہے؟ جو علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۸۰۶ھ)

الجواب: گانا بجانا سننا حرام ہے اور ایسے لوگوں کو کچھ دینا بھی گناہ ہے، کوئی مسلمان متقی کبھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھ سکتا اور اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا اور جو ایسا کرے وہ جاہل و گمراہ ہے۔ فقط

### مسجد کے سامنے باجا بجانا

سوال: (۵۵۷) مسجد کے روبرو باجا بجانا کیسا ہے؟ ایک مسجد کی تعمیر کے وقت زید اور بکر نے سرکار میں اس امر کا چلک (عہد نامہ) دے دیا تھا کہ اگر مسجد کے روبرو باجا بجا جائے تو وہ کوئی تعرض نہ کریں گے، اس صورت میں کیا مسجد کے روبرو باجا بجا جاسکتا ہے؟ زید اور بکر کا یہ چلک شریعت میں



کیا حکم رکھتا ہے؟ (۱۳۴۱/۶۹۳ء)

الجواب: اس میں شک نہیں ہے کہ اگر حکام اس کا انتظام کر دیں کہ مسجد کے قریب باجانہ بجے تو یہ امر نہایت اہم اور مستحسن ہے، بالخصوص اوقات نماز میں جتنا باجانہ بجانے کو روک دینا لازم ہے، تاکہ اہل اسلام بہ اطمینان قلبی اپنے فریضہ عبادت کو ادا کریں، مسلمانوں کو اس میں سعی اور کوشش لازم ہے، یعنی حتی الوسع باجا کے انسداد میں کوشش کریں، خصوصاً نماز کے اوقات میں باجا کے بند ہونے کی درخواست کریں، اور زید اور بکر کا یہ اقرار کرنا اور مچلکہ دینا کہ اگر مسجد کے روبرو باجا بجے گا تو وہ اس سے کچھ تعرض نہ کریں گے قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کی پابندی مسلمانوں پر لازم نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام یہ عذر کریں کہ یہ اقرار ان کا عموماً مخالف شریعت ہے، اس لیے اہل اسلام اس کے پابند نہ ہوں گے، البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو اس پر جنگ و جدال اور قتل و قتال نہ کرنا چاہیے، بلکہ بذریعہ حکام جہاں تک ہو سکے کوشش اس کے انسداد کی کریں، یا خود ہندوؤں سے اس کو مصالحت طے کر لیں کہ خصوصاً نماز کے اوقات میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کی حالت میں وہ اس امر محل عبادت سے باز رہیں، اس کے بعد واضح ہو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۶) پس اہل اسلام کوشش باجا کے انسداد میں کریں، لیکن لڑائی اور مار پیٹ نہ کریں کہ بہ صورت مجبوری اہل اسلام مجبور اور معذور ہیں، ہندوؤں کے اس فعل سے اہل اسلام پر کچھ عتاب اور عقاب نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (۱)

سوال: (۵۵۸) مساجد کے سامنے باجا بجانا شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے یا نہیں؟ بعض لیڈر یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں باجا کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ (۱۳۴۷-۴۶/۸۴۵ء)

الجواب: مسلمانوں کو بے شک آداب مسجد کا خیال کرتے ہوئے اور نمازیوں کی نماز کو خلل سے بچانے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اول تو باجا بجانے سے مطلقاً پرہیز کریں، اور بالخصوص مسجد کے سامنے اوقات نماز میں اس فعل قبیح کو بالکل چھوڑیں، لیکن ظاہر ہے کہ کفار مشرکین احکام اسلام کے پابند نہیں ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں، اس لیے مناسب یہ تدبیر ہے کہ بہ

(۱) (سورہ انعام، آیت: ۱۶۴، سورہ اسراء، آیت: ۱۵، سورہ فاطر، آیت: ۱۸، سورہ زمر، آیت: ۷) فقط

ذریعہ حکام ان کو اوقات نماز کے وقت مسجد کے قریب باجا بجانے سے رکوا یا جائے، خود کوئی جھگڑا لڑائی اس وجہ سے نہ کی جائے، کیونکہ نماز ہر حال ہو جاتی ہے۔ فقط

### ورزش کے لیے فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کھیلنا

سوال: (۵۵۹) فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، جو محض ورزش کے لیے کھیلیں اور ان میں کوئی امر خلاف شریعت نہ ہو جائز ہے یا نہیں؟ اور گھٹنے نہ کھلیں۔ (۱۰۸۳/۱۳۳۲ھ)  
الجواب: اگر گھٹنے نہ کھلیں تو ورزش کے لیے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط

### فٹ بال وغیرہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۵۶۰)..... (الف) بالغ لڑکوں کو فٹ بال کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟  
(ب) ہیڈ ماسٹر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتا، لڑکوں کو کہتا ہے کہ تم کھیلو، وہ گنہ گار ہوا یا نہیں؟  
(ج) یہ کھیل ورزش کے طور سے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹۰۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: (الف) ایسا کھیل بطور ورزش کے جائز ہے۔  
(ب) گنہ گار نہیں ہوا۔ (ج) درست ہے۔

سوال: (۵۶۱) کھیل فٹ بال اور کبڈی وغیرہ کھیلنا درست ہے یا کیا؟ (۲۳۳/۳۳-۱۳۳۴ھ)  
الجواب: حدیث شریف میں ہے: لہو المؤمن باطل إلا فی ثلاث: تأدیبہ فرسہ وفی رواۃ: ملاعبتہ بفرسہ، ورمیہ عن قوسہ، وملاعبتہ مع أهلہ کفایۃ (۱) (شامی) اور در مختار میں ہے: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام الخ (۱) حدیث موصوف اور روایت فقہیہ سے واضح ہے کہ لہو ولعب شرعاً دراصل ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی غرض اس سے متعلق ہو جیسے کہ تیرکمان سے کھیلنا اور گھوڑے پر مشق سواری وغیرہ کرنا تو درست ہے، پس اگر کبڈی وغیرہ کھیلنے سے بھی مقصود صحت جسم وغیرہ ہو، تو درست ہے۔ فقط

سوال: (۵۶۲) چنڈول (گیند) اور فٹ بال کھیلنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس میں نماز فوت

ہو جاتی ہے، نصاریٰ جیسے کوٹ پتلون پہنتے ہیں اگر وجہ عدم جواز مشابہت کفار ہے تو ریل میں سوار ہونا اور بندوق چلانا بھی مشابہ کفار کے ہے، اس میں شرعاً کیا حکم ہوگا؟ (۱۳۳۲/۱۹۲۲ھ)

الجواب: ایسے لہو و لعب جس میں اوقات نماز اور جماعت کا خیال نہ رہے اور نماز و جماعت فوت ہو جائے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی ورزشوں کی اچھی نیت سے کرنے کی اس وقت اجازت ہو سکتی ہے کہ کسی حکم شرعی اور فرائض و واجبات دینیہ کا ترک اس سے لازم نہ آئے، ورنہ پھر بہ حکم: کل لہو المسلم حرام (۱) و بہ حکم حدیث: لہو المؤمن باطل (۲) حرام و ممنوع ہوں گے، اور کوٹ پتلون وغیرہ پہننے میں مشابہت نصاریٰ کی ہے، لہذا یہ بھی ناجائز ہے، اور یہ گمان غلط ہے کہ ریل میں سوار ہونے اور بندوق چلانے میں بھی مشابہت نصاریٰ کی ہے یہ خیال غلط ہے۔ فقط

سوال: (۵۶۳) مدارس اسلامیہ کے طلباء فٹ بال بہ طور ورزش اور تفریح کے کھیلتے ہیں، بعض مولوی صاحب حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا کیا؟ (۱۳۳۳/۱۱۲۶ھ)

الجواب: یہ صحیح ہے کہ فٹ بال وغیرہ کھیل لہو و لعب ہے اور لہو و لعب سب حرام ہیں، سوائے ان کے جو حدیث میں مستثنیٰ ہو چکے ہیں، لیکن اس کھیل میں جیسا کہ حیثیت لہو و لعب کی ہے اسی طرح یہ ایک ورزش بھی ہے اور ورزش اگر اچھی نیت سے ہو تو ﴿وَأَعِذُوا لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (سورہ انفال، آیت: ۶۰) کے حکم میں داخل ہو کر موجب اجر و ثواب ہو سکتی ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى الْحَدِيث (۳) فقط

سوال: (۵۶۴) گیند کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کشف عورت بھی ہوتا ہے اور نماز بھی ضائع ہوتی ہے؟ (۱۳۳۷-۳۶/۶۷ھ)

الجواب: اگر مقصود اس کھیل سے محض لہو و لعب ہے تو وہ موافق درمختار: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام إلخ (۴) حرام ہے، اور اگر مقصود لہو و لعب نہیں ہے بلکہ مستعد ہونا اور قوت حاصل

(۱) الدرّ مع الردّ: ۴۸۱/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

(۲) ردّ المحتار: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

(۳) صحيح البخاري: ۲/۱، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(۴) الدرّ مع الردّ: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

کرنا بہ غرض مقابلہ اعدائے دین کے ہے تو بہ موجب ارشاد: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (سورہ انفال، آیت: ۶۰) جائز و مباح بلکہ مستحب ہوگا، لیکن بہ شرط کشف عورت نہ ہو اور فرائض میں خلل نہ ہو۔ فقط

سوال: (۵۶۵) صحت بدن اور قوت جسم کے لیے فٹ بال کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۹۳۱) الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ لہو المؤمن باطل إلا فی ثلاث: تأدیبہ فرسہ، وفی رواۃ ملاعبتہ بفرسہ، ورمیہ عن قوسہ وملاعبتہ مع اہلہ (۱) (الحديث) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ان تین مواقع کے جن کا ذکر حدیث میں ہے لہو و لعب باطل ہے اور ناجائز ہے، البتہ اگر غرض صالح اور نیت نیک کے ساتھ اس قسم کا کھیل جو مثل تیر اندازی کے ہو کھیلے تو درست ہے۔ فقط

### اظہارِ مسرت کے لیے تالیاں بجانا

سوال: (۵۶۶) آج کل جلسوں میں بہ طور اظہارِ مسرت و خوشی کسی مقرر کی تقریر کے دوران میں اکثر تالیاں بجاتے ہیں، شرعاً اس کے معیوب و مذموم ہونے کے بارے میں تشبہ و تقلیدِ یورپ کے علاوہ تقریر ذیل بھی کی جائے تو صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی آیت کریمہ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأُمِّيَّاءَ وَتَصَدِيَّةُ الْآيَةِ﴾ (سورہ انفال، آیت: ۳۵) کی تفسیر سے بحث اور استدلال کیا جائے۔ (۱۳۳۸/۶۸۶)

الجواب: واقعی مکاء و تصدیہ چونکہ فی نفسہ لہو و لعب ہیں اس لیے قطع نظر تشبہ کے بھی اس کا استعمال شایانِ شانِ مؤمن نہیں ہے، اور جملہ ملاہی کا حرام ہونا احادیث (۲) اور تصریحات فقہاء (۳)

(۱) رد المحتار: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة .

(۲) عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن أبی حسین رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن اللہ لیدخل بالسهم الواحد ثلاثۃ الجنة: صانعۃ یحتسب فی صنعته الخیر، والرّامی بہ، والممدّ بہ، قال: ارموا وارکبوا ولأن ترموا أحبّ إلی من أن ترکبوا، کل ما یلہو بہ الرّجل المسلم باطل إلا رمیہ بقوسہ، و تأدیبہ فرسہ و ملاعبتہ اہلہ؛ فانہنّ من الحقّ (جامع الترمذی: ۴۹۳/۱، أبواب فضائل الجہاد — باب ما جاء فی فضل الرّمی فی سبیل اللہ)

(۳) إن الملاہی کلہا حرام (الدر المختار مع الشامی: ۴۲۴/۹، أوائل کتاب الحظر والإباحة)

سے ثابت ہے، اور جن اشیاء کو حدیث میں استثناء کیا گیا ہے مکاء و تصدیہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ فقط

## پتنگ سازی اور پتنگ فروشی جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۵۶۷) پتنگ سازی اور پتنگ فروشی جائز ہے یا نہیں؟ اور ان دونوں پیشہ والوں کا کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۲۳۳)

الجواب: یہ پیشے ناجائز ہیں اور کھانا بھی اچھا نہیں ہے۔ فقط

## جوا کھیلنا

سوال: (۵۶۸) جوا اور فٹ بال کھیلنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳/۲۲۹)

الجواب: قمار وغیرہ جو کھیل ہار جیت کے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ فقط

## نرد شیر اور شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟

سوال: (۵۶۹) نرد شیر اور شطرنج کا کھیلنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۳۳)

الجواب: نرد شیر کے بارے میں یہ حدیث شریف وارد ہوئی ہے: من لعب بالنرد شیر فکانما صبیغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ ، رواہ مسلم (۱) جو شخص نرد شیر سے کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگا، اور شطرنج کے بارے میں یہ روایات ہیں: وعن علی رضی اللہ عنہ أنه کان یقول: الشطرنج هو میسر الأعاجم (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شطرنج جوا عجمیوں کا ہے، وعن ابن شہاب أن أبا موسیٰ الأشعري رضی اللہ عنہ قال: لا یلعب بالشطرنج إلا خاطيء . وعنه رضی اللہ عنہ أنه سئل عن لعب الشطرنج ، فقال: هي من الباطل ولا یحب الله الباطل (۲)

(۱) عن بريدة أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من لعب الحديث (مشکاة المصابیح، ص: ۳۸۶، کتاب اللباس - باب التّصاویر، الفصل الأوّل)

(۲) مشکاة المصابیح، ص: ۳۸۷، کتاب اللباس - باب التّصاویر، الفصل الثالث .

ترجمہ: ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شطرنج کے ساتھ وہی کھیلتا ہے جو خطاوار اور عاصی ہے، اور انہیں سے روایت ہے کہ ان سے شطرنج کے ساتھ کھیلنے کو کسی نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو دوست نہیں رکھتا انتہی (مشکاۃ) سوال: (۵۷۰) شطرنج کے متعلق حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ نے کراہت کا فتویٰ دیا تھا، یہ کراہت تخریمی ہے یا تحریمی؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۸ھ)

الجواب: کراہت شطرنج کی کراہت تحریمی ہے۔ لما في الشامي: فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي. قهستاني (۱) سوال: (۵۷۱) شطرنج کھیلنا بغرض بڑھانے قوت دماغیہ یا بغرض اوقات ب سری یا تفریح طبع کے جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ دلیل لاتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مباح ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ (۱۳۳۸/۱۵۶۷ھ)

الجواب: ہمارے مذہب میں شطرنج کھیلنا کسی غرض سے جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے، جو کہ مثل حرام کے ہے، اور کھیلنے والے کو توبہ کرنا لازم ہے جیسا کہ ہر ایک گناہ کا حکم ہے کہ اس سے توبہ کریں اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ درمختار میں ہے: وكره تحريماً اللّعب بالرد وكذا الشطرنج الخ (۲) اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جو ایک روایت جواز کی ہے شامی نے اس کو رد کر دیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ ممنوع ہے، اور شامی نے قہستانی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ شطرنج کھیلنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، پس امام شافعی رحمہ اللہ کے مباح فرمانے سے خفیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے (۳) فقط

(۱) رد المحتار: ۴۸۱/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

(۲) الدر المختار مع رد المحتار: ۴۸۱/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

(۳) وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية (الدر المختار) وفي الشامي: قوله (والشطرنج) مُعَرَّبٌ شِطْرَنْجٌ، وإنما كُره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي، فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان الخ (الدر والرد: ۴۸۱/۹، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

## گنجفہ کھیلنا حرام ہے

سوال: (۵۷۲) گنجفہ (۱) جب کہ دینی کاموں میں یعنی مذہبی کام نماز روزہ وغیرہ میں فرق نہ پڑے اور کسی قسم کا دنیاوی یا دینی حرج واقع نہ ہو، اس حالت میں گنجفہ واسطے تفریح کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۳۳۰/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: گنجفہ حرام اور ناجائز ہے، ہر حالت میں۔ کتب فقہ میں مطلقاً ہر حالت میں لہو ولہب کو حرام لکھا ہے، اور اس سے لذت پانا اور تفریح حاصل کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ وفي السراج ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام إلخ استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر إلخ (۲)

## جنم اشٹمی کے دن ہلدی اور دہی کا مخلوط پانی

### ہندو مسلمان پر ڈال دے تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۵۷۳) جنم اشٹمی (۳) کے دن اہل ہندو بالعموم ایک پانی چھڑکتے ہیں، جس میں دہی اور ہلدی مخلوط ہوتی ہے، اگر وہ کسی مسجد یا مسلمان پر ڈالا جائے تو کیا حکم ہے؟ اور نجس ہے یا نہیں؟ (۸۰/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: شریعت کا حکم اس بارے میں یہ ہے کہ مسلمان اپنے اختیار سے اس پانی کو استعمال نہ کرے، اور کفار کو موقع نہ دے کہ وہ اس پانی کو اس پر ڈالیں۔ كما ورد في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم (۴) لیکن اگر بدون اس کے اختیار کے اتفاقی طور سے اس پر وہ پانی گر گیا کسی ہندو

(۱) گنجفہ: ایک کھیل کا نام جس میں ۹۶ گول پتے ہوتے ہیں، اور تین کھلاڑی (فیروز اللغات)

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۴۲۴/۹-۴۲۵، أوائل کتاب الحظر والإباحة.

(۳) جنم اشٹمی: ہندوؤں کا ایک تہوار، جو کرشن جی کے جنم کی خوشی میں مناتے ہیں۔ (فیروز اللغات)

(۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم

فهو منهم (أبو داود: ص: ۵۵۹، کتاب اللباس، باب في لبس الشهرة)

نے ڈال دیا تو اس مسلمان پر اس وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا، اور چونکہ نجس (ناپاک) ہونا اس پانی کا یقینی نہیں ہے اس لیے بدن اور کپڑا یا مسجد وغیرہ جس پر وہ پانی گرا؛ ناپاک نہ ہوں گے، مگر چونکہ یہ شعار کفار ہے، اس لیے مسلمان اس رنگ کو اپنے بدن یا کپڑے یا مسجد سے دھو ڈالیں۔ فقط

### فوٹو کھینچنا کیسا ہے؟

سوال: (۵۷۴) فوٹو اور تصویر زیبائش کے لیے کھینچنا کیسا ہے؟ (۳۲/۷۴-۱۳۳۳ھ)

الجواب: فوٹو اور تصویر کھینچنا مطلقاً حرام ہے، کسی وجہ سے درست نہیں ہے، احادیث میں اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے (۱)

سوال: (۵۷۵) فوٹو اتروانا کیسا ہے؟ اگر ممنوع ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟

(۳۲/۱۱۸۵-۱۳۳۳ھ)

الجواب: فوٹو تصویر ہے، اور تصویر اتارنا یا اتروانا ایسا ہی ہے جیسا تصویر بنانا اور نکالنا، پس جیسا کہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ فقط

سوال: (۵۷۶)..... (الف) ذی روح کی تصویر بنانے کا خواہ دستی ہو یا عکسی، خواہ مجسم مورت ہو، خواہ کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر ہو، اس کے رکھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟

(ب) جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟

(ج) تصویر کے محلل و مجوز پر شرعاً کیا حکم عائد ہوتا ہے؟

(د) تصویر کی تحریم میں سلف سے لے کر خلف تک تمام فقہاء اور محدثین و مفسرین کی تغلیط

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عُنُق من النار يوم القيامة لها عينان تُبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وُكِّلْتُ بثلاثة: (۱) بكل جبار عنيد (۲) وكل من دعا مع الله إلهاً آخر (۳) وبالمصورين، رواه الترمذي (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۶، كتاب اللباس - باب التّصاویر، الفصل الثّاني)

و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذاباً عند الله المصورون، متفق عليه (مشكاة المصابيح: ص ۳۸۵، كتاب اللباس - باب التّصاویر، الفصل الأوّل)



و تفصیل کرنے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا (۱۳۳۳/۲۲۲۹ھ)

الجواب: (الف) ذی روح کی تصویر بنانی خواہ دستی ہو یا عکسی یا مجسم ہو یا کاغذ و پارچہ وغیرہ پر سب مطلقاً حرام ہے۔ قال فی الشامی: وظاهر کلام النووی فی ”شرح مسلم“ الإجماع علی تحریم تصویر الحیوان، وقال: وسواء صنعه لما یمتھن أو لغيره فصنعتہ حرام بکلی حال، لأن فیہ مضاہاة لخلق اللہ تعالیٰ: و سواء کان فی ثوب أو بساط أو درھم و إناء و حائط و غیرھا انتھی (۱) (شامی)

وفیہ أيضاً بعد أسطر: تنبیہ: هذا کلّہ فی اقتناء الصّورة وأما فعل التّصویر فهو غیر جائز مطلقاً لأنّہ مضاہاة لخلق اللّٰہ تعالیٰ كما مرّ (۲) اور تصویر کے رکھنے میں یہ تفصیل ہے کہ بہت چھوٹی صورت یا مقطوعة الرأس والوجه وغیرہ درست ہے (۳) اور بڑی تصویر غیر مقطوع الرأس وغیرہ کا رکھنا حرام ہے۔ وقد صرح فی الفتح وغیرہ بأن الصّورة الصّغيرة لا تکره فی البيت الخ ولو كانت تمنع دخول الملائكة کره إبقاؤها فی البيت الخ (۲) (شامی)

(ب) حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔ كما فی حدیث مسلم: إنا لا ندخل بیتاً فیہ کلب ولا صورة (۴) (شامی)

(ج) فاسق مردود الشہادۃ ہے۔

(د) ضال و مضل ہے۔ فقط

(۱) ردالمحتار: ۳۶۰/۲، کتاب الصّلاة – باب ما یفسد الصّلاة و ما یکره فیہا، مطلب: إذا تردّد الحکم بین سنة وبدعة الخ .

(۲) الشّامی: ۳۶۲/۲، کتاب الصّلاة – باب ما یفسد الصّلاة و ما یکره فیہا، قبیل مطلب: الكلام علی اتخاذ المسبحة .

(۳) أو مقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (الدر المختار) قال فی الشّامی: قوله: (أو مقطوعة الرأس) أي سواء کان من الأصل أو کان لها رأس و محي، و سواء کان القطع بخيطة خيطة علی جميع الرأس حتّى لم یبق له أثر أو یطيله بمغرة أو بنحته أو بغسله، لأنّها لا تُعبد بدون الرأس عادة الخ (الدر والشّامی: ۳۶۰/۲، کتاب الصّلاة، أبواب ما یفسد الصّلاة و ما یکره فیہا، مطلب: إذا تردّد الحکم بین سنة وبدعة)

(۴) الشّامی: ۳۶۱/۲، حوالہ سابقہ۔

### پاسپورٹ اور ویزا کے واسطے فوٹو کھینچوانا

سوال: (۵۷۷) یہاں (افریقہ) کی سرکار نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ ہندوستانی تارکانِ وطن جن کا کاروبار عرصہ سے یہاں جما ہوا ہے، اپنی عورتوں کو جب ہندوستان سے یہاں لاتے ہیں تو ان عورتوں سے فوٹو طلب کیا جاتا ہے، ورنہ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتیں؟ (۳۱/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس صورت میں ان کے فوٹو لیے جاویں تو ان پر کچھ مواخذہ نہیں ہے وہ مجبور ہیں۔

سوال: (۵۷۸) گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ کوئی شخص ہندوستان سے باہر نہیں جاسکتا، تاوقتیکہ پروانہ راہ داری (Visa) نہ لے، پروانہ راہ داری کے لیے ضروری ہے کہ ایک تصویر کم از کم نصف اعلیٰ بدن کی حاصل کرے، اس کی تین نقلیں پروانہ راہ داری کی درخواست کے ساتھ بھیجے، جن میں سے ایک پروانہ کے ساتھ واپس کی جائے گی، جس کا حامل کو اپنے پاس رکھنا لازمی ہے، دو گورنمنٹ میں رکھ لی جائیں گی، اس صورت میں فوٹو کھینچوانے کی اجازت دی جائے گی یا کیا؟ (۷۷۲/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر یہ ایسا ضروری امر ہے کہ بدون اس فوٹو کے پروانہ راہ داری نہیں مل سکتا تو بہ حکم الصّٰوٰرات تبیح المحظورات (۱) بہ حالت مجبوری فوٹو ساتھ بھیجنا جائز ہے، مگر بعد رفع ضرورت کے یہ جواز بھی مرتفع ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی قاعدہ فقہ کا ہے: الصّٰوٰرات تنقذ بقدرها (۲) فقط

سوال: (۵۷۹) مجھے حج کے لیے جانا ہے، پاسپورٹ حاصل کرنے کے واسطے فوٹو کھینچوانے کا حکم ہے، اس صورت میں میرے لیے تصویر کھینچوانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۱۱۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر بدون فوٹو کھینچوانے کے کوئی صورت اجازت کی نہ ہو تو اس ضرورت سے فوٹو کھینچوانا درست ہے۔ فقط

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۵/۱۷۵، کتاب الطلاق - باب العدة، فصل في الحداد.

(۲) الدر المختار مع رد المحتار: ۹/۴۵۲، کتاب الحظر والإباحة - فصل في النظر والمس.

## ذی روح کی تصویر کھینچنا، کھینچوانا اور رکھنا

سوال: (۵۸۰) تصویر کارکھنا یا کھینچنا یا بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو اپنی تصویر کھینچواتے ہیں، یا دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں مثلاً اڈیٹر اور لیڈر کی تصاویر رکھنا یا کھینچنا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۷/۱۲۵۸ھ)

الجواب: تصویر ذی روح کا کھینچنا اور کھینچوانا اور رکھنا سب قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں وعید شدید حدیث شریف میں وارد ہے، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

میں نے سنا رسول اللہ ﷺ سے کہ فرماتے تھے: أشد الناس عذاباً عند الله المصوِّرون (۱)

ترجمہ سخت عذاب اللہ کے یہاں مصوروں پر ہے۔

دوسری روایت میں ہے: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (۲)

ترجمہ سخت تر عذاب قیامت کے دن ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں اور تصویر بنانے میں مشابہت کرتے ہیں۔

اور شامی میں ہے: وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقاً لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى (۳) پس کوئی اڈیٹر ہو یا لیڈر، اس حکم سے مستثنیٰ نہیں اور یہ فعل تصویر، یا رکھنا تصویر کا، یا دوسروں کو ترغیب دینا تصویر رکھنے کی درست نہیں ہے بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ فقط

(۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذاباً عند الله المصوِّرون، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۳۸۵، كتاب اللباس - باب التصوير، الفصل الأول)

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر..... وقال: أشد الناس الحديث (صحيح البخاري: ۲/۸۸۰، كتاب اللباس - باب ما وُطِئ من التصوير)

(۳) رد المحتار: ۲/۳۶۲، كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب: الكلام على اتخاذ المسبحة .

سوال: (۵۸۱) تصاویر کا غد جس کا سایہ زمین پر نہ گرے، بہ طور آرائش مکان کی دیواروں پر چسپاں کرنا، یا پیشواؤں کی تصاویر بہ طور یادگار بہ حفاظت رکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۸۵)

الجواب: تصاویر ذی روح کا رکھنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔

سوال: (۵۸۲)..... (الف) عکسی فوٹو حیوانی یا انسانی لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور مکانوں میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) طلباء کو فن مصوری سیکھنا، سکھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۱۸۴۴)

الجواب: (الف) جائز نہیں ہے۔ (ب) ناجائز ہے۔

### گروپ فوٹو کھینچنا

سوال: (۵۸۳) فوٹو کھینچنا یا ایک مجمع کے ساتھ فوٹو کھینچوانے میں شریک ہونا شرعاً کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۴۵۵)

الجواب: تصویر بنانے والوں کے بارے میں حدیث صحیح میں یہ وعید وارد ہے: **إِنْ أَشَدَّ النَّاسُ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمَصُورُونَ** (۱) یعنی قیامت کے دن زیادہ تر عذاب تصویر بنانے والوں اور کھینچنے والوں پر ہوگا، اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: **إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَعْذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**، **وَيَقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ**، وقال: **إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ** (۲) یعنی اصحاب تصویر قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تصاویر تم نے بنائی ان کو زندہ کرو، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں گے، پس جیسا کہ تصویر بنانا اور کھینچنا حرام ہے ویسا ہی

(۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: **إِنْ أَشَدَّ النَّاسُ الْحَدِيثَ (صحيح البخاري: ۸۸۰/۲، كتاب اللباس - باب عذاب المصورين يوم القيامة)**

(۲) عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ الْحَدِيثَ (صحيح البخاري: ۸۸۱/۲، كتاب اللباس - باب من لم يدخل بيتا فيه صورة)**

اس کا کھینچنا بھی حرام ہے اور فوٹو کھینچنے اور کھینچوانے اور اس مجمع میں شریک ہونے کا یہی حکم ہے کہ یہ سب حرام ہے اور لہو و لعب اور باطل ہے۔ فقط

### ہاتھ وغیرہ پر تصویر یا نام کندہ کرانا

سوال: (۵۸۴) علی العموم مسلمانوں کے ہاتھ پیروں پر تصویریں یا نام وغیرہ بھی کندہ ہیں اور جائز تصور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ (۱۷۵۶/۱۳۳۸ھ)

الجواب: اس کی وجہ سوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں یہی رواج ہے، ظاہر ہے کہ شرعاً یہ ممنوع ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے (۱) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اتباع سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰات والختیہ نصیب فرمائے۔ آمین

### ہرن کا چہرہ دیوار پر آویزاں کرنا

سوال: (۵۸۵) اکثر شکاری ہرن کا شکار کر کے ہرن کا چہرہ بنوایا کرتے ہیں اور دیوار پر لگا لیا کرتے ہیں کیا اس کا حکم بھی تصویر جیسا ہے؟ (۱۳۱۵/۱۳۴۰ھ)

الجواب: اس کا حکم تصویر کا سا نہیں ہے۔ فقط

### ضرورتِ طبی کے لیے ذی روح کی تصویر بنانے اور رکھنے کا حکم

سوال: (۵۸۶) تصویرِ جسم انسان واسطے افہام اعضاء و اعصاب وغیرہ کے کلایا جزوِ اُجوبی تشریح میں لازمی ہے بنائی جاتی ہے اور شرع شریف میں تصویرِ ذی روح اشیاء کی بنانی ممنوع ہے، آیا یہ ڈھانچہ انسانی جسم کے لیے کاغذ وغیرہ پر کھینچنا بنانا کیا حکم رکھتا ہے؟ (۲۹/۲۰۴-۱۳۳۰ھ)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء (سنن أبي داود: ص ۵۷۴، كتاب التَّرجل - باب في صلة الشعر)

الجواب: تصویر ذی روح بنانا اور رکھنا حرام ہے، پس بہ غرض تشریح طبعی جب کہ اجزاء سے بھی تفہیم ہو سکتی ہے وہ جائز نہیں ہو سکتی، البتہ اگر بعض بعض اجزاء کی صورت و نقش بنا کر سمجھایا جائے جس میں پوری تصویر نہ ہو یا وہ حصہ نہ ہو جس کے ساتھ ذی روح زندہ رہ سکتا ہے تو درست ہے (۱) الحاصل جس تصویر کا بنانا اور رکھنا شرعاً حرام ہے، وہ طبعی تشریح و افہام کی غرض سے بھی بنانا حرام ہے اور جس کا بنانا شرعاً درست ہے وہ یہاں بھی درست ہے۔ فقط

سوال: (۵۸۷) اگر طب کی کتاب میں تصویر ہو تو اعضاء کی تحقیق کی ضرورت سے اس کو رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۳ھ)

الجواب: اگر تصویر کا رکھنا ضروری ہے تو اس میں جواز کی بھی صورت ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ یعنی آنکھ ناک وغیرہ محو کر دیا جائے، یا اس پر کوئی ایسی شے چسپاں کر دی جائے کہ جو حکم میں محو ہوجانے کے ہو جائے (۲)

## بچوں کی آگاہی اور ذہنی نشوونما کے لیے

### کتب درسیہ میں تصاویر کا اندراج کرنا

سوال: (۵۸۸) سرکاری اور دیگر سرکاری کتب درسیہ میں بچوں کی آگاہی اور ذہنی نشوونما کے لیے تصاویر کا اندراج تقریباً لازمی سا ہو گیا ہے، اور ٹیکسٹ بک کمیٹی (۳) کا بھی میلان ایسی ہی (۱) أو مَمْحُوَّةٌ عَضْوًا لَا تَعِيشُ بَدُونَهُ أَوْ لَغَيْرِ ذِي رُوحٍ لَا يَكْرَهُ، لِأَنَّهُ لَا تَعْبُدُ (الدَّرَجَاتُ الْمُخْتَارُ مَعَ الشَّامِي: ۳۶۱/۲، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا يَفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يَكْرَهُ فِيهَا، مَطْلَبٌ: إِذَا تَرَدَّدَ الْحَكْمُ بَيْنَ سَنَةِ وَبَدْعَةِ الْخ)

(۲) وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الصُّورَةُ تَبْدُو لِلنَّظَرِ مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَمْحُوَّةً الرَّأْسَ لَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا، وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصُّورَةَ إِذَا غَيَّرَتْ هَيْئَتَهَا بِأَنْ قُطِعَتْ رَأْسُهَا أَوْ حُلَّتْ أَوْ صَالَهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْأَثَرُ عَلَى شَبِّهِ الصُّورِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (مَرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ: ۳۳۴/۸، كِتَابُ اللَّبَاسِ - بَابُ التَّصَاوِيرِ، الْفَصْلُ الثَّانِي)

(۳) ٹیکسٹ بک کمیٹی (Text Book Committee) وہ کمیٹی یا جماعت جو درسی کتابیں منظور کرتی ہے۔ (فیروز اللغات)

کتابوں کو منظور کرنے کا ہو رہا ہے، جن کے ساتھ تصویریں ہوں، انجمن (انجمن حمایت اسلام لاہور) کی اردو تالیفات قاعدہ وغیرہ کی ترمیم و تجدید ہو رہی ہے، اور کمیٹی تالیف و طبع انجمن کی رائے ہے کہ دیگر کتب درسی کی طرح ان میں بھی حروف تہجی اور اسباق کے متعلق تصاویر ایجاد کی جائیں، آپ بہ فضلہ تعالیٰ عالم دین بھی ہیں اور تعلیمی مبصر ہیں، لہذا اس معاملہ میں اپنی رائے زریں سے حتی الوسع جلد کمیٹی کو مطلع فرما کر شکر گزار بنائیں۔ (۶۹۶/۱۳۳۷ھ)

الجواب: تصاویر ذی روح کا اندراج کتب درسیہ میں اور غیر کتب درسیہ میں سب میں ممنوع اور حرام ہے، اور احادیث میں جس قدر وعید شدید تصاویر کے بنانے اور رکھنے اور کھینچنے اور کھنچوانے کے بارے میں وارد ہیں، وہ کسی مصلحت اور کسی غرض کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اندراج تصاویر کو بہ غرض تقریب الی الذہن جائز کیا جائے، لہذا مصالح و منافع عاجلہ پر مصلحت دینی و حکم شرعی کو مقدم کرنا چاہیے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام: أشد الناس عذاباً عند الله المصوِّرون (۱) وقال صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ کلبٌ ولا تصاویر (۲) اسی طرح احادیث کثیرہ اس باب میں وارد ہیں (۳) اور رد المحتار شامی میں ہے: وأما فعل التصوير فهو

(۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذاباً الحديث (مشكاة المصابيح: ص: ۳۸۵، كتاب اللباس، باب التّصاویر، الفصل الأوّل)

(۲) عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة الحديث (مشكاة المصابيح: ص: ۳۸۵، كتاب اللباس، باب التّصاویر، الفصل الأوّل)

(۳) عن عائشة رضي الله عنها ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة.

وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عُقُوقُ من النار يوم القيامة لها عيان تُبْصِرَانِ وَأُذنان تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقول: إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ: (۱) بكل جبار عید (۲) وکل من دعا مع الله إلهاً آخر (۳) وبالمصوِّرين (مشكاة المصابيح، ص:

## تصویر والی کتب کی خرید و فروخت

سوال: (۵۸۹) اگر کوئی شخص باتصویر کتابیں فروخت کرے اس کی نسبت کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۳-۳۳/۲۴۹ھ)

الجواب: ایسی کتابوں کو خریدنا اور فروخت کرنا نہ چاہیے، لیکن ان کے فروخت کرنے سے جو قیمت وصول ہوئی وہ حلال ہے۔ فقط

## جاندار چیزوں کا مارکہ بنانا جائز نہیں

سوال: (۵۹۰) ہماری تجارت بنیادوں کی ہے، جس میں مختلف مارکے بہت سے ہیں، لیکن ایک مارکہ جو سب میں زیادہ مشہور اور چل پڑا ہے وہ ایک چڑیا کی تصویر خوشنما ہے، ہم نے کوشش کی کہ اس جاندار مارکہ کی جگہ پر کوئی دوسرا بے جان مارکہ چل جائے مگر نہ چلا، حالانکہ مال وہی یکساں رکھا اور قیمت بہت کم کردی باوجود اس کے پھر بھی وہ بے جان مارکہ والا مال بہت مشکل سے نکلا اور دیر میں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مال میں سے پرانے شہرت پائے ہوئے جاندار مارکوں کو نکال ڈالیں تو دوسرے بڑے تاجروں اور یورپ کمپنیوں کے مقابلہ میں کامیابی کے ساتھ ہم کو اپنے تجارتی کاروبار کو چلانا مشکل ہو جائے، کیونکہ دوسرے بڑے بڑے تاجر اور کمپنیاں ہر وقت مارکوں کی تاک میں لگے رہتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کسی کا چالو مارکہ مر جائے اور مٹ جائے تو موقع پا کر اپنے اپنے مارکوں کو شہرت دے دیں اور من مانا نفع حاصل کریں، ایسی حالت میں شرعاً پرانے جاندار مارکوں کو رہنے دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۱ھ)

الجواب: جاندار تصویر کا مارکہ کسی طرح جائز نہیں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر حیوانی کے بنانے اور بنوانے کی حرمت پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ قال فی البحر: وفي الخلاصة وتكره

(۱) الشامي: ۳۲۲/۲، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، قبیل مطلب: الکلام علی اتخاذ المیسبة.



التصاویر علی الثوب صلیٰ فیہ أو لا انتھی و هذه الکراهة تحریمیة ، و ظاهر کلام النووی فی ” شرح مسلم “ الإجماع علی تحریم تصویر الحیوان ، و قال : و سواء صنعه لما یمتھن أو لغيره ، فصنعتہ حرام بکل حال لأن فیہ مضاهاة لخلق اللہ تعالیٰ . و سواء کان فی ثوب أو بساط أو درھم و إناء و حائط و غیرھا اھـ (۱) (شامی)

وأيضاً فیہ : تنبیہ : و هذا کله فی اقتناء الصّورة و أما فعل التّصویر فهو غیر جائز مطلقاً لأنّہ مضاهاة لخلق اللہ تعالیٰ كما مرّ (۲)

أقول : و فی الأحادیث و عید شدید فی فعل التّصویر مطلقاً ففی البخاری و مسلم : عن عائشة رضي اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم : إن أصحاب هذه الصّور یُعذّبون یوم القيامة ، یقال لهم : أحيوا ما خلقتم . و قال : إنّ البيت الذی فیہ الصورة لا تدخله الملائكة . (الحديث)

و عن أبي هريرة رضي اللہ عنہ قال : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم یقول : قال اللہ تعالیٰ : و من أظلم ممن ذهب یخلق کخلقی فلیخلقوا ذرّةً أو لیخلقوا حبةً أو شعيرةً متفق علیہ .

و عن عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنہ قال : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم یقول : أشدّ الناس عذاباً عند اللہ المصوِّرون . متفق علیہ .

و عن ابن عباس رضي اللہ عنہما قال : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم یقول : کل مصوّر فی النار یجعل له بکل صورة صورھا نفساً فیُعذّبہ فی جہنّم ، قال ابن عباس رضي اللہ عنہما فإن كنت لابدّ فاعلاً فاصنع الشجر و ما لا روح فیہ (۳) (مشکاة شریف) پس ان احادیث سے فعل تصویر پر جس قدر وعید وارد ہے وہ ظاہر ہے ، حدیث آخر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو اشجار اور بے جان چیزوں

(۱) الشّامی : ۳۵۹/۲ - ۳۶۰ ، کتاب الصّلاة - باب ما یفسد الصّلاة و ما یکرہ فیہا ، مطلب :

إذا تردّد الحکم بین سنة و بدعة .

(۲) ردّ المحتار : ۳۶۲/۲ ، حوالہ بالا .

(۳) مشکاة المصابیح : ص : ۳۸۵ - ۳۸۶ ، کتاب اللباس ، باب التّصاویر - الفصل الأوّل .

کی تصویر بنالی جاوے (۱) لہذا تجارت مسلمین کو مارکہ بے جان چیزوں کا رکھنا چاہیے۔ فقط

## قرآن شریف سے اوپر تصویروں کا لٹکانا درست نہیں

سوال: (۵۹۱) تصاویر کا قرآن شریف سے بلندی پر لٹکانا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۷/۱۹۹۱ھ)

الجواب: درست نہیں ہے (بلکہ مطلقاً گھر وغیرہ میں ذی روح کی تصاویر کا لٹکانا حرام ہے)

## مٹی کے بت فروخت کرنا حرام ہے

سوال: (۵۹۲) ایک شخص صوم و صلاۃ کا پابند ہے، مگر ہندوؤں کے تہوار میں مٹی کے بت فروخت کرتا ہے یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۸۳ھ)

الجواب: وہ شخص عاصی و فاسق ہے، اس کو چاہیے کہ اس فعل حرام سے توبہ کرے اور اس پر حکم کفر نہ کیا جاوے گا۔ فقط

## ناچ گانے والی شادی میں شرکت اور دعوت کا حکم

سوال: (۵۹۳) شادی میں ڈھول ناچ آتش بازی وغیرہ کرنے سے کس قسم کا گناہ ہوتا ہے؟ مذہب حنفی میں وہاں دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ سنا ہے کہ ایسا نکاح نہیں ہوتا، اور اولاد حرامی ہوتی ہے۔ (۱۳۳۳/۲۶۶۳ھ)

الجواب: وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں مرتکب کبیرہ گناہ کے ہیں اور فاسق ہیں، ان کی دعوت میں بھی مقتدا لوگوں کو شریک نہ ہونا چاہیے، مگر نکاح ہو جاتا ہے اور اولاد ولد انحلال ہے حرامی نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۵۹۴) زید کہتا ہے کہ اگر عمر نے بکر کی دعوت کی اور بکر نے قبول بھی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی دعوت میں باجا ڈھول وغیرہ بھی ہے تو اس حالت میں بکر کی وعدہ خلافی میں اجر

(۱) و فیہ إشارة لطيفة إلى جواز تصویر نحو الأشجار ممّا لا حياة فیہ كما ذهب إليه الجمهور (مرقاۃ المفاتیح: ۳۳۴/۸، کتاب اللباس، باب التّصاویر، الفصل الثانی)

ہے، اور ایفاء وعدہ میں معصیت ہے تو یہ زید کا قول درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۴۷۷-۱۳۳۵ھ)

الجواب: زید کا یہ قول صحیح ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۵۹۵) ایک شخص اپنے لڑکے کی شادی میں ناچ رنگ اور انگریزی باجا کرتا ہے اس

کے یہاں شرکت کرنا اور کھانا کھانا یا وہ کھانا مکان پر بھیجے تو اس کا لینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۱۷۲۵)

الجواب: درمختار میں لکھا ہے کہ جس شادی میں ناچ باجا وغیرہ محرمات شرعیہ ہوں وہاں ان لوگوں کو بالکل شریک ہونا نہ چاہیے، جو کہ مقتدا ہیں جیسے علماء و مشائخ و ائمہ اور عوام بھی اس وقت وہاں کھانا کھا سکتے ہیں کہ عین مجلس طعام میں باجا وغیرہ نہ ہو کسی دوسری جگہ ہو اور اگر اسی مجلس میں باجا وغیرہ ہو تو کسی کو بھی شریک نہ ہونا چاہیے اور وہاں کھانا نہ چاہیے (۱) اور باجا وغیرہ کرنے والا ہر حال فاسق ہے اور عاصی ہے، تنبیہا اس کی شادی میں بالکل شرکت نہ کرنی چاہیے، اور اس کا کھانا نہ لینا چاہیے تاکہ اس کو تنبیہ ہو۔ فقط

جاندار کی شکل والے شکر کے کھلونے فروخت کرنا جائز نہیں

سوال: (۵۹۶) دیوالی میں مسلمان حلوائی کو شکر کے کھلونے گائے، بیل، آدمی، گھوڑے وغیرہ

سانچے میں ڈھال کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹ھ/۱۴۸۳)

الجواب: جائز نہیں ہے۔

عیدین کی نماز کا اعلان بہ ذریعہ ڈھول کرانا کیسا ہے؟

سوال: (۵۹۷) عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے وقت اعلان بہ ذریعہ ڈھول کرانا جائز ہے

(۱) دعیٰ إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام، الآية: ۶۸) فإن قدر على المنع فعل وإلا يقدر صبر إن لم يكن ممن يقتدى به، فإن كان مقتدى ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد ..... وإن علم أولاً باللعب لا يحضر أصلاً (الدر المختار مع الشامی: ۴۲۲/۹-۴۲۳ کتاب الحظر والإباحة)

الجواب: نماز کا وقت مقرر اور متعین کر کے اعلان کر دیا جائے کہ فلاں وقت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی ہوگی، اور اعلان بہ ذریعہ ڈھول کے کرنا بھی جائز ہے (۱) فقط

### آتش بازی، بارود اور دیوالی کے کھلونے بنانے کا حکم

سوال: (۵۹۸) ایک شخص آتش بازی و بارود اور دیوالی کا کام کرتا ہے، اور بٹن کا کام بھی کرتا ہے، اس کا مال حلال ہے یا حرام؟ اور عند اللہ اس کی عبادات و صدقات قبول ہوتے ہیں یا نہ؟

(۱۳۳۴-۳۳/۲۳۵ھ)

الجواب: آتش بازی اور بارود و دیوالی کے کھلونے بنانے کا پیشہ اور کسب حرام اور مکروہ ہے کہ اس میں اعانت علی المعصیت ہے، اور ایسی آمدنی کراہت و خباثت سے خالی نہیں ہے، باقی عبادات اور صدقات کا قبول ہونا اخلاص و عدم اخلاص پر ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورہ بینہ، آیت: ۵) اور صدقہ مال حلال سے قبول ہوتا ہے (۲) فقط

### گانے والی عورتوں کا مدرسہ میں چندہ دینا

سوال: (۵۹۹) اگر مغنیات مدرسہ میں چندہ یا دیگر اشیاء خرچ مدرسہ کے واسطے دے دیوے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۸۹ھ)

الجواب: طلبہ مساکین کے صرف میں لانا اس کا درست ہے اور اس لیے لینا درست ہے۔ فقط

(۱) أقول: و ينبغي أن يكون طبل المسخر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام (الشامي: ۹/۴۷، كتاب الحظر والإباحة - قبيل فصل في اللبس)


(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ۲۴۱، كتاب البيوع - باب الكسب وطلب الحلال)

## جس گھر میں شکاری یا محافظ کتا ہو اس میں

### رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟

سوال: (۶۰۰) جس گھر میں کتے کا بال پڑا ہو سنا ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، پس جس گھر میں شکاری یا محافظ کتا موجود ہو اس میں رحمت کا فرشتہ آتا ہے یا نہیں؟ (۱۱۷۰/۳۳-۱۳۳۲ھ)

الجواب: شکاری اور کھیتی کی حفاظت وغیرہ کے کتے اس سے مستثنیٰ ہیں، ملائکہ رحمت کے آنے سے مانع نہیں (۱)



(۱) قال الخطّابی : إنّما لم يدخل فی بیت إذا كان فیہ شیء من هذه ممّا یحرم اقتناؤه من الكلاب والصّور، وأمّا ما لیس بحرام من کلب الصّید أو الزّرع أو الماشیة..... فلا یمنع دخول الملائكة بسببه (عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۱۵/۱۳۹، کتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدکم : آمین ، والملائكة فی السّماء، المطبوعة : مکتبة رشیدیة، پاکستان)

## دوا و علاج کے احکام

### بیماری کا علاج کرانا مسنون ہے

سوال: (۶۰۱) بیماری میں علاج اور دوا کرنا فرض یا واجب ہے یا مسنون؟ اور دوا نہ کرنے والا گنہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ (۱۹۹۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: تداویٰ ساتھ دوا حلال و طاهر کے مسنون و مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ تارک اس کا عاصی و آثم ہو، اور احادیث میں تاکید تداویٰ کی وارد ہے (۲) تاکہ معلوم ہو کہ یہ خلاف توکل نہیں ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ دوا، رقیہ وغیرہ کیا تقدیر الہی کو پھیر دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہی من قدر اللہ یعنی دوا کرنا بھی تقدیر الہی سے ہے (۱) وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله! تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً الحديث (۲)

(۱) عن أبي خزيمة عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله! أرايت رقي نسترقىها ودواء نتداوي به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله (جامع الترمذي: ۲/۲۷، أبواب الطب - باب ما جاء في الرقي والأدوية. وأيضاً فيه: ۲/۳۷، أبواب القدر، باب ما جاء لا ترد الرقي والدواء من قدر الله شيئاً)

(۲) جامع الترمذي: ۲/۲۴، أبواب الطب - باب ما جاء في الدواء والحث عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً (صحيح البخاري: ۲/۸۴۸، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)

سوال: (۶۰۲) ہدایہ کے حواشی میں علاج کو مباح لکھا ہے، لیکن حدیث میں تَدَاوُوا عِبَادَ اللّٰہِ وارد ہے (۱) اور خود آنحضرت ﷺ نے علاج پچھنے کا کیا ہے (۲) اس لحاظ سے سنت کا اطلاق علاج پر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۶۵۸ھ)

الجواب: علاج اور تدوی سنتِ انبیاء علیہم السلام ہے، اور مباح لکھنا منافی سنت ہونے کے نہیں ہے، مباح لکھنے والوں کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی تردید مقصود ہو۔ فقط

### علاج کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں

سوال: (۶۰۳) مریض کی دوا کے لیے علاج کا کتنے روز کا حکم ہے؟ (۱۳۳۷-۳۶/۳۳۱۴ھ)

الجواب: علاج کے لیے کوئی حد شرعی مقرر نہیں ہے، جب تک مرض کا ازالہ ہو اس وقت تک دوا کرنا مسنون ہے۔ فقط

### چچک، طاعون اور حفظ ما تقدم کے لیے ٹیکا لگوانا

سوال: (۶۰۴) ٹیکا بہ لحاظ حفظ ما تقدم علاج کی غرض سے لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰-۲۹/۶۴۹ھ)

الجواب: ٹیکا لگوانا بہ لحاظ حفظ ما تقدم جائز ہے، شرعاً اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ یہ ٹیکا بھی مثل ٹیکا چچک ایک علاج ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقط

سوال: (۶۰۵) طاعون کا ٹیکا لگانا اور لگوانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۸۸ھ)

الجواب: ٹیکا طاعون کا لگانا درست ہے، یہ ایک علاج ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۶۰۶) حفظ ما تقدم کے خیال سے طاعون کا ٹیکا لگوانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳/۲۶۰۳ھ)

(۱) اس حدیث کی تخریج سابقہ سوال کے حاشیہ میں گزری چکی ہے۔

(۲) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركيه من وئيه كان به (سنن أبي داود: ص: ۵۴۰، كتاب الطب - باب في قطع العرق وموضع الحجم)

الجواب: جائز ہے۔ فقط

سوال: (۶۰۷) بچوں کو چچک کا ٹیکا لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۳ھ)

الجواب: جائز ہے۔ فقط

### ہومیو پیتھک ادویات کا حکم

سوال: (۶۰۸) ہومیو پیتھک (Homoeopathic) ادویات الکحل میں تیار کی جاتی ہیں، جو سفید عرق کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی اسپرٹ ہوتی ہے، جو میزکریسیوں وغیرہ کی پالش اور دیگر کاموں میں بھی صرف ہوتی ہے، اور شرابوں میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۱/۱۲۱۵ھ)

الجواب: اسپرٹ کو فقہاء نے شراب کا حکم دیا ہے اس لیے جن ادویات میں اسپرٹ کا ہونا یقینی ہے ان کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے (۱) شامی میں ہے: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَرَقَ الْمُسْتَقَطَّرَ مِنَ الْخَمْرِ هُوَ عَيْنُ الْخَمْرِ تَتَصَاعَدُ مَعَ الدِّخَانِ وَتَقَطُرُ مِنَ الطَّابِقِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا أَجْزَاؤُهَا التَّرَابِيَةُ، وَلِذَا يَفْعَلُ الْقَلِيلُ مِنْهُ فِي الْإِسْكَارِ أَضْعَافَ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرُ الْخَمْرِ الْخ (۲) (شامی: ۱۶۳/۳) فقط

### انگریزی ادویہ کا استعمال

سوال: (۶۰۹) سنا ہے کہ انگریزی دواؤں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، لہذا انگریزی دواؤں

(۱) کفایت المفتی میں ہے: جواب: (۱۷۵) ہومیو پیتھک دواؤں میں اگر اسپرٹ یا اور کوئی نشہ آور دوائی شامل ہو، تاہم علاج کے لیے ان کا استعمال جائز ہے، کیونکہ سوائے انگور کی شراب کے — جو خمر ہے — اور شرابیں ناپاک نہیں ہیں، نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام تو ہیں مگر ناپاک نہیں، تو ان کی اتنی مقدار جو نشہ آور نہ ہو علاج کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ

(کفایت المفتی: ۱۴۲/۲، کتاب الحظر والاباحۃ، نواں باب: طب اور ڈاکٹری، فصل اول: دواء و علاج) (۲) رد المحتار للشامی: ۴۸/۶، کتاب الحدود — باب حد الشرب، مطلب فی نجاسة العرق و وجوب الحد بشربه.



کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۶۵۴ھ)

الجواب: انگریزی ادویہ کا استعمال علی العموم ناجائز نہیں ہے، اگر کسی دوا میں شراب وغیرہ کا ہونا معلوم ہو جاوے تو اس دوا کا استعمال ناجائز ہو جاوے گا، باقی شبہ اور شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ فقط

### انگریزی ادویہ کا بائیکاٹ

سوال: (۶۱۰) انگریزی دوا کا استعمال ترک موالات کے خلاف ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۹/۹۸۳ھ)

الجواب: جو دوائیں انگریزی حلال ہیں جن میں شراب نہیں ہے، ان کا معاملہ کرنا اور خرید و فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ دیگر اشیاء انگریزی ولایتی کا خریدنا اور فروخت کرنا، سوا بھی تک کلیہ ترک موالات کی بناء پر جملہ اشیاء ولایتی و انگریزی کا خرید و فروخت کرنا ممنوع نہیں ہوا، البتہ بہ تدریج ایسا کرنا چاہیے کہ دیسی اشیاء خریدی جائیں، اور انگریزی ولایتی چیزیں نہ خریدی جائیں (۱) مگر یہ کام بہ تدریج حاصل ہو سکتا ہے اس کی توضیح زبانی کسی عالم سے کرائیں اور اس کو سمجھ لیں۔ فقط

### دوا کی غرض سے مردوں کو مہندی لگانا

سوال: (۶۱۱) مرد کے لیے مہندی لگانا کیسا ہے؟ اور دوا کے لیے مرد کو (مہندی) استعمال کرنا

جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵-۴۴/۵۸ھ)

الجواب: مہندی مردوں کو لگانا حرام ہے اور دوا کے لیے جائز ہے۔

### علاج کی غرض سے عورت کا دودھ پینا

سوال: (۶۱۲) شیر خوار بچے کے علاوہ عورت کا دودھ علائجا یا ویسے ہی پینا درست ہے یا نہیں؟ اور

(۱) یہ حکم اس وقت تھا جب انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تحریک چل رہی تھی، اور انگریزی اشیاء کا اصل حکم وہ ہے جو جواب کے شروع میں مذکور ہے، یعنی حلال اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری

اگر شوہر اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لیوے تو کیسا ہے؟ (۲۹/۳۹۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: عورت کا دودھ پینا سوائے شیر خوار بچے کے کسی وقت کسی طرح درست نہیں ہے، پس ایسا علاج حرام نہ کرنا چاہیے۔ شوہر اگر اپنی عورت کے پستان کا دودھ منہ لگا کر پی لیوے گا تو بہ سبب اس کے کہ عورت کا دودھ ہر شخص کو حرام ہے، شوہر مرتکب گناہ کبیرہ کا ہوا، مگر نکاح میں کچھ خلل نہیں آیا۔ فقط

سوال: (۶۱۳) کسی شخص کو ایسی بیماری ہوگئی کہ بغیر کسی عورت کے دودھ پئے اچھا نہیں ہو سکتا، تو اس حالت میں اگر وہ شخص اپنی زوجہ کا دودھ پی لے تو جائز اور حلال ہے یا حرام؟ اور دودھ پینے سے نکاح میں کچھ فرق تو نہیں آئے گا؟ (۳۳/۱۱۱۴-۱۳۳۴ھ)

الجواب: مصّ رجلٌ ثَدًی زوجته لم تحرم (۱) کسی مرد نے اپنی زوجہ کے پستان چوسے اور دودھ پیا، اس کی زوجہ اس پر حرام نہ ہوگی (الدر المختار، باب الرضاع) وفيه أيضًا: ولم یسح الإرضاع بعد مدّته (۲) یعنی مباح نہیں ہے دودھ پینا بعد مدتِ رضاع یعنی زمانہ شیر خوارگی کے، ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی زوجہ کا دودھ پینا مرد کو جائز نہیں ہے اور یہ کہ دودھ پینے سے اس کی زوجہ اس پر حرام نہیں ہوتی، اور تداوی کے لیے اس وقت استعمال اس کا درست ہے کہ اس میں شفا بہ قولِ طبیب حاذق مسلمان ثابت ہو، اور کوئی دوسری دوا اس کے قائم مقام نہ ہو (۳) فقط

سوال: (۶۱۴) عورت کا دودھ کسی دوا میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۲۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: عورت کے دودھ کا استعمال دوا میں بلا ضرورتِ شدیدہ درست نہیں ہے، اور ضرورتِ شدیدہ یہ ہے کہ طبیب حاذق تجویز کرے اور کوئی دوا لے حلال اس کے عوض نہ ملے۔ فقط

(۱) الدر المختار مع الردّ: ۳۱۰/۴، کتاب النکاح - آخر باب الرضاع .

(۲) الدر المختار مع الردّ: ۲۹۴/۴، کتاب النکاح - باب الرضاع .

(۳) وظاهر المذهب المنع كما في رضاع "البحر" لكن نقل المصنّف ثمة وهنا عن "الحاوي" وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى الخ (رد المختار: ۲۹۵/۴، کتاب النکاح - باب الرضاع وفي الدر المختار مع الشامي: ۳۲۵/۱، کتاب الطهارة - باب المياه - مطلب في التداوي بالمحرّم)

سوال: (۶۱۵) مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نفع المفتی میں لکھتے ہیں کہ عورت کے دودھ کا استعمال دواء جائز ہے۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ”بہشتی زیور“ میں لکھتے ہیں کہ عورت کا دودھ کسی دوا میں ڈالنا جائز نہیں (۱) حرام اور ناجائز ہے، ان دونوں صورتوں میں صحیح کیا ہے؟ (۱۹۳۸/۱۳۳۸ھ)

الجواب: مولانا تھانوی سلمہ نے اصل مذہب اور ظاہر الروایۃ کے موافق ممنوع فرمایا ہے۔ اور مولانا عبدالحی صاحب مرحوم نے موافق قول مفتی بہ کے دواء استعمال کرنے کو جائز لکھا ہے۔  
مولانا تھانویؒ کے قول کی دلیل یہ عبارت ہے: لا يجوز الانتفاع به للتداوي (۲) (شامی، باب الرضاع) اور جواز کی دلیل یہ عبارت شامی کی ہے: وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع ”البحر“ لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن ”الحاوي“: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى الخ (۳)

### اپنی بیوی کا دودھ پینا حرام ہے

سوال: (۶۱۶) ایک گروہ کہتا ہے کہ اپنی زوجہ کا دودھ پینا بہ عذر یا بلا عذر جائز ہے، دوسرا گروہ مطلقاً منع کرتا ہے، اس مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ (۲۸۱۲/۱۳۳۵ھ)  
الجواب: اپنی زوجہ کا دودھ پینا حرام ہے، لیکن اس سے نکاح میں خلل نہیں آتا، یعنی اگر کسی نے اپنی زوجہ کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس مرد کے نکاح سے خارج نہ ہوگی، لیکن یہ دودھ پینا حرام ہے، چنانچہ یہ دونوں مسئلے درمختار میں منقول ہیں:

دودھ پینے کی حرمت کے متعلق یہ عبارت ہے: ولم ييح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح الخ (۴) اور دوسرے مسئلہ کی دلیل یہ

(۱) اختری بہشتی زیور، چوتھا حصہ، ص: ۱۹، دودھ پینے اور پلانے کا بیان۔ مسئلہ: ۲۱۔

(۲) الشامی: ۲۹۴/۴، کتاب النکاح۔ باب الرضاع۔

(۳) رد المحتار: ۲۹۵/۴، کتاب النکاح۔ باب الرضاع۔ وفي الدر المختار مع الشامی:

۱/۳۲۵، کتاب الطہارۃ۔ باب المیاء۔ مطلب في التداوي بالمحرم۔

(۴) الدر المختار مع الرد: ۳۱۰/۴، کتاب النکاح۔ آخر باب الرضاع۔

عبارت ہے: مَصْرَجٌ رَجُلٌ ثَدِيٌّ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحْرُمِ الْخ (۱) اور عذر اور بلا عذر سے معلوم نہیں کیا مراد لی ہے؟ اگر مرض کا عذر مراد ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ حرام چیز کو اگر بہ ضرورت دوا استعمال کیا جاوے بہ شرطیکہ اور کوئی دوا حلال میسر نہ ہو تو اس صورت میں تداوی بالحرām کو بعض فقہاء نے بعض شرائط کے ساتھ جائز رکھا ہے، اور عبارت درمختار: لغیر ضرورۃ کی قید سے یہی ضرورت مراد ہے۔ فقط

### زوجہ کا دودھ آنکھ میں ڈالنا

سوال: (۶۱۷) زوجہ کے دودھ میں دوا گھس کر آنکھ میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۱۱۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس سے حرمت نہیں ہوتی، مگر بلا ضرورت شدیدہ استعمال عورت کے دودھ کا درست نہیں ہے۔ فقط

### علاج کے لیے بچہ کو گدھی کا دودھ پلانا

سوال: (۶۱۸) ایک بچہ جو نہایت کمزور و لاغر ہے، عمر اس کی دس ماہ کی ہے، اکثر حکیم و ڈاکٹر اس کے لیے گدھی کا دودھ تجویز کرتے ہیں، آیا بچہ کو گدھی کا دودھ پلانے سے والدین کو گناہ ہوگا یا نہ؟

(۱۵۱/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: واضح ہو کہ جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے، لہذا گدھی کا دودھ بھی حرام ہے، لیکن دوا و علاج کے لیے اگر نافع ہونا اس کا موافق رائے اطباء حذاق ثابت ہے، تو اس کا استعمال درست ہے (۲) فقط

(۱) الدر المختار مع الرد: ۲۹۴/۴، کتاب النکاح - باب الرضاع .

(۲) وكره لحم الأتان أي الحمارة الأهلية ..... ولبنها و لبن الجلالة التي تأكل العذرة ، و لبن الرمكة أي الفرس و بول الإبل ، و أجازہ أبو یوسف رحمۃ اللہ علیہ للتداوی — وفي الشامي: قوله: (ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله (الدر المختار والشامي: ۴۱۳-۴۱۴، أوائل كتاب الحظر والإباحة)

## جانور کا پتہ دوا میں ڈالنا

(یہ دونوں مسئلے فتاویٰ دارالعلوم ۱/۳۳۸ اور ۱/۳۵۷ میں شائع ہو چکے ہیں)

سوال: (۶۱۹) پتہ حلال جانور کا اگر کسی دوا میں ڈالا جائے اور وہ دوا کھانے میں استعمال نہ کی جائے بلکہ بدن کے ملنے کی ہو تو جائز ہے یا نہیں؟ اور بدن ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟  
(۱۳۳۸/۳۶۷ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: مرارة کل حیوان کَبُولُہ الخ (۱) پس جیسا کہ بول ماکول اللّٰحم کا نجس ہے پتہ (۲) بھی نجس ہے، اور تدای بہ ضرورت جائز ہے، پس نماز کے وقت اس جگہ کو دھولیا جائے۔ فقط

سوال: (۶۲۰) پتہ بیل اور بھینس اور پتہ خنزیر میں اور دوائیں ملا کر گولیاں بنا کر اس مریض کو جو کہ لا علاج مرضِ سرسام سے بے ہوش ہو اور قریب المرگ ہو، اور کسی دوا سے ہوش نہ آتا ہو اور دوائے مذکور سے پانچ منٹ میں ہوش آتا ہو، کیا جب اور کوئی دوا کارگر نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے؟  
(۱۳۳۱/۱۵۳۳ھ)

الجواب: ایسی حالت میں کہ دوا نجس میں ظن شفا و نفع غالب ہو اور کوئی دوا پاک اس کے قائم مقام نہ ہو سکے، بعض فقہاء نے اجازت ایسے ادویہ کے استعمال کی دی ہے، جیسا کہ ردالمحتار میں ہے: قوله: (اختلف في التدوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر إلخ (۳) (شامی) فقط

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۱/۲۸۹، کتاب الطہارة - باب الأنجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء.

(۲) یہاں پتے سے مراد وہ سیال مادہ ہے جو پتے کی تھیلی میں ہوتا ہے، پتے کی تھیلی مراد نہیں ہے، کیوں کہ پتے کی تھیلی دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، مگر اس کو کھانا مکروہ ہے۔ تقریرات رافعی میں ہے: (قوله: ولو أدخل في إصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده) وجه الكراهة استعمال النجاسة، لأن الجلد نجسة بمجاورة ما فيها من النجاسة، فلو غسلها وكانت من ذكبة فلا كراهة فيما يظهر. الخ (تقریرات الرافعی مع حاشیة ابن عابدین: ۱/۵۰، کتاب الطہارة، فصل في الاستنجاء)  
(۳) رد المحتار: ۱/۳۲۵، کتاب الطہارة - باب المياه، مطلب في التدوي بالمحرم.

### سانپ کے پھنے میں دوا جلا کر تیار کرنا

سوال: (۶۲۱) ایک دوا سانپ کے پھنے میں جلا کر تیار کی ہے اور پھنا دوا دونوں جل کر ایک ذات ہو گئے، لہذا اس دوا کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۵۸۹/۱۳۳۸ھ)

الجواب: حرام دوا کا استعمال ایسی حالت میں فقہاء نے جائز لکھا ہے کہ طیب مسلمان حاذق اس کا نافع ہونا بیان کرے اور کوئی دوسری دوا پاک و حلال اس کے قائم مقام نہ ہو سکے (۱) پس یہی حکم اس دوا کا ہے جو سانپ کے پھنے میں جلا کر تیار کی گئی ہے، اور اگر سانپ کا پھنا اس طرح جل جائے کہ خاکستر ہو جائے جیسا کہ لکڑی اور اُپلا جلا دیا جاتا ہے تو وہ خاکستر پاک ہے (۲) ایسی حالت میں اس دوا کے استعمال کے جواز میں کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط

### ناپاک چیز کا خارجی استعمال درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۶۲۲) نجس چیز کا استعمال خارجی درست ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا میتہ اور شراب بھی اس میں داخل ہے؟ اور اگر داخل نہیں ہے تو مابہ الفرق کیا ہے؟ اس کو استصباح دُھن نجس (ناپاک تیل سے چراغ روشن کرنے) پر کیوں قیاس نہیں کر سکتے؟ (۵۷۰/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: شامی جلد اول ستر عورت کے بیان میں درمختار کے اس قول: ولہ لبس ثوب نجس

(۱) يجوز للعليل شرب الدم والبول و أكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه (الفتاوى الهندية: ۵/۳۵۵، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات الخ)

(۲) قوله: (و يطهر زيت الخ)..... فيدخل فيه كل ما كان فيه تغيرٌ وانقلاب حقيقة، و كان فيه بلوى عامة..... وعذرة صارت رمادًا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف الخ (رد المحتار: ۱/۴۵۰، كتاب الطهارة - باب الأنجاس) قوله: (والحرق كالغسل) لأن النار تأكل مافيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء..... ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادًا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت الخ (الشامي: ۳۷۹/۱۰، كتاب الخبثي - مسائل شتى)

فی غیر صلاۃ کی توضیح میں مذکور ہے: قال ط: ولم يتعرّض لحکم تلویثہ بالنجاسة، والظاهر أنّه مکروه لانه اشتغال بمالا يفيد الخ (۱) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلا ضرورت نجس چیز کا استعمال خارجاً بھی مکروه ہے، اور شراب اور میتہ کا بھی یہی حکم ہے، بہ ضرورت تدائی درست ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں علت اشتغال بمالا يفيد موجود نہیں ہے۔

### جس مرہم میں خنزیر کی چربی شامل ہے اس کا حکم

سوال: (۶۲۳) انگریزی شفا خانوں کی بہت سی دواؤں میں شراب شامل ہوتی ہے، خنزیر کی چربی بہت سے مرہموں میں شامل ہے، علاوہ ازیں خالص شراب کئی قسم کی بہت سے امراض میں مستعمل ہے مثلاً نمونیا جو ایک مہلک مرض ہے اور خارجی و داخلی طور سے ان دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا نہ؟ (۷۳۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: جس دوا میں شراب یا چربی خنزیر وغیرہ کا ہونا محقق ہو اس کا استعمال حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی دوا کے استعمال داخلی و خارجی کے جواز کے لیے وہ شرائط ہیں جو فقہاء نے دوائے محرم کے جواز کے لیے ضروری لکھی ہیں، مثلاً یہ کہ تجربہ یا طبیب حاذق کے قول سے اس کا نافع ہونا یقینی ہو، اور اس کا بدل دوائے حلال سے نہ ملتا ہو (۲) مرض مہلک اور خطرناک میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ اگر اس دوائے حرام و نجس یا مشتبہ کا نافع ہونا محقق ہو، اور دوائے حلال اس کے بدلے اس درجہ کی موثر ثابت نہ ہو تو دوا حرام ایسے وقت میں حلال ہو جاتی ہے۔

سوال: (۶۲۴) جن انگریزی مرہموں میں خنزیر وغیرہ کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے ان کی خرید و فروخت اور استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۲۰۳۷/۱۳۳۹ھ)

الجواب: ناجائز ہے اور استعمال بھی ناجائز ہے اور مجبوری کا حکم دوسرا ہے۔ فقط

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۷۰/۲، کتاب الصلاۃ۔ باب شروط الصلاۃ۔ مطلب فی ستر العورة۔ (۲) قولہ: (اختلف فی التدائی

بالمحرّم) ففي النّهاية عن الذّخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء و لم يعلم دواء آخر إلخ۔

(رد المحتار: ۱/۳۲۵، کتاب الطهارة۔ باب المياہ، مطلب فی التدائی بالمحرّم)

## مینڈک اور جونک وغیرہ کے تیل سے تیار کی ہوئی دوا کا حکم

سوال: (۶۲۵) ایک دوا بارہا کے تجربہ سے نہایت مجرب ثابت ہو چکی ہے، مگر غیر مائکول اللحم حیوانات مینڈک و جونک وغیرہ کے تیل سے تیار کی گئی ہے، ایسی دوا کو بہ طور غذا یا مالش علی السویہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۱۳/۳۶-۳۷-۱۳۲۷ھ)

الجواب: حرام دوا کا نافع ہونا اگر تجربہ و طبیب حاذق کی رائے سے معلوم ہو جائے تو فقہاء رحمہم اللہ نے بہ ضرورتِ شدیدہ کہ کوئی دوسری دوائے حلال اس کے قائم مقام نہ ہو سکے اس کے کھانے اور استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ کما فی الشامی: وقیل بالجواز إذا علم فیہ الشفاء کما فی الفتح هنا وقال فی موضع آخر: إن أهل الطب یثبتون نفعاً للبن الت للعین وهي من أفراد مسئلة الانتفاع بالمحرّم للتداوی کالخمر، واختار فی النہایة والخانیة الجواز إذا علم فیہ الشفاء ولم یجد دواءً غیرہ بحر (۱) (۱۱۳/۴) فقط

## شیر اور سانڈا کی چربی کا خارجی استعمال

سوال: (۶۲۶) ایک شخص کو چربی شیر و چربی سانڈا (۲) اپنے جسم پر مالش کرنے کی ضرورت ہے تو دواء اس کا استعمال جائز ہے یا نہ؟ اور نماز کے وقت دھوسکتا ہو تو بغیر دھوئے نماز جائز ہے یا نہ؟ (۶۲۰/۲۳-۲۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: ناپاک اور حرام چیزوں کا دواء استعمال کرنا اس وقت جائز ہے کہ اور کوئی دوا حلال اس کا بدل نہ ملے اور طبیب حاذق تجویز کرے، پس اگر ایسا ہو تو استعمال حرام دوا کا جائز ہے۔ اور اگر اس کو دھونہ سکے تو بدون دھوئے نماز صحیح ہے۔ (لیکن دھوسکتا ہو تو نماز کے وقت دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ محمد امین پالن پوری)

(۱) الشامی: ۱۹۴/۷، کتاب البیوع۔ باب البیع الفاسد، مطلب فی التداوی بلبن البنّ للزّمد قولان.

(۲) سانڈا: گوہ کی قسم کا ایک جانور جس کا تیل نکال کر گٹھیا کے درد کے لیے یا طلا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ (فیروز اللغات)



سوال: (۶۲۷) ایک عنین جو ہر طرح کے علاج سے مایوس ہو گیا ہو تو وہ اشیائے محرمہ کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو تک، گینڈا، ساٹھا، مینڈک، وغیرہ کا تیل نکال کر جو دوا بنائی گئی ہے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۷۰۲)

الجواب: بہ ضرورت دوا اشیائے محرمہ کا استعمال جائز ہے بہ شرطیکہ طبیب حاذق کی رائے میں بہ ظن غالب وہ دوا مفید ہو۔ قال فی الشامی: واختار فی النہایة والخانیة الجواز إذا علم فیہ الشفاء ولم یجد دواء غیرہ بحر (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### جس دوا میں شراب ملی ہوئی ہو اس کا حکم

سوال: (۶۲۸) جس دوا میں شراب ہو اس سے علاج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۷۷)

الجواب: جس دوا میں شراب کا جزو ہونا یقینی ہے اس کے ساتھ علاج کرنا اور اس دوا کا استعمال کرنا بدون اس صورت کے کہ جس میں حرام دوا بھی جائز ہو جاتی ہے جائز نہیں ہے، اور حرام دوا کا استعمال اس وقت درست ہے کہ طبیب حاذق کی رائے میں وہ زیادہ تر مفید ہو، اور فائدہ کے لیے متعین ہو اور اس کا بدل حلال دوا سے نہ ملے۔ کما حققہ الفقہاء رحمہم اللہ (۲) فقط

سوال: (۶۲۹) ایک شخص عرصہ پچیس برس سے مختلف امراض میں مبتلا ہے، اور علاج اس کا ڈاکٹری ادویہ سے ہوتا رہا، جب تک دوا کا استعمال کرتا ہے تب تک تو اچھا رہتا ہے، اور جب دوا چھوڑ دیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اب اس شخص کو تحقیق ہو گیا کہ یہ ادویات اکثر شراب وغیرہ سے مرکب ہوتی ہیں، لہذا اس نے دوا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے بہت تکلیف میں مبتلا ہے، اب فرمائیے ایسی حالت میں ان ادویات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۳/۲۰۰۶)

الجواب: ادویہ حرام کا استعمال ایسی صورت میں کہ نفع ان کا ثابت ہو، اور اس کا بدل ادویہ حلال میں نہ مل سکے، فقہاء نے جائز لکھا ہے، پس ایسی ضرورت میں ادویہ محرمہ کا بہ قدر ضرورت

(۱) رد المحتار: ۱۹۳/۷، کتاب البیوع۔ باب البیع الفاسد، مطلب فی التداوی بلبن البنت للرمذ الخ  
(۲) يجوز للعلیل شرب الدّم والبول و أكل الميتة للتداوی إذا أخبره طبیب مسلم أن شفاءه فیہ ولم یجد من المباح ما یقوم مقامہ (الفتاویٰ الہندیة: ۳۵۵/۵، کتاب الکراہیة، الباب الثامن عشر فی التداوی والمعالجات الخ)

استعمال درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مجبوری کی حالت میں دوا کے طور پر شراب استعمال کرنا

سوال: (۶۳۰) شراب کا استعمال دوا کے واسطے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۷۱/۸۲-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: خاص امراض جن میں اور کوئی دوا نافع نہ ہو اور شراب کا نافع ہونا تجربہ سے معلوم ہو تو بہ ضرورت استعمال شراب کا درست ہے۔ فقط

سوال: (۶۳۱) میں ۸ سال سے بہ عارضہ قلب سخت علیل ہوں، تندرستی خراب ہوگئی، جہاں تک ہوسکا علاج یونانی و ڈاکٹری کیا گیا، فائدہ کی صورت قطعی نظر نہ آئی، اب دو چار ڈاکٹر حکیموں نے متفق ہو کر یہ رائے قائم کی ہے کہ کچھ عرصہ تک روزانہ ایک بیضہ مرغ ہمراہ ایک تولہ شراب کھایا جائے، فرمائیے شراب کا استعمال ایسی حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ (۳۸۶/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: ایسی حالتِ مجبوری میں جب کہ اور کوئی دوا حکیم اور ڈاکٹر حاذق تجویز نہ کریں، بعض فقہاء رحمہم اللہ نے حرام دوا شراب وغیرہ کی استعمال کی اجازت دی ہے، لہذا ایسی حالتِ مرض میں استعمال شراب کا بغرض دوا جائز ہے۔ فقط

سوال: (۶۳۲) جس شخص کو مولیٰ (۱) کی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر بھی تیار ہو جاتا ہے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، مگر شراب نوشی سے کافی تسلی ہو جاتی ہے، کیا اس کو عذراً شراب نوشی جائز ہے؟ (۱۹۵۷/۱۳۳۸ھ)

الجواب: اگر اور کوئی دوا کارگر نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں حرام دوا کی فقہاء نے اجازت دی ہے، لہذا ایسے وقت میں کہ کوئی حلال دوا اس مرض کے لیے نافع نہ ہو شراب کی تدویٰ جائز ہے۔

### زندہ مرغ کا پیٹ چاک کر کے مریض کے سر پر باندھنا

سوال: (۶۳۳) زندہ مرغ کا پیٹ چاک کر کے سرسام (۲) والے کے سر پر باندھتے ہیں،

(۱) مولیٰ: دیوانہ، سڑی، پاگل (فیروز اللغات)

(۲) سرسام: ایک بیماری جس سے دماغ میں ورم آ جاتا ہے (فیروز اللغات)

کیا یہ جائز ہے؟ (۱۳۳۵/۱۰۰)

الجواب: بلاذخ کر کے ایسا کرنا درست نہیں کہ اس میں تغذیب ہے، اور پھر استعمالِ مہیہ خود حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

### مجبوری میں دوا کے طور پر افیون کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت کا حکم

سوال: (۶۳۴) مریض مایوس العلاج کے لیے اگر کوئی مسلمان حکیم حاذق افیون سے علاج کرنا تجویز کرے تو شرعاً افیون کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ بہ صورت جواز خرید و فروخت بھی جائز ہوگی یا نہ؟ (۱۳۴۲/۲۷۴۴)

الجواب: قال في الدر المختار: وكذا كل تداءٍ لا يجوز إلا بظاهر، وجوزة في النهاية بمحرّم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحاً يقوم مقامه الخ (۱) وصحّ بيع غير الخمر مما مرّ، ومفاده صحّة بيع الحشيشة والافیون الخ (در مختار) ثم إن البيع وإن صحّ لكنه يكره (۲) (شامی) وفيه أن جواز إقدام المشتري على الشراء للضرورة لا يفيد صحّة البيع كما لو اضطر إلى دفع الرشوة لإحياء حقّه جازله الدّفع وحرّم على القابض الخ (۳) (شامی)

ان عبارات سے جوازِ تدویٰ بالمحرّم عند الضرورت اور صحتِ بیع و شراءِ افیون معلوم ہوئی، اور آخر عبارت سے یہ بھی واضح ہوا کہ جوازِ تدویٰ مستلزم جوازِ بیع کو نہیں ہے، کیونکہ تدویٰ ہر ایک حرام کے ساتھ بہ شرائطِ معتبرہ جائز ہے اور بیع اس کی جائز نہیں ہے، مگر افیون کی بیع و شراء کو امام صاحب بلا ضرورت تدویٰ بھی جائز مع الکراہت فرماتے ہیں، پس بہ ضرورتِ تدویٰ بہ درجہ اولیٰ جائز ہے۔

### مجبوری میں مانع حمل دوا استعمال کرنا

سوال: (۶۳۵) زینب بیوہ نے زید کے ساتھ بلا مرضی و اطلاع اپنے بھائی برادران و گاؤں

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

(۲) الدر المختار و رد المحتار: ۳۴/۱۰، کتاب الأشربة . (۳) رد المحتار: ۷/۱۹۳،

کتاب البیوع - باب البيع الفاسد، مطلب في التداءي بلبن البنت للرمد قولان .

سے پوشیدہ اپنا نکاح ثانی کر لیا تھا، چونکہ راج پوت نکاح ثانی کو برا جانتے ہیں، اور زینب کو نکاح کی از حد ضرورت تھی اس لیے زینب نے نکاح ثانی از خود زید سے کر لیا تھا، کچھ عرصہ کے بعد زینب کو حمل رہ گیا، نہایت دشواری ہوئی، اگر حمل رکھا جائے تو تمام گاؤں اور بھائی برادران ہر دوا شخص کو جان سے مار دیں گے، اسی خوف سے وہ حمل تو دو ماہ کے اندر دوا کے استعمال سے گرا دیا، اور پھر بھی خوف ہے کہ کبھی پھر حمل نہ رہ جائے اگر کوئی دوا یا علاج اس قسم کا کیا جائے جس سے حمل نہ رہے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۴۵۳ھ)

الجواب: اگر ایسے خوف کی حالت میں کہ اندیشہ ہلاکت ہے ایسا علاج کیا جائے تو کچھ مواخذہ ان شاء اللہ تعالیٰ نہ ہوگا، جیسا کہ عزل بھی ایسی حالت میں درست ہو سکتا ہے، لیکن جو نسہ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا علاج ہو یا نہ ہو۔ فقط

سوال: (۶۳۶) زید کی بیوی کے قویٰ بارہا اولاد ہونے کی وجہ سے نہایت مضحل ہیں، زید اور اس کی بیوی اس امر پر راضی ہو گئے ہیں کہ کسی دوا کے استعمال سے قطعاً توالد و تناسل کر ڈالیں، حسب عادت جماع جاری رہے اور اولاد نہ ہو، یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۰۶۸ھ)

الجواب: بہ صورت مذکورہ وعذر مذکور فعل مذکور درست ہے۔ کما قالوا فی إسقاط الحمل قبل التخلیق: قال فی التہر: بقی هل یباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم، یباح ما لم یتخلق منه شیء الخ (۱) (شامی: ۲/۳۸۰) فقط

### پانچ چھ ماہ کا حمل گرانا حرام ہے

سوال: (۶۳۷) ایک عورت بیوہ ہوئی اس کو نکاح کے واسطے کہا گیا، اس نے انکار کر دیا، بعد میں ایک شخص سے حمل رہ گیا، تین چار ماہ کے بعد اس آدمی سے نکاح کر دیا، بعد کو چھ ماہ کے درمیان جب حمل ظاہر ہو گیا تو گرا دیا گیا، تو کیا یہ نکاح صحیح ہو گیا تھا یا نہیں؟ اور جب چھ سات ماہ کا حمل ہو جائے اس کا گرانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور زانی کی کیا سزا ہے؟

(۱۳۳۷-۳۶/۳۱۷۴ھ)

(۱) رد المحتار: ۲/۲۵۲، کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق - مطلب فی حکم إسقاط الحمل.

**الجواب:** زنا کرنا حرام اور معصیت کبیرہ ہے اور زانی کی شرعی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے سنگسار کیا جائے اور مارا جائے، جب کہ اس کا زنا کرنا شرعاً ثابت ہو جائے، اور یہ گناہ شدید تر ہے کہ عورت بیوہ نکاح سے انکار کرے اور زنا کی مرتکب ہو، اور یہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ جو بیوہ عورت زنا سے حاملہ ہو جائے اس کا نکاح بہ حالت حمل درست ہے یا نہیں؟ سو حکم شرعی یہ ہے کہ حاملہ من الزنا کا نکاح بحالت حمل زانی اور غیر زانی سے درست اور صحیح ہے، لیکن اگر زانی کے ساتھ نکاح ہو جیسا کہ صورت مسئلہ میں ہے تو شوہر کو وضع حمل سے پہلے بہ حالت حمل وطی کرنا بھی جائز ہے، اور اگر نکاح غیر زانی سے ہوا ہو تو اس کو حالت حمل میں وطی کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لئلا یسقی ماء ذرع غیرہ (۱) اور پانچ چھ ماہ کے بچہ کو گرانا یعنی پانچ چھ ماہ کا حمل ساقط کرنا حرام اور ناجائز ہے، ایسا کرنے والا سخت گنہ گار اور ظالم ہے۔ فقط

### ٹوٹا یا گرا ہوا دانت دوبارہ لگوانا

**سوال:** (۶۳۸) ٹوٹے ہوئے یا گرے ہوئے دانت کو دوبارہ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳/۸۳۱ھ)

**الجواب:** جس شخص کا دانت ٹوٹ کر گر جائے اس کو نیا دانت لگوانا یا وہی دانت لگوانا جائز ہے، مگر احتیاط اس میں ہے کہ جو دانت ٹوٹ گیا ہے اور گر گیا ہے دوبارہ اس کو نہ لگوائے۔ فإنّ ابا حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ یکرہ أن یعیدھا و یشدھا بفصّة أو ذھب إلخ (۲) (شامی: جلد ۵) لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو جائز ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اس لیے گنجائش ہے، قاضی خان میں ہے: وقال أبو یوسف رحمۃ اللہ علیہ: لا بأس بأن یشدّ ثنیتہ فی موضعھا (۳)

(۱) عن حَنَشِ الصَّنْعَانِی عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِی قال: قامَ فینا خطیباً قال: أما أنّی لا أقول لکم إلّا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم حُنین: قال: لا یحلّ لامرئٍ یؤمن باللّٰه والیوم الآخر أن یسقی ماء ذرع غیرہ یعنی اِتیان الحِجَالِی الحدیث (سنن أبی داؤد: ص ۲۹۳ کتاب النکاح - باب فی وطی السبایا)

(۲) الشّامی: ۴۲۱/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللّٰبس .

(۳) الفتاوی الخانیة علی الفتاوی الہندیة: ۴۱۳/۳، کتاب الحظر والإباحة، باب ما یکرہ من الثیاب والحلی والزینة وما لا یکرہ .

اور البحر الرائق میں ہے: وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: يشدّها بالذهب والفضّة في مكانها (۱) وذكروا في جامع الصّغير: إذا تحرك سنّ الرّجل فشدّها بذهب، قال محمد رحمه الله تعالى: لا بأس به. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأوّل (۲) اور شامی میں ہے: وجوزّهما محمد أي جوزّ الذهب والفضّة أي جوزّ الشدّ بهما إلخ (۳) قاضی خان میں ہے: وكذا إذا سقطت سنّه لا بأس بأن يتخذ سنّا من فضّة، ويكره أن يتخذ من ذهب إلخ (۴) فقط

### کھوکھلی ڈاڑھ میں مصالحو بھرنا کیسا ہے؟

سوال: (۶۳۹) میرے دائیں نیچے کی ڈاڑھ میں ایک گڑھا ہو گیا ہے، کھانے میں قریب آدھے چاول کے کوئی چیز اٹک جاتی ہے، اور بغیر اس کے نکالے چین نہیں پڑتا، اور پانی پینے کے وقت چھس ہوتی ہے، اس ڈاڑھ کے گڑھے میں مصالحو بھرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ (۲۹۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف. به يفتى وقيل: إن صلّباً منع وهو الأصح (۵) اور شامی نے بھی اس اخیر قول کی تصحیح کی ہے (۶) پس معلوم ہوا کہ کھوکھلی ڈاڑھ میں کوئی سخت مصالحو بھرنا جو پانی کے اندر پہنچنے کو مانع ہو غسل کے لیے حارج ہے اور غسل ادا نہ ہوگا (۷) البتہ وضو میں جو کلی کرنا فرض نہیں ہے سنت ہے اس لیے وضو صحیح ہوگا، اگرچہ ترک سنت ہوگا،

- (۱) تکملة البحار الرائق: ۳۲۲/۹، کتاب الکراهية، فصل في الأكل والشرب .
- (۲) الفتاوى الخانية على الهندية: ۴۱۳/۳، کتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره إلخ .
- (۳) الشامي: ۴۲۱/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس .
- (۴) الفتاوى الخانية على الهندية: ۴۱۳/۳، کتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره إلخ .
- (۵) الدر المختار مع الرد: ۲۵۹/۱، کتاب الطهارة - قبيل: سنن الغسل .
- (۶) قوله: (وهو الأصح) صرح به في شرح المنية لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والخرج اهـ ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله، فافهم (۲۵۹/۱)، کتاب الطهارة - مطلب في أبحاث الغسل - قبيل: سنن الغسل

(۷) صحیح یہ ہے کہ غسل صحیح ہو جائے گا۔ کفایت المفتی میں ہے:

جواب: (۱۸۲) دانتوں کی کسی خرابی کی وجہ سے سونے کا خول چڑھانا جائز ہے اور محض زینت کے لیے چڑھانا مکروہ ہے، اور ضرورت چڑھایا ہوا ہو یا بلا ضرورت بہر صورت غسل وضو کے لیے مانع نہیں، کیوں کہ وہ ==

لیکن غسل میں منہ کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے، لہذا ایسے مصالحہ سخت سے جو کہ پانی کے پہنچنے کو روکے غسل ادا نہ ہوگا۔ فقط

### پتھر یا ہڈی کا دانت لگانا جائز ہے

سوال: (۶۴۰) جس شخص کے دانت ضعیفی میں اکھڑ جاویں اس کو ہڈی یا پتھر کے دانت لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۲۵)  
الجواب: جائز ہے۔ فقط

### عرق کشی سے پہلے دوا اور پانی سے بھرا ہوا

### مٹی کا گھڑا گھوڑے کی لید میں رکھنا

سوال: (۶۴۱) ایک مٹی کے گھڑے میں چند دوائیں رکھ کر گھڑا پانی سے بھر کر منہ بند کر کے تایا (پکھلایا) جائے، اور ایسا گڈھا کھودا جائے کہ گھڑا اس کی گہرائی میں آ سکے، اور گھڑے کے نیچے اور اوپر گھوڑے کی لید رکھی جائے اور ایسے موقع پر یہ گھڑا رکھا جائے جہاں شبنم اور دھوپ دونوں آسکیں، ۱۵ یوم کے بعد گھڑا نکال کر ان دواؤں کا عرق کھینچا جائے، ایسی دوا کے استعمال میں مسلمانوں کے لیے کوئی نقص تو نہیں ہے؟ (۱۳۳۰/۹۳۲)

الجواب: مٹی کا گھڑا چونکہ نجاست کو کھینچتا ہے اور اثر اس کا اندر پہنچتا ہے، اس لیے وہ ادویہ

== ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہ خلاف آٹے اور چکنے میل کے کہ وہ جزو لازم نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ (کفایت المفتی: ۹/۱۴۷، کتاب الحظر والإباحة، دسواں باب: لباس ومتعلقات لباس)  
جواب: (۱۹۷) دانتوں پر سونے کا خول چڑھانا اگر دانتوں کے کسی مرض لاحق کی وجہ سے ضروری ہو یا دانتوں میں مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اس سے محفوظ رہنے کے لیے خول چڑھانا ضروری ہو تو سونے کا خول چڑھانا مباح ہے، اور اگر ضروری نہ ہو محض زینت کے لیے چڑھایا جائے تو مکروہ ہے، اور بہر صورت جب خول کا اتارنا چڑھانا محذور ہو تو وہ دانتوں کے حکم میں ہو جاتا ہے اور وضو و غسل میں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ للخرج المدفوع شرعاً. فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ، دہلی (کفایت المفتی: ۹/۱۵۵، کتاب الحظر والإباحة، دسواں باب: لباس ومتعلقات لباس)

نجس ہو گئیں استعمال ان کا درست نہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جو کہ ادویہ محرمہ کے استعمال کے جواز کے لیے فقہاء نے لکھی ہے مثلاً یہ کہ طبیب مسلم حاذق اس کو مفید بتلاوے اور اس کا بدل دوائے حلال سے نہ ہو سکے۔ فقط

### علاج کی غرض سے چاندی کا چھلّا استعمال کرنا

سوال: (۶۴۲) ایک شخص مرض نفرس (۱) کا علاج اس طور سے کرتا ہے کہ ہر دو پاؤں کے انگوٹھوں میں چاندی کا چھلا پہنتا ہے، زید اس مرض میں مبتلا ہے، اس کو بہ غرض علاج چاندی کا چھلا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۵۱۳ھ)

الجواب: علاج استعمال چاندی کے چھلے کا زید کو بہ حالت مذکورہ درست ہے، اور زید گنہ گار نہ ہوگا، اور اس کی نماز میں کچھ نقص نہ ہوگا۔ لائن الضرورات تبیح المحظورات (۲) فقط

### پاخانہ کے کیڑوں کا لعاب آنکھ میں لگانا

سوال: (۶۴۳) کچھ پاک دوائیاں انسان کے پاخانہ میں ڈال کر اس سے کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان کیڑوں کے لعاب کو سلائی سے آنکھ میں لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ موتیابند (۳) وغیرہ آنکھ کے امراض شدیدہ کو ان سے صحت ہو جاتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۷۴۸ھ)

الجواب: بہ ضرورت و بہ غرض علاج استعمال لعاب مذکور کا آنکھ میں جائز ہے۔ فقط

### تندرستی برقرار رکھنے کے لیے شراب اور برانڈی کا استعمال درست نہیں

سوال: (۶۴۴) شراب یا برانڈی صحت جسمانی کو قائم رکھنے کے لیے اگر ڈاکٹر تجویز کرے تو

(۱) النِّقْرَسُ: پیروں کے جوڑوں کی بیماری جو اکثر انگوٹھے میں ہوتی ہے، اس کا نام داء الملوک بھی ہے۔ (القاموس الوحید)

(۲) قواعد الفقہ: ص: ۸۹، قاعدہ: ۱۷۰، و أيضًا في الدر المختار مع الرد: ۵/۱۷۵، کتاب الطلاق - باب العدة، فصل في الحداد .

(۳) موتیابند: آنکھ میں پانی اترنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے (فیروز اللغات)



اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ (۳۵۰۷/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: شراب یا برانڈی کا استعمال محض صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے جائز نہیں ہے۔  
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ لم يجعل شفاء کم فیما حرم علیکم أو کما قال  
صلی اللہ علیہ وسلم (۱) فقط

### فوت شدہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا

سوال: (۶۴۵) اگر حاملہ عورت کا چار ماہ یا چھ ماہ یا سات ماہ یا نو ماہ کے اثناء میں انتقال ہو جائے تو اس کے بچے کو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے یا نہیں؟ (۲۲۰۹/۱۳۴۷ھ)

الجواب: درمختار میں لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو کہ حرکت کرتا ہو، تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ کو نکالا جائے، پس جس وقت حمل کو اتنی مدت ہو جائے کہ بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگے اور ماں کے مرنے پر بھی اس میں حرکت اور اضطراب باقی ہو اس وقت یہ حکم ہے جو مذکور ہوا، کسی مدت کی قید نہیں ہے، بلکہ اگر نواں مہینہ بھی حاملہ کو ہو اور اس کے مرنے پر بچہ پیٹ میں حرکت کرتا اور اضطراب کرتا ہو معلوم نہ ہو، تو پیٹ کو چاک نہ کیا جائے گا، بلکہ مدار بچہ کے زندہ ہونے پر اور حرکت و اضطراب پر ہے نہ کسی مدت پر۔ چنانچہ عبارت درمختار کی یہ ہے: حامل ماتت و ولدھا حی یضطرب شق بطنھا من الأیسر و یخرج ولدھا إلخ (۲)  
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حاملہ عورت مر گئی اور اس کا بچہ پیٹ میں زندہ ہے کہ حرکت کرتا ہے، تو بائیں جانب سے عورت کے شکم کو چاک کر کے بچہ کو نکالا جائے۔ فقط

### بچہ کی نال تجربہ کار سے کٹوانا چاہیے؟

سوال: (۶۴۶) بچہ پیدا ہونے کے بعد نال خود کاٹنا چاہیے یا دوسرے تجربہ کار سے کٹوانا

(۱) صحیح البخاری: ۸۴۰/۲، کتاب الأشربة - باب شراب الحلواء والعسل.  
(۲) الدر المختار مع الشامی: ۱۳۶/۳، کتاب الصلوة، باب صلاة الجنابة، مطلب فی دفن المیت.

چاہیے؟ ترجیح کس کو ہے؟ (۱۳۴۰/۱۲۹۱ھ)

الجواب: جو اچھا جانتا ہو اسی سے کٹوانا چاہیے، اور اس میں بحث فضول ہے شرعاً اس میں کوئی نص نہیں ہے، اور کسی کو ترجیح مذکور نہیں ہے، جیسا موقع ہو اور جو واقف ہو وہ اس کام کو کرے۔

### انسان کی ہڈیوں کو توڑنا اور چیر پھاڑ کر اپنے ہمراہ رکھنا

سوال: (۶۴۷) عظام انسانی مسلم ہو یا غیر مسلم بہ غرض تشریح چھونا اور اپنے ہمراہ رکھنا اور رقم خرچ کر کے خریدنا اور ہر عضو کو جدا جدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۵-۴۴/۲۵۶ھ)

الجواب: شریعت میں یہ امر جائز نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ کافر ذمی کی ہڈیاں بھی محترم ہیں، ان کی ہڈیوں کو بھی توڑنا اور چیرنا پھاڑنا نہ چاہیے، چہ جائے کہ مسلمان کی لاش کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاوے۔ قال في الدر المختار: (عظم الذمي محترم)..... لأنه كما حرم إيذاؤه في حياته لأنه مُثَلَّةٌ، وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته. خانية (۱) (شامی) و الحدیث کسر عظم المیت ککسره حیاً (۲) قال الطیسی إشارة إلى أنه لا يهان المیت كما لا يهان الحي (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### کشتہ نجس الحدید کو شراب میں حل کرنا اور خشک ہونے کے بعد اس کو کھانا

سوال: (۶۴۸) ایک شخص نے کشتہ نجس الحدید (۴) کو شراب میں حل کیا ہے اور وہ خشک ہو گیا

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۳/۱۴۵، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور.

(۲) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المیت ککسره حیاً (سنن أبي داود: ص: ۴۵۸، کتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل ينكتب ذلك المكان)

(۳) هامش مشكاة المصابيح: ص: ۱۴۹، کتاب الجنائز، باب دفن المیت، الفصل الثاني. رقم الحاشية: ۶.

(۴) خُبْتُ الحَدِيد: لوہے کا میل۔ (فیروز اللغات)

ہے اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ شراب کا سرکہ بن جاتا ہے تو فقہاء نے اس کو جائز رکھا ہے؟

(۱۳۳۰/۹۴۹ھ)

الجواب: جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خبث الحدید بوجہ شراب پڑنے کے نجس ہو چکا ہے، پھر خشک ہونے سے پاک نہ ہوگا اور قیاس سرکہ پر صحیح نہیں ہے۔ فقط

### طاعون یا ہیضہ سے مرنے والا شہید ہے

سوال: (۶۴۹) طاعون یا ہیضہ یا آگ سے جل کر یا مکان گرنے سے دب کر مرنے والے درجہ شہادت پاسکتے ہیں؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۳ھ)

الجواب: اسباب مذکورہ سے مرنے والے کو درجہ شہادت حاصل ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم (۱) (صحیح بخاری) وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيد الحديث (۲) (مشكاة شريف: باب عيادة المريض وثواب المرض) وعلى هذا في البحر: فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء كذا في البدائع (۳) انتهى، أقول: وهكذا في الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع الشامي. وفيه أيضًا: والمهدوم عليه الخ (۴)

سوال: (۶۵۰) مرض طاعون میں فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵-۴۴/۸۰۸ھ)

الجواب: وہ شخص شہید مرتا ہے۔ كما ورد في الحديث. فقط والله تعالى اعلم

(۱) صحيح البخاري: ۸۵۳/۲، كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون .

(۲) مشكاة المصابيح، ص: ۱۳۶ كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وثواب المرض، الفصل الثاني .

(۳) البحر الرائق: ۳۴۳/۲، كتاب الجنائز - باب الشهيد .

(۴) الدر مع الرد: ۱۵۳/۳، كتاب الصلاة - باب الشهيد - مطلب في تعداد الشهداء .

## تبدیل آب و ہوا کی غرض سے طاعون کی جگہ سے نکلنا

سوال: (۶۵۱) جس شہر یا قصبہ میں طاعون شروع ہو جاوے وہاں کے باشندے اہل اسلام آیا آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں یا اپنے اپنے مکانات ہی میں اللہ پاک پر بھروسہ کر کے متمکن رہیں؟ اگر بھاگ جانا جائز ہے تو اس کے کیا احکام اور اشکال ہیں؟ اور اگر مکان مسکونہ میں ہی رہنا ہے تو اس کے متعلق ہمارے رسول کریم ﷺ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہر حال ہمارے پیشوا اور ہمارے رسول کریم ﷺ کا جو ارشاد ہوا اس سے مطلع فرمائیں۔ (۱۳۳۵/۲۴۰ھ)

الجواب: درمختار — جو فقہ حنفیہ کی جامع و معتبر کتاب ہے — میں ہے: وإذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى (۱) (درمختار) حاصل یہ ہے کہ اگر طاعون والے شہر سے نکلیں یا داخل ہوں تو اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی تقدیر سے ہے تو اس کے حق میں نکلنا اور داخل ہونا درست ہے، اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ نکلنے کی وجہ سے مرنے سے بچ جاوے گا اور اگر داخل ہوا تو مبتلائے طاعون ہو جاوے گا تو اس کو نکلنا اور داخل ہونا مکروہ ہے، سو ایسے عقیدہ والا نہ داخل ہو نہ خارج ہو، اور اسی پر محمول ہے ممانعت حدیث شریف میں الخ۔ فقط واللہ اعلم

سوال: (۶۵۲) اگر طاعون شروع ہو تو آبادی کا تخیلہ کر کے جنگل میں یا دوسری آبادی میں جا کر قیام کرنا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کوئی حدیث شریف ہے؟ (۱۳۳۳/۲۶۰۳ھ)

الجواب: عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه (۲) (معالم التنزيل: ۱۱۴/۴) روایت مذکورہ سے ظاہر

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی — مسائل شتی، قبیل کتاب الفرائض .

(۲) معالم التنزيل لأبي محمد الحسين الفراء البغوي: ص: ۱۱۴، البقرة الآية: ۲۴۳. وصحيح

البخاري: ۸۵۳/۲، کتاب الطب — باب ما يذكر في الطاعون .

ہے کہ وبائے طاعون فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اس کا ہونا ثابت نہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کے متعلق کہ جو اس میں مبتلا ہوں فرمایا کہ جہاں کہیں یہ وبائے طاعون پھیل رہی ہو تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے نہ بھاگیں، اور وہ جو دوسری بستیوں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی نہ چاہیے کہ خواہ مخواہ اس دہشتی ہوئی آگ میں قدم رکھیں، غرضیکہ حدیث مذکور میں ایسی جگہ سے نکلنے اور داخل ہونے دونوں ہی کی ممانعت ہے، لیکن کتب فقہ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کا اعتقاد اس درجہ محکم ہو کہ نفع و ضرر جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے وہ سب تقدیر الہی سے ہے کسی شے میں قدرت نہیں کہ بالذات کوئی ضرر پہنچا سکے، تو پھر اس کے لیے ایسی جگہ سے کہ جہاں طاعون ہو نکلنا اور داخل ہونا جائز ہے، اور جس کا اعتقاد متزلزل ہو یعنی یہ سمجھتا ہو کہ یہاں رہنے میں ہلاکت اور نکلنے میں نجات ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہاں سے نکلے یا داخل ہو، اور یہی محمل حدیث مذکور کا ہے۔ جیسا کہ درمختار میں مجمع الفتاویٰ سے نقل کیا ہے: حیث قال: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانةً لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف انتهى (۱) (درمختار مع الشامی: ۴۸۲/۵) الحاصل حدیث و روایات فقہیہ سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تبدیل آب و ہوا کی غرض سے آبادی کو چھوڑ کر اس کے متصل یا کسی دوسری جگہ قیام کرے تو اس کے لیے جائز ہے، ہاں اگر یہ قیام بہ نیت فرار ہو تو جائز نہیں۔

سوال: (۶۵۳) زید جس شہر میں مع عیال رہتا ہے اس میں مرض وبائی طاعون سے اکثر آدمی مرتے ہیں، اور اس شہر کے بہت سے آدمی دوسرے مقامات کو بھاگ رہے ہیں، زید کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص بلا حکم خدا کے خواہ کوئی مقام ہو مر نہیں سکتا، اس صورت میں دفع تو حش کے لیے اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں یا ایک محلہ سے دوسرے محلہ میں منتقل ہونا درست ہے یا نہیں؟

(۱۶۴۵/۳۲-۳۳/۱۳۳۳ھ)

الجواب: زید کا عقیدہ جب کہ وہ ہے جو سوال میں مذکور ہے تو اس کے حق میں اس جگہ سے باہر چلا جانا یا دوسرے محلہ میں منتقل ہونا درست ہے، حنفیہ نے وجہ عدم جواز خروج و دخول کی عقیدہ کی

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی، قبیل کتاب الفرائض.

حفاظت لکھی ہے، پس اگر عقیدہ صحیح ہو، اور وہ شخص جانتا ہے کہ بلا امر حق تعالیٰ کچھ نہیں ہو سکتا، نہ بھاگنا موت سے بچا سکتا ہے نہ اس جگہ رہنا اور داخل ہونا سبب ہلاکت کا بلا امر حق تعالیٰ ہو سکتا ہے، تو اس کے حق میں دخول و خروج جائز ہے۔ قال فی الدر المختار: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا، ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده، وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى (۱) (در مختار) فقط

سوال: (۶۵۴) جس گاؤں یا قصبہ میں چوہے مر جاویں تو وہاں کے باشندے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس گاؤں کے جنگل میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، جب آرام ہو جاتا ہے تو اپنے اپنے مکانات میں آ جاتے ہیں، اس انتقال کا نام حفظ ماتقدم اور تبدیل آب و ہوا رکھا ہے، گویا یہ اس مرض طاعون کے لیے ایک قسم کا علاج مکمل سمجھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۲۴۶ھ)

الجواب: در مختار میں ہے: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده، وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى الخ (۱) اس عبارت سے مذہب فقہائے حنفیہ جو اس بارے میں ہے واضح ہو گیا کہ اگر اعتقاد صحیح ہے اور یہ جانتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر ایک امر اللہ کی تقدیر سے ہے نہ باہر نکلنا نجات دیتا ہے اور نہ وہاں رہنا مارتا ہے، تو اس کے لیے خروج و دخول درست ہے، فليحفظه هذا الأصل وهو محمل حديث النهي. فقط

سوال: (۶۵۵) ایک شہر میں طاعون ہے، میرے مکان میں چوہے مرنے کی وجہ سے از حد عفونت ہے، اور آبادی کے سب لوگ ہندو و مسلمان مکانات چھوڑ کر بیرون آبادی مقیم ہیں، ایسی حالت میں مجھے آبادی سے باہر جا کر رہنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۵۸۹ھ)

الجواب: ایسی صورت میں آبادی سے باہر جا کر رہنا بہ غرض درستی ہو اور درست ہے، مگر عقیدہ درست رکھنا چاہیے، یعنی یہ عقیدہ نہ کرنا چاہیے کہ باہر نکلنے سے نجات ہے اور اس آبادی میں رہنے (۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی - قبیل کتاب الفرائض .

سے ہلاکت ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک امر مقرر و مقدر ہے، نہ نکلنا موت سے بچا سکتا ہے، نہ وہاں رہنا سبب ہلاکت کا ہے۔ ھکذا فی الدر المختار (۱) فقط

سوال: (۶۵۶) جس بستی میں طاعون یا دیگر مرض وبائی ہو اس بستی سے نکل کر دوسری جگہ رہنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۷۶۸)

الجواب: فقہائے حنفیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ بحالت مذکورہ اگر عقیدہ صحیح رکھے تو نکلنا اس بستی سے جائز ہے، عقیدہ صحیح رکھنے کی صورت یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ہر ایک امر من جانب اللہ ہے، اور موت و حیات سب من جانب اللہ ہے، باہر نکلنے سے نجات نہیں اور وہاں رہنے سے موت نہیں ہے۔ قال فی الدر المختار: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا و لو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى (۱) (شامی: ۴۸۲/۵، دہلی) فقط

سوال: (۶۵۷) جس جگہ طاعون ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہوا خراب ہوگئی ہے، ہوا کی تبدیلی کے لیے باہر جاؤ۔ اس صورت میں باہر جنگل میں جا کر رہنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۵۷۳)

الجواب: آب و ہوا کی درستگی کے لیے باہر جانا اور جنگل میں رہنا درست ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، مگر عقیدہ اپنا درست رکھے یعنی یہ نہ سمجھے کہ باہر جانے میں نجات ہے اور وہاں رہنے میں موت ہے، بلکہ موت و حیات کو تقدیر کے حوالہ کرے۔ فقط

طاعون کی جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے

تو یہ گناہ کس طرح معاف ہو سکتا ہے؟

سوال: (۶۵۸) طاعون کی جگہ سے عدا کسی دوسری جگہ جانا کیسا ہے؟ ایسا کرنے والے گنہگار ہیں یا نہیں؟ یہ گناہ کس طرح معاف ہو سکتا ہے؟ (۱۳۳۲ھ/۵۳۵)

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی قبیل کتاب الفرائض .

الجواب: درمختار میں ہے کہ اگر اس اعتقاد سے وہاں سے نکلے کہ یہاں ٹھہرنا موجب ہلاکت ہے اور نکلنا موجب نجات ہے تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے (۱) اگر کسی نے بہ اعتقاد مذکور ایسا کیا تو وہ عاصی ہوا تو بہ کرے، تو بہ سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ فقط

### طاعون کی ابتداء کب سے ہے؟ اور اس کے دفعیہ کی دعائیں کیا ہیں؟

سوال: (۶۵۹) ابتداء مرض طاعون کی کب سے ہے؟ آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں تھا یا نہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ طاعون کی جگہ سے بہ غرض تبدیل آب و ہوا جنگل میں یا دوسرے شہر میں جانا کیسا ہے؟ اور جہاں یہ مرض ہو وہاں دوسرے لوگوں کا داخل ہونا کیسا ہے؟ وبائے طاعون کے دفعیہ کے لیے اذانوں کا کہنا درست ہے یا نہیں؟  
(۱۳۶۳/۱۳۴۳ھ)

الجواب: حدیث صحیحین میں ہے: قال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه و إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه (۲) حدیث مذکور میں صاف طور پر موجود ہے کہ وبائے طاعون بنی اسرائیل میں پھیلی تھی، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مقام میں طاعون ہو وہاں جانا بھی نہ چاہیے، اور اگر وہاں پہلے سے موجود ہے تو بھاگنا بھی درست نہیں ہے، البتہ تبدیل آب و ہوا کی وجہ سے وہاں سے جاسکتا ہے جب کہ اس کے عقیدہ میں کوئی خرابی نہ ہو۔ جیسا کہ درمختار میں ہے: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج إلخ (۳) اور آیت: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

(۱) و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده (الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی، مسائل شتی)

(۲) الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۸، کتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، و صحيح البخاري: ۲/۱۰۳۲، کتاب الحیل - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون .

(۳) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی - قبیل کتاب الفرائض .



دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ الْآيَةُ ﴿﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۴۳) کی تفسیر میں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے بنی اسرائیل کی وہ قوم مراد ہے کہ جن میں وبائے طاعون پھیل گئی تھی اس کے خوف سے اپنے وطن کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جلالین میں ہے: وہم قوم من بني اسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا (۱) اور معالم التنزيل وغیرہ میں اس قصہ کو نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے (۲)

بہر حال حدیث نبوی، آیت اور تفسیر مذکور سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مرض طاعون کوئی نیا مرض نہیں بلکہ امراض قدیمہ سے ہے جو اسلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آچکا ہے، ادھر مورخین کا بھی خیال ہے کہ اس وباء کی ابتدا ڈیڑھ دو ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ سے دنیا میں ہوئی ہے، شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں ہوا ہے (۳)

اور اس کا علاج وہ عام دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں: سنن ابی داؤد میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا هوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ (۴)

اور ابوداؤد شریف میں ہے: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ (۵)

(۱) تفسیر جلالین، ص: ۳۷، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، دہلی۔

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیں: معالم التنزيل للبخاري، ص: ۱۱۴۔

(۳) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام الحديث (صحيح البخاري: ۸۵۳/۲، كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون)

(۴) سنن أبي داؤد، ص: ۵۴۳، كتاب الطب - باب كيف الرقي؟

(۵) سنن أبي داؤد، ص: ۲۱۶، كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة.

غرضیکہ اسی طرح کی بہت سی دعائیں منقول ہیں جو امراض کے دور کرنے کے لیے پڑھی گئی ہیں، اور خاص دعائے دافع طاعون رسالہ علاج القحط والوباء میں مولانا اشرف علی صاحب نے نقل کی ہے اس کو دیکھنا ہو تو رسالہ مذکور منگا کر دیکھ لیا جائے، یہ دعا امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بتلائی تھی، باقی اذنانوں وغیرہ کا ثبوت احادیث یا آثار صحابہ وغیرہ سے نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے کہ دفع مرض کے لیے اذکار واردہ ہی کافی ہیں، کسی نئی بدعت کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۶۶۰) یہاں پر آج کل مرض طاعون ہو رہا ہے، اس کے دفعیہ کے واسطے امام و مقتدی پنج گانہ نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قومہ میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ مذہب احناف ہے یا کیا؟ (۱۳۲۳/۱۳۲۳ھ)

الجواب: ایسے نوازل و حوادث میں حنفیہ کے نزدیک صرف نماز فجر میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قومہ میں دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے، سب نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنا حنفیہ کا مذہب نہیں ہے۔ و تفصیلہ فی الشامی (۱) فقط

سوال: (۶۶۱) دفعیہ طاعون کے لیے حدیث شریف سے کوئی دعا ہو تو تحریر فرماویں؟

(۱۵۱۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: حدیث شریف سے کوئی خاص دعا دفع طاعون کی معلوم نہیں ہے، جو دعائیں عموماً دفع بلا کی ہیں ان کو پڑھتے رہیں۔ فقط

صدقہ، خیرات سے بیماریاں اور بلائیں دفع ہوتی ہیں

سوال: (۶۶۲) اکثر مسلمانوں میں رواج ہے بیمار کی صحت کے لیے بکرا وغیرہ اللہ کے نام پر

(۱) قوله: (ولا یقنت لغيره) أي غیر الوتر ..... قوله: (إلا لنأزله) قال فی الصحاح: النّازلة: الشّدیدة من شدائد الدّهر، ولا شکّ أن الطّاعون من أشدّ النّوازل ..... إذا وقعت نازلة قنت الإمام فی الصّلاة الجهریة، لكن فی الأشباه عن الغایة: قنت فی صلاة الفجر ..... وهو مذهبنا وعلیه الجمهور (رد المحتار: ۲/۳۸۹-۳۹۰، کتاب الصّلاة - باب الوتر والنّوافل، مطلب فی القنوت للنّازلة)

ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء اور مساکین پر تقسیم کرتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ (۱۳۳۱/۲۹۳)

الجواب: یہ صدقہ اور خیرات ہے، اور صدقہ سے بلا کا دفع ہونا احادیث میں وارد ہے (۱) لہذا اس میں کچھ حرج شرعاً نہیں ہے۔ فقط

## طاعون وغیرہ وبائی امراض کے دفعیہ کی چند

### خود ساختہ تدبیریں اور ان کا شرعی حکم

سوال: (۶۶۳) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شہر میں بہت طاعون ہو گیا، اہل شہر نے مل کر کچھ روپیہ جمع کیا کہ اس کو صدقہ کیا جاوے اور علماء سے پوچھا کہ اس روپیہ کو کس پر خرچ کریں؟ ایک عالم نے کہا کہ یتیم اور بیوہ عورتوں پر صرف کیا جاوے، اور نیز کہا کہ شہر کے گرد اگر دس سورہ یس پڑھی جاوے اور جس وقت لفظ مُبِین آوے اس وقت کھڑے ہو کر اذان دی جاوے، ایک دوسرے عالم نے کہا کہ یہ فعل بدعتِ سیئہ اور شرک ہے، اور جس نے یہ فعل کیا اس کو تجدیدِ نکاح اور توبہ واستغفار کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ بینواتو جروا (۱۳۳۵/۸۸۹)

الجواب: صدقہ کرنے میں تو ظاہر ہے کہ کچھ حرج ہی نہیں، بلکہ صدقہ سے بلاء دفع ہو جاتی ہے (۱) اور عمل مذکور اگرچہ احادیث و فقہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہ طریق اعمالِ مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں، اور کفر و شرک کہنا اس کو غلط ہے، لہذا تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں اور نماز اس کے پیچھے درست ہے، البتہ احوط یہ ہے کہ ایسے عمل کو ترک کر دیں۔ فقط

سوال: (۶۶۴) ایام و باء یعنی جب کہ طاعون پڑا ہوا ہو، اس کے دفعیہ کے لیے بلند آواز سے رات کو مسجد کے فرش پر یا اور کسی جگہ پر مثلاً گھر میں یا جنگل میں مردمان جمع ہو کر اذانیں کہیں تو جائز ہے یا نہیں؟ اور بکری وغیرہ کو شہر کے گرد پھرا کر چوراہے میں ذبح کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۳-۳۲/۱۵۱۸ھ)

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا وداؤوا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم (شعب الإيمان للبيهقي: ۲۸۲/۳ باب في الزكاة - فصل في من أتاه الله مالاً من غير مسئلة حديث: ۳۵۵۶، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت)

الجواب: طاعون میں ایسا ثابت نہیں ہے، اذ انوں کے کہنے کا کچھ ثبوت نہیں ہے، پس اس کو سنت سمجھ کر نہ کرنا چاہیے اور ترک کر دینا چاہیے، البتہ شامی میں لکھا ہے کہ دعائے قنوت نماز فجر میں اس کے دفعیہ کے لیے پڑھنا درست ہے (۱) اسی طرح بکری وغیرہ کو شہر کے گرد پھرا کر چوراہے میں ذبح کرنا وغیرہ بے اصل ہے اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔

سوال: (۶۶۵) بیماری و بلاء کے لیے اگر ایک گائے یا بھینسا قصبہ کے گرد اگردسات مرتبہ پھرا کر ذبح کر کے کباب بنا کر سب آدمی بوٹی بوٹی کھا جائیں، اور ایک راستہ پر قرآن شریف لٹکا کر اس کے نیچے سے سب آدمی گزریں، آیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ گائے طریقہ مذکور کے لیے خریدی گئی ہے۔ (۱۳۳۷/۱۲۸ھ)

الجواب: یہ طریقہ درست نہیں ہے، طریق مشروع یہ ہے کہ اس گائے کو بدون گرد قصبہ کے پھرانے کے اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کا گوشت خاص فقراء و مساکین اور بیوہ عورتوں کو اور غرباء کو لوجہ اللہ بہ نیت صدقہ تقسیم کر دیا جائے، اور اغنیاء نہ کھائیں۔ فقط

سوال: (۶۶۶) کسی شہر کے مسلمان دو فرقہ ہیں، ایک فرقہ جب کوئی آفت سماوی مثل بلاء و ہیضہ وغیرہ نازل ہوتی ہے تو ہر روز بعد نماز عشاء مناجات بہ درگاہ قاضی الحاجات برائے دفع بلاء پڑھ کر کوچہ بہ کوچہ پھرتے ہیں، اور جا بہ جا اذان وغیرہ کہتے ہیں، اور اپنے ساتھ علم رکھتے ہیں، اور دوسرا فرقہ اس کو ضلالت و گمراہی کا سبب بتلاتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں، کون سا فرقہ راہ راست پر ہے؟ (۱۳۳۷/۱۳۸۶ھ)

الجواب: اس میں شک نہیں کہ اکثر بلاء اور بیماری ہمارے افعال شیعہ کے باعث نازل ہوتی ہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورہ تغابن، آیت: ۱۱) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سورہ

(۱) قولہ: (ولا یقنت لغيره) أي غیر الوتر..... قولہ: (إلا لنائلة) قال فی الصحاح: النائلة: الشديدة من شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل..... إذا وقعت نائلة قنت الإمام فی الصلاة الجهرية، لكن فی الأشباه عن الغاية: قنت فی صلاة الفجر..... وهو مذهبنا وعليه الجمهور (رد المحتار: ۲/۳۸۹-۳۹۰، کتاب الصلاة- باب الوتر والنوافل، مطلب فی القنوت للنائلة)

شوری، آیت: ۳۰) پس اگر ایسے وقت میں بھی انسان تنبہ حاصل کر کے رجوع الی اللہ نہ کرے تو سخت محرومی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے اور کیا رجوع الی اللہ کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے جس کا فرقہ اولیٰ مرتکب ہے؟ علم برداری وغیرہ سب بے اصل ہے اور لہو و لعب ہے، ان سے اجتناب لازمی ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اوقات پر پوری پابندی نماز کی کی جائے، سابقہ افعال بد سے خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کی جائے، آئندہ کے لیے افعالِ حسنہ پر پابندی کی جائے اور صدقہ و خیرات حسب استطاعت کرنا چاہیے کہ اس سے بلاء اور غضب کا سد باب ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے: إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتَطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ (۱) اور لغو و لالی یعنی افعال سے بچنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۶۶۷) ہیضہ و طاعون کے زمانہ میں کچھ لوگ جمع ہو کر مسجد و میدان میں اذان بہ ایک گلا ہو کر پکارتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک حافظ آگے کھڑا ہو کر سورہ یٰسین پڑھتا جاتا ہے جب لفظ مُبِیْن پر پہنچتا ہے تو کل لوگ اذان پکارنے لگتے ہیں، سات بار اذان کہتے ہیں، یہ فعل کیسا ہے؟ یہ دفع و باء کے لیے کرتے ہیں۔ (۱۵۸۴/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس فعل کی کچھ اصل اور کچھ ثبوت شریعت سے نہیں ہے، لہذا ترک کرنا اس کا احوط ہے۔ فقط

سوال: (۶۶۸) طاعون وغیرہ و باء دفع ہونے کے لیے کس دعا کا ورد رکھنا چاہیے؟ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ یٰسین پڑھتے ہوئے قصبہ کے گرد چکر لگانا اور ہر مُبِیْن پر اذان کہنا یا ایک کالی بکری لے کر اس کو قصبہ کے گرد پھرانا اور سورہ یٰسین پڑھ کر اس کے کانوں میں دم کرنا اور ذبح کر کے سب مسلمان ایک ایک بوٹی کھائیں اور سری پائے اور کھال چوراہے میں دفن کریں یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ (۱۸۱۸/۱۳۴۱ھ)

الجواب: وبائے طاعون میں فقہاء نے دعائے قنوت نازلہ کو صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں بعد رکوع کے پڑھنے کو لکھا ہے، اور یہ اعمال جو سوال میں مذکور ہیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں۔ فقط

سوال: (۶۶۹)..... (الف) و باء کے زمانہ میں بعد نماز مغرب یا عشاء امام کا سورہ یٰسین

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة الحديث (جامع الترمذي: ۱/۱۴۴، أبواب الزكاة - باب ما جاء في فضل الصدقة)

پڑھنا اور مُبِین کے الفاظ پر امام اور مقتدیوں کا مل کر سات اذا میں پڑھنا کیسا ہے؟  
(ب) وباء کے زمانہ میں سب مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے جانور بکرا وغیرہ خرید کر سورہ بقرہ  
پڑھ کر گاؤں کے چاروں طرف گھما کر ذبح کرنا اور کھال کا زمین میں دفن کرنا شرعاً کیسا ہے؟  
(۱۳۴۲/۴۳۴ھ)

الجواب: (الف) شریعت سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔

(ب) اس کا بھی کچھ ثبوت نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۶۷۰) بیماری طاعون کے لیے کسی نے یہ عمل بتلایا ہے کہ کالی بکری کان پڑ کر گاؤں  
کے چاروں طرف پھیرا اور سورہ یٰسّ پڑھو، پھر اس کو ذبح کر کے اور پکا کے ایک ایک بوٹی تقسیم کر دو  
اور کھلا دو، خدا فضل کر دے گا، ایسا عمل کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۲/۷۲۱ھ)

الجواب: شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، البتہ صدقہ کر دینا  
گوشت کا یا کسی چیز کا یا نقد کا یہ سببِ ردِ بلاء ہے، مگر اس میں کوئی قید اور خصوصیت نہیں ہے اور سب کو  
بوٹی بوٹی کھانا یہ صدقہ کی بھی صورت نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فقیروں کا حق ہے، پس وہ محتاجوں کو دینا  
چاہیے۔ فقط

سوال: (۶۷۱) وباء کے دنوں میں بکری یا جاموس (بھینس) کو شہر کے گرد پھرا کر ایک سو ایک  
مرتبہ سورہ تغابن اس کے کان میں پھونک کر ذبح کر کے کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۰۲۳ھ)  
الجواب: اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔

سوال: (۶۷۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کسی قصبہ یا  
دیہات میں طاعون یا ہیضہ کے زمانے میں ایک بکری کو موضع یا قصبہ بھر گھما کر سورہ یٰسّ شریف  
پڑھ کر اس کے کان میں دم کر کے کھانا اور سات گھڑا شربت گاؤں کے ارد گرد جا بجا رکھ دینا از روئے  
شرع شریف جائز ہے یا نہیں؟ اور ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ اور اس کی اصلیت ہے یا نہیں؟ ایسے کام  
کرنے والے قابلِ ملامت ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۱۶۶۷ھ)

الجواب: اس فعل کا کچھ ثبوت شریعت میں نہیں، لہذا یہ بدعت و مکروہ ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے،  
اور ذبیحہ کا کھانا محتاجوں کو درست ہے، اغنیاء نہ کھائیں، اور مسلمانوں کو ایسے افعال سے احتراز کرنا

چاہیے، البتہ محض صدقہ کر دینا بدون کسی قید کے اور تخصیص کے جائز ہے، پس اگر بکرایا گائے وغیرہ ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کو صدقہ کر دیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

سوال: (۶۷۳) بعض لوگ ایک بکرا نکالتے ہیں اور اس کے ایک کان میں سورہ یس اور دوسرے میں تَبَارَكَ الَّذِي پڑھ کر تمام محلہ میں پھراتے ہیں، اور ذبح کر کے تقسیم کرتے ہیں، یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو کس مرض کے لیے؟ (۱۹۱۱/۳۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: یہ ثابت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جس جگہ طاعون ہو وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے

اور اطباء کا علاج کے لیے جانا درست ہے

سوال: (۶۷۴) جس جگہ طاعون ہو وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ اس کے بلا جائے نماز جنازہ نہ ہو، ایسے موضع میں اطباء کو جانا کیسا ہے؟

(۱۳۵۸/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: قال في الدر المختار: مسائل شتى من آخر كتاب الخنثي: و إذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى إلخ (۱) اس عبارت سے واضح ہوا کہ جس کا اعتقاد درست ہو خروج عن موضع الطاعون کو سبب نجات اور دخول کو سبب ابتلائے ہلاک نہ جانتا ہو، تو اس کے حق میں خروج و دخول ممنوع نہیں ہے، اور ادائے نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اس کے لیے وہاں بہ غرض ادائے نماز جانا ضروری ہے، جب کہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ نہ جاوے گا تو نماز جنازہ نہ ہوگی، اسی طرح اطباء کو بھی بہ غرض علاج وہاں جانا درست ہے۔

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۱۰/۴۰۶، کتاب الخنثی، مسائل شتى - قبیل کتاب الفرائض .

## ضرورت سے طاعون کی جگہ جانا درست ہے

سوال: (۶۷۵) ضرورت سے طاعونی جگہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸ھ/۹۹۷)

الجواب: حنفیہ نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی تقدیر سے ہے، تو اس کو طاعون کی جگہ سے کہیں جانا یا طاعون کی جگہ آنا درست ہے، درمختار میں ہے: **وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدٍ بِهَا الطَّاعُونُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيَدْخُلَ الْخ (۱) فَقَطْ**

## معالج کی غلطی سے مریض مر گیا تو معالج قتل کا مجرم ہوگا یا نہیں؟

سوال: (۶۷۶) زید کی زوجہ کو دفعۃً کھانسی ہوئی جو کہ جنگی بخار میں لازمی ہے، زید نے یہ سمجھ کر کہ یہ معمولی کھانسی ہے اور بلغم خشک ہو گیا ہے، ایک نسخہ بارد ادویہ کا استعمال کرایا جو کہ جنگی بخار میں بے حد مضر ہے، اس کی وجہ سے نمودار پیدا ہو کر زوجہ زید فوت ہو گئی، تو زید قتل کا مجرم ہوا یا نہیں؟ (۱۳۳۷ھ/۳۸۸)

الجواب: زید اس صورت میں ہرگز جرم قتل کا مجرم نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اس پر اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، معمولی مرض کھانسی و زکام میں طبیب و غیر طبیب نسخہ معمولی پلا دیتے ہیں کسی کو نفع ہوتا ہے کسی کو نہیں، اسی بخار جنگی میں بعض اطباء نے بھی ادویہ باردہ کا استعمال کرایا ہے، لہذا ایسی غلطی سے جب کہ نیت ضرر رسانی کی نہ ہو، مواخذہ اور گناہ نہیں ہوتا۔ فقط

## طبیب کا امیر و غریب سے فیس لینا

سوال: (۶۷۷)..... (الف) ایک صاحب پیشہ طبابت کرتے ہیں، گھر پر بلا فیس دیکھتے ہیں باہر جانے کی فیس لیتے ہیں، ایک اہل غرض ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا فلاں عزیز بیمار ہے چل کر دیکھ لیجئے، طبیب صاحب فرماتے ہیں کہ چار یا پانچ روپے فیس لیں گے، اہل غرض میں

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۴۰۶/۱۰، کتاب الخنثی، مسائل شتی - قبیل کتاب الفرائض .



ایک روپیہ سے زیادہ کی طاقت اور وسعت نہیں، وہ معذرت کرتا ہے، مگر طبیب صاحب لحاظ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس رقم سے کم پر نہ جائیں گے، مریض زیادہ بیمار ہے، اور دوسرا کوئی طبیب نہیں، یا اور ہے بھی تب بھی انہیں کا علاج کرنا زیادہ مناسب ہے، جبراً قہراً منظور کر کے طبیب صاحب کو لے جاتا ہے، ایسے پیشہ والے کو اس سختی سے فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) طبیب صاحب ایک موضع میں اپنی مقررہ فیس پر گئے اور مریض کو دیکھا، ایک پڑوسی نے جس کے گھر علالت تھی یہ خیال کر کے کہ طبیب صاحب آئے ہیں مریض کو دکھا دینا چاہیے، طبیب صاحب کو اپنے گھر پر مریض کے دیکھنے کو بلایا، یہاں بھی طبیب صاحب نے وہی فیس وصول کی جو اس مریض سے لی تھی جس کو مخصوص دیکھنے آئے تھے، اس صورت میں اس طور سے فیس وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۹۰۹ھ)

الجواب: (الف-ب) جب کہ طبیب کو اجرت اور فیس لینا جائز ہے تو جو مقدار وہ مقرر کرے اس کا لینا درست ہے، مروت کی بات دوسری ہے کہ غریبوں سے مروت کرنی چاہیے اور حسب حیثیت غریبوں سے کم فیس لینا اچھا ہے اور بالکل نہ لینا اور بھی اچھا ہے اور کارِ ثواب ہے، لیکن جو کچھ اس نے صفائی اور سختی سے مقرر کیا اور لیا وہ بھی حرام نہیں ہے، اور دوسری صورت بھی درست ہے یعنی کئی گھروں سے ان کی طلب پر جانے سے سب سے فیس لینا درست ہے، اصل یہ ہے کہ طبیب کو اجرت مقرر کرنا اور اجرت مقررہ کا لینا درست ہے، اس میں کچھ موقع شبہ کا نہیں ہے۔ فقط

## فیس لے کر علاج کرنا

سوال: (۶۷۸) مطب کرنا فیس لے کر جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۳/۱۹۷ھ)

الجواب: مطب اور علاج کرنا فیس لے کر درست ہے۔ کما فی الحدیث: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأعطی الحجام أجره الحدیث رواه البخاری (۱) فقط

(۱) صحیح البخاری: ۳۰۴/۱، کتاب الإجارة - باب خراج الحجام.

### عطار کا بالقصد دوائیں کم دینا

سوال: (۶۷۹) میں عطار ہوں آج کل ادویات گراں ہیں، بدیں وجہ نسخہ اکثر زیادہ قیمت کا ہو جاتا ہے جس کو مریض برداشت نہیں کر سکتا، اگر نسخہ بلا اطلاع مریض تحریر نسخہ کے خلاف یعنی ادویات کے وزن میں کمی کر کے باندھ دیا جاوے تو یہ طریقہ جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۰/۱۵۲۸)۔  
الجواب: نسخہ کی مقدار کے خلاف عطار کو بالقصد ادویہ کم دینا درست نہیں ہے۔ فقط

طیب کے لیے جنازے میں شرکت کرنا ضروری ہے یا مریض کو دیکھنا؟

سوال: (۶۸۰) طیب کو برادری میں جنازہ کی شرکت ضروری ہے یا مریض کا دیکھنا؟  
(۱۳۴۳/۲۲۹۲)

الجواب: اس وقت جو امر اہم معلوم ہو وہ کرے۔ فقط

فائدہ نہ ہونے کے باوجود طیب سے جو روپیہ

طے ہوا تھا اتنا ہی روپیہ دینا ضروری ہے

سوال: (۶۸۱) ایک مریض نے ایک طیب سے علاج کرایا، طیب کے کہنے کے مطابق چار روپیہ کی دوا خرچ ہوئی، اور وہ پانچ روپیہ نفع میں چاہتا تھا، مگر یہ شرط نہ تھی کہ آرام ہونے سے پانچ روپیہ دوں گا، اب مریض کو چار روپیہ دینا چاہیے یا پانچ روپیہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۶۶۷)

الجواب: اگر پانچ روپیہ دوا اور علاج کے مقرر ہو گئے تھے تو پانچ روپیہ ہی دینے چاہئیں، اگرچہ طیب طلب نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے اور چار روپیہ پر ہی راضی ہو جاوے تو یہ اس کو اختیار ہے، اس طیب سے اس کا تذکرہ کر دیا جاوے، جو کچھ اس کی منشا ہو اس کے موافق کریں۔

جذامیوں سے اختلاط رکھنے والوں سے نفرت کرنا

سوال: (۶۸۲) مریضان جذام دیہات میں آبادی سے باہر ہا کرتے ہیں، ان کے تندرست

رشتہ دار بھی جذامیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر دیہات کے مسلمانان ان تندرست لوگوں کے ساتھ جذامیوں کے اختلاط کی وجہ سے نہ کھاتے پیتے ہیں نہ مسجدوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، تندرست لوگوں سے بہ وجہ اختلاط کے بہت نفرت کی جاتی ہے، یہ نفرت کرنا اور ان کو مسجدوں سے منع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا ان سے مناکحت ناجائز ہے؟ (۵۷۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ان تندرستوں کے ساتھ ایسا معاملہ متارکت کا کرنا اور ان کو مسجدوں میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے روکنا درست نہیں ہے۔ اور ان سے تفکر کرنا درست نہیں ہے اور مناکحت ان سے درست ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا الْآيَةَ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۱۴) فقط

### علاج کے لیے ستر کھولنا اور طبیب کا دیکھنا درست ہے

سوال: (۶۸۳) ایک عورت پردہ نشین کے ایک ایسی جگہ زخم ہے کہ جو ستر میں داخل ہے اور بلا اس کے شگاف کے آرام ہونا محال ہے، آیا اس کو کسی مرد کو دکھادینا چاہیے یا نہیں؟ (۲۳۴۶/۱۳۳۷ھ)

الجواب: طبیب و جراح کو بہ ضرورت اس موقع پر نظر کرنا درست ہے۔ فقط

### ڈاکٹر عورت کا پیٹ دیکھ سکتا ہے

سوال: (۶۸۴) حکیم کو عورت مریضہ کا پیٹ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۳۹۵/۱۳۳۵ھ)


الجواب: کتب فقہ میں لکھا ہے کہ طبیب کو مریض کا موقع مرض دیکھنا درست ہے (۱) اگر نیت بری ہوگی تو وبال اس پر ہے۔ فقط

(۱) وَيَحْرَمُ النَّظْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالطَّبِيبِ أَيْ لَهُ النَّظْرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ ضَرُورَةً فَيَرِخُصُّ لَهُ إِحْيَاءُ لِحَقُوقِ النَّاسِ وَدَفْعًا لِحَاجَتِهِمْ (وَالْخَاتِنُ وَالْخَافِضَةُ)..... هِيَ الَّتِي تَخْتَنُ النِّسَاءَ (وَالْقَابِلَةُ وَالْحَاقِنُ الَّذِي يَعْمَلُ الْحَقْنَ وَلَا يَتَجَاوَزُ) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَدَرِ الضَّرُورَةِ) فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَنْ يُغْضُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْمَرَضِ وَالْخَاتِنِ وَالْحَقْنَ (مَلْتَقَى الْأَبْحَرِ مَعَ مَجْمَعِ الْأَنْهَرِ: ۱۹۹/۴، كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ - فَصْلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ النَّظَرِ وَنَحْوِهِ)

## نصف بدن دھوپ میں اور نصف سایہ میں رکھنا

سوال: (۶۸۵) نصف بدن دھوپ میں اور نصف سایہ میں رکھنا منع فرماتے ہیں؛ آیا اس سے مراد درخت کا سایہ ہے یا دیوار کا، اور اس میں نہیں شفقت ہے یا حکماً؟ (۱۳۳۵/۴۳ھ)

الجواب: الفاظ حدیث یہ ہیں: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ: فِي الْفَيْ فَقُلْصْ عَنْهُ الظِّلُّ فَيَصَارُ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ. رواه أبو داود (۱) صاحب مرقات لکھتے ہیں: قوله: (فليقم) أي فليتحول منه إلى مكان آخر يكون كله ظلاً أو شمساً لأن الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين الخ (۲) سے معلوم ہوا کہ ممانعت بہ وجہ شفقت ہے اور خوفِ فسادِ مزاج کے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم



(۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص دھوپ میں ہو— اور مخلد نے کہا: سایہ میں ہو، اور سایہ اس سے ہٹ جائے اور اس کا بعض جسم دھوپ میں اور بعض سایہ میں رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے (ابوداؤد)

(سنن أبي داود: ص ۶۶۳، کتاب الأدب، باب في الجلوس بين الشمس والظل)

(۲) صاحب مرقات نے فرمایا: فليقم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں پورا سایہ ہو یا دھوپ ہو، اس لیے کہ انسان جب ایسی جگہ بیٹھتا ہے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے دو متضاد چیزوں کے اثر سے بدن کی حالت مختلف ہونے کی وجہ سے۔

(المراقبة شرح المشكاة: ۹/۹۲، کتاب الآداب، باب الجلوس والنوم والمشى، الفصل الثاني)

## تعویذات اور عملیات کے احکام

کیا عملیات ہر بیماری کے لیے شفا ہیں؟

سوال: (۶۸۶) مولوی صاحب جھاڑ پھونک کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں کہ تعویذات آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ و ادعیہ ماثورہ شفاء لکل داء ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کی ولادت نہ ہوتی ہو تو خداوند کریم ان کے استعمال کرنے پر اپنے فضل سے اولاد بھی عطا فرماتا ہے، فریق ثانی منکر ہے۔  
(۱۳۳۸/۱۳۲۲ھ)

الجواب: اس میں مولوی صاحب کی بات غلط نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ فقط

آیات قرآنی سے عملیات کرنا درست ہے

سوال: (۶۸۷)..... (الف) آیات قرآنی سے عملیات مثل تعویذ و گنڈا آسیب وغیرہ کے کرنا درست ہے یا نہیں؟  
(ب) جنات کے عمل خود سرور کائنات ﷺ نے یا صحابہ کرامؓ نے آیات قرآنی سے کیے ہیں یا نہیں؟

(ج) آیات قرآنی کے عملیات میں شرعاً اثر مانا گیا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۹۹ھ)

الجواب: (الف) درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(ب) ایسا عمل صحابہ سے ثابت ہے (۱)

(ج) اثر مانا گیا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### تعویذ کا جواز ثابت ہے

سوال: (۶۸۸) تعویذ کا لکھنا مثل زعفران یا روشنائی وغیرہ سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ زید مطلقاً تعویذ لکھنے اور باندھنے کو منع کرتا ہے۔ (۱۳۳۲/۹۲۴ھ)

الجواب: اللہ کے نام اور دعاؤں سے تعویذ کا جواز ثابت ہے، مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کا جواز نقل کیا ہے (۲) کما لا یخفی علی الماہر (۳) پس زید کا مطلقاً تعویذ لکھنے اور باندھنے کو منع کرنا خلاف اجماع ہے۔ فقط

(۱) عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجانّ وعين الإنسان حتّى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما، وترك ما سواهما (جامع الترمذي: ۲۶/۲، أبواب الطبّ، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لَدَيْغٌ أو سَلِيمٌ، فعرض لهم رجلٌ من أهل الماء، فقال هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لَدَيْغاً أو سَلِيماً، فانطلق رجلٌ منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاةٍ فبرأ، فجاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتّى قدّموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (صحيح البخاري: ۸۵۴/۲، كتاب الطبّ، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)

(۲) و أمّا ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربّانية والدّعوات الماثورة النبوية فلا بأس، بل يستحب، سواء كان تعويذاً أو رقية أو نشرة (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة: ۳۶۰/۸-۳۶۱، كتاب الطبّ والرقی، الفصل الثانی، المطبوعة: مكتبة إمدادية، ملتان)

(۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني، فإنها لن تضره، فكان عبد الله بن عمرو يلقنها ==

## تعویذ میں قرآنی آیات ہندسوں میں لکھنا جائز و مفید ہے یا نہیں؟

سوال: (۶۸۹) عامل بعض تعویذوں میں قرآنی آیات لکھتے ہیں بعض میں ہندسہ، کیا دونوں قسم کے تعویذ مفید ہیں یا ایک ہی قسم کے؟ زید کہتا ہے کہ قرآن شریف ہدایت خلق کے لیے ہے نہ کہ مرض کے لیے بہ طور نسخہ استعمال کرنا؛ یہ صحیح ہے یا نہ؟ (۱۳۴۳/۲۰۱۹)

الجواب: دونوں قسم کے تعویذ جائز ہیں، اور دونوں مفید ہو سکتے ہیں، قرآن شریف ہدایت خلق کے لیے ہے اور امراض کے لیے بھی اس میں شفا ہے، غرض شفاء ظاہری و باطنی اس میں ہے: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ اسراء: آیت: ۸۲) فقط

## تعویذ دینے کے لیے طبی تجربہ ضروری نہیں

سوال: (۶۹۰) بلا طبی تحقیقات اور طبی تجربہ کے ہر ایک مریض کو آسیب یا مسان (اُمّ الصّبیان) وغیرہ (کا تعویذ دینا) حرام و جھوٹ نہیں؟ (۱۳۴۰/۵۷۰)

الجواب: تعویذ دے دینے میں کچھ حرج نہیں ہے اور دھوکا دینا مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔

== (يُعْلِمُهَا) مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلاَةٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ؛ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (جامع الترمذی: ۱۹۲/۲، أبواب الدعوات، باب)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ (حضرت شعیبؓ) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس وقت تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈرے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَنْ يَنْحَضِرُوْنَ. میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، پس شیاطین ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے ان کلمات کے کہنے والے کو۔“

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اپنی اولاد میں سے جو بالغ ہوتا اس کو یہ کلمات سکھاتے، اور اولاد میں سے جو نابالغ ہوتا ان کلمات کو کاغذ کے پرچہ پر لکھتے، پھر اس کی گردن میں لٹکاتے۔

## قرآن پڑھ کر دم کرنا اور اس پر اجرت لینا

سوال: (۶۹۱) ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ واسطے بیماروں کے یا واسطے بارش کے ختم قرآن شریف امام مسجد وغیرہ سے کراتے ہیں، اور اس کے عوض روٹی کھلاتے ہیں یا کچھ نقد دے کر رخصت کر دیتے ہیں، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ واسطے پڑھا ہے، اور اللہ واسطے دیا ہے، لیکن اگر دیا نہ جاوے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کہا جاوے کہ لینا دینا ناجائز ہے تو حدیث بکریوں والی پیش کرتے ہیں، اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور منتر پڑھ کر دم کرنے سے کیا مراد ہے؟ (۱۳۳۸/۱۴۰۳ھ)

الجواب: رقیہ بہ کتاب اللہ درست ہے جو کہ حدیث أخذ قطع غنم سے ثابت ہے (۱) چنانچہ صاحب لمعات حدیث مذکور کے متعلق لکھتے ہیں: وفيه دليل على أن الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة عليها جائز بلا شبهة، وهكذا حكم الأجرة على تعليم القرآن وكتابته مع خلاف فيه إلخ (۲) اور علامہ شامی نے کہا کہ فتویٰ فقہائے حنفیہ کا جواز اجرت علی تعلیم القرآن پر ہے نہ تلاوت قرآن شریف پر (۳) پس معلوم ہوا کہ بہ طریق رقیہ قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا اور اس رقیہ پر

(۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحَيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيّفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راقٍ؟ فإن سيّد الحيّ لديغٌ أو مُصابٌ، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه، فراقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطى قطعاً من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله! والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية، ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم (الصحيح لمسلم: ۲۲۴/۲، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار)

(۲) هامش مشكاة المصابيح: ص: ۲۵۸، كتاب البيوع، باب الإجارة، الفصل الأول. رقم الحاشية: ۴۔

(۳) المفتی بہ جواز الأخذ استحساناً علی تعلیم القرآن لا علی القراءة المجردة (الشامی: ۶۶/۹-۶۷، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة الخ)



اجرت لینا اور اسی طرح تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے۔

اور صورت مسئلہ میں نہ رقیہ ہے نہ تعلیم اور یہ بھی معروف ہے کہ المعروف کالمشروط (۱) لہذا صورت مسئلہ میں بہ طریق معاوضہ کچھ لینا درست نہیں ہے، اور اگر نیت لینے اور دینے والے کی محض وجہ اللہ ہو اور معاوضہ کا خیال نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ فقط

عالم کو بلا کر عمل کرانا اور روپیہ دینا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۶۹۲) آسیب کے دفعیہ کے واسطے کسی عالم پابند شریعت کو بلا کر دعا خوانی کرانا اور روپیہ پیسہ دینا درست ہے یا نہیں؟ (۳۲/۱۰۷۶-۱۳۳۳ھ)

الجواب: یہ جائز ہے۔ فقط

تعویذ کا نذرانہ واپس مانگنا

سوال: (۶۹۳) زید مسان (۲) کا علاج بہ ذریعہ تعویذات کرتا ہے، عمر نے اپنے لڑکے کا علاج کرایا اور پانچ روپیہ نذرانہ بہ رضائے خود زید کو دیا، عرصہ کے بعد وہ لڑکا مر گیا، تو اب عمر وہ نذرانہ واپس مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے روپے واپس کر دو، ورنہ قیامت میں مواخذہ ہوگا، آیا زید پر مواخذہ ہے یا نہیں؟ اور عمر اپنے روپیہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور زید نے جو کچھ عمر سے لیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ (۳۲/۱۰۷۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: زید نے عمر سے جو کچھ لیا اور عمر نے بہ خوشی بہ وجہ عمل اور تعویذ زید کو دیا، زید کو اس کا لینا شرعاً حلال ہے، زید پر اس کا کچھ مواخذہ نہیں، اور نہ اخروی مواخذہ ہے، اور نہ عمر کو اس کے واپس لینے کا کچھ حق ہے، عمر کا دعویٰ غلط ہے۔

آیت کے اعداد لکھ کر باندھنا اور پینا کیسا ہے؟

سوال: (۶۹۴) مسلمانوں کو دفعیہ آسیب یا امراض جسمانی کے واسطے آیت یاد دعا کے اعداد لکھ

(۱) المعروف بالعرف کالمشروط شرطاً (قواعد الفقہ، ص: ۱۲۵، قاعدہ: ۳۳۳)

(۲) مسان: بچوں کی ایک بیماری جس میں بچہ سوکھتا جاتا ہے، اُمُّ الصَّبَّان (فیروز اللغات)

کرباندھنا یا پینا اور تعویذ کر کے روپیہ پیسہ لینا درست ہے یا نہیں؟ (۱۰۷۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: جائز ہے۔ فقط

### آیت کے اعداد لکھ کر دفع جن کے لیے جلانا

سوال: (۶۹۵) بوسیدہ قرآن شریف کو دفن کرنا بہتر ہے یا جلانا؟ اور آیت کے اعداد لکھ کر دفع

جن کے لیے جلانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۰۷۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: قرآن شریف بوسیدہ کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا مستحب ہے، جلانا نہ چاہیے، اگر کوئی نقش دفع جن کے لیے جلایا جاوے، کچھ مضائقہ نہیں، آیت کو نہ جلایا جاوے۔ فقط

### جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو ہندو کو دینا

#### اور ان پر قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا

سوال: (۶۹۶) ایسے تعویذ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو وہ تعویذات ہندو کو دینا اور ان پر

قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا کیسا ہے؟ (۲۰۱۷/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: تعویذ دینا درست ہے اور ان پر دم کرنا بھی درست ہے۔

سوال: (۶۹۷) چمار وغیرہ کو پندرہ کا نقش لکھ دینا، آیات شفاء پینے کو دینا اور پیسے اجرت کے

لینا جائز ہے یا نہ؟ (۵۵۸/۴۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: جائز ہے۔

### فاسق و فاجر سے تعویذ لینا اور تعویذ کے نیچے اپنا نام لکھنا

سوال: (۶۹۸) ایک شخص صوم و صلاۃ کا پابند نہیں، نیز تعویذ لکھتا ہے، اس کے نیچے اپنا نام لکھ

دیتا ہے، تعویذ کے نیچے نام لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس شخص سے تعویذ لینا چاہیے یا نہیں؟

(۲۱۱۲/۴۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: جو شخص صوم و صلاۃ کا پابند نہیں وہ فاسق و فاجر ہے، اس سے تعویذ لینا جائز نہیں ہے (۱) اور اس کے تعویذ میں کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تعویذ کے نیچے اپنا نام لکھنے میں شرعاً کچھ حرج اور کچھ ممانعت نہیں ہے۔

**تعویذ گلے میں ڈال کر بیت الخلاء میں جاسکتے ہیں یا نہیں؟**

سوال: (۶۹۹) قرآن شریف کی کوئی سورت یا آیت یا درود شریف موم جامہ میں رکھ کر بطور تعویذ گلے میں ڈال کر بیت الخلاء جاسکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۲۳۰۴ھ)

الجواب: اچھا یہ ہے کہ بیت الخلاء جانے کے وقت کھول دے، مجبوری میں معذوری ہے۔

**ناپاکی کی حالت میں تعویذ پاس میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟**

سوال: (۷۰۰) پیشاب پاخانہ حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں تعویذ موم جامہ کیا ہوا یا جو دعا کسی چیز پر کندہ ہو پاس رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۰۷۶ھ)

الجواب: درست ہے۔

**امساک کے لیے آیات لکھ کر جماع کے وقت ران پر باندھنا**

سوال: (۷۰۱) جو تعویذ مشتمل ہو آیات قرآنی پر اس کو برائے امساک یا قدرت علی الجماع (۱) صحیح یہ ہے کہ جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ جیسا کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے درج ذیل فتویٰ سے واضح ہے:

سوال: (ب/۸۶۹) جو شخص صوم و صلاۃ کا پابند نہیں، فاسق و فاجر ہے، اس سے تعویذ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا و توجروا فقط والسلام

المستفتی: محمد یونس قاسمی

شعبہ ترتیب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

۱۳۳۲/۶/۱۹ھ

الجواب: (تب/۱۵۷) جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ فقط کتبہ: حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ

مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۲/۶/۲۲ھ

الجواب صحیح: محمود حسن غفرلہ بلند شہری الجواب صحیح: وقار علی غفرلہ الجواب صحیح: فخر الاسلام

مرد یا عورت کی ران پر باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ سوئے ادبی ہے؟ (۱۳۳۷/۲۲۱۳ھ)  
 الجواب: بے شک ایسے تعویذ جس میں آیات قرآنیہ و ادعیہ ماثورہ ہوں ایسے موقع پر مرد یا عورت کو باندھنا اچھا نہیں ہے، اس میں سوئے ادبی ہے۔ فقط

جنات کو آیات کے ذریعہ پکڑنا اور جلانا جائز ہے

سوال: (۷۰۲) شیاطین و جنات کو جو بنی آدم کو ایذا دیتے ہیں کسی آیات قرآنی سے پکڑنا یا جلانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۹۹ھ)  
 الجواب: درست ہے۔ فقط

آسیب اور جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۰۳) آسیب و جن و شیطان و بھوت و جادو کا ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ اور ان سے آدمیوں کو تکلیف پہنچنا صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۹۳۹ھ)  
 الجواب: آسیب اور جن اور شیطان اور بھوت سب ایک ہیں ان سے کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جادو وغیرہ کا اثر بھی ہوتا ہے۔

سوال: (۷۰۴) از روئے شرع شریف آسیب کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اور وہ آدمی کو بیمار کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اہل یورپ وغیرہ جو آسیب کے منکر ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ (۱۳۳۳/۲۰۱۹ھ)  
 الجواب: اثر ہونا جن بھوت کا ثابت ہے، اور شریعت میں اس کا انکار نہیں ہے، جو لوگ منکر اس کے ہیں وہ اس کو مرض سمجھتے ہیں، اور فی الواقع جنات کے اثر سے بھی مرض ہو جاتا ہے۔

کیل پڑھ کر گھر کے گوشوں میں گاڑنا

سوال: (۷۰۵) ہندہ مرگئی، ایک عورت نے کہا کہ ہندہ مجھ کو خواب میں ستاتی ہے، لوگوں نے زید امام مسجد سے کہا کہ اس عورت کو کیل دو، اس نے انکار کر دیا، پھر محلہ والوں نے اپنے امام محلہ عمر سے کہا، اس نے لوہے کی کیل منگا کر ان کو پڑھ کر گھر کے گوشوں میں گاڑ دی، یہ فعل جائز ہے یا

نہیں؟ اس قسم کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۰/۳۶۱ھ)

الجواب: اعمال کے متعلق احادیث سے اس قدر ثابت ہے کہ اگر کوئی لفظ و کلمہ شریکہ اس عمل میں نہ ہو تو درست ہے (۱) اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکے وہ اس کو نفع پہنچا دے (۲) پس اگر عمر کو یہ عمل دفع اثر بد و نظر بد کا کسی سے پہنچا ہے، اور اس میں کوئی کلمہ شریکہ نہیں کہا جاتا، اور نہیں پڑھا جاتا، تو شرعاً اس میں جواز کی گنجائش ہے۔ فقط

### جنات کا ایذا پہنچانا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۰۶) جنات اور آسیب کا آدمیوں کو ستانا اور ایذا پہنچانا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۳/۱۹۱۳ھ)

الجواب: یہ مسئلہ شریعت میں مسکوت عنہا ہے شریعت میں نہ اس کا اثبات ہے اور نہ انکار ہے، مشاہدہ اور تجربہ سے جو کچھ معلوم ہوا اور محقق ہو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے (۳) فقط

(۱) عن عوف بن مالک الأشجعي رضي الله عنه قال: كنت نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۳، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمّة والنظرة)

(۲) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو وبن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۳، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمّة والنظرة)

(۳) عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه ..... قال: ثم سِرنا فمررنا بماءٍ فأتته امرأة بابن لها به جنّة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره، ثم قال: اخرج فإني محمّد رسول الله، ثم سِرنا فلما رجعنا مررنا بذلك الماء فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريباً بعدك، رواه في شرح السنّة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله ==

سوال: (۷۰۷) اجسام ناریہ لطیفہ از قسم جنات وغیرہ جسم انسانی میں حلول پا کر یا کسی ذریعہ سے تصرف ضرر و تکلیف کا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۱۵۹)

الجواب: ایسے وقائع معروف و مشہور ہیں، مگر نصوص سے اس کی کچھ اصلیت معلوم نہیں ہوئی۔

### حاضرات کا عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۰۸) ایک شخص اپنی ہتھیلی کو سیاہ کر کے قل ہو اللہ چند مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے، پھر

== صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ وَ إِنَّهُ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَ دَعَا ، فَفَعَّ نَفْعَةً وَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرِّ وَ الْأَسْوَدِ يَسْعَى ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (مشكاة المصابيح، ص: ۵۴۰-۵۴۱، کتاب الفتن، باب في المعجزات، الفصل الثاني)

ترجمہ: (۱) یعلیٰ بن مرثع ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر چلے ہم پس گزرے ہم ایک پانی پر، پس لائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو جس کو جنون تھا، پس پکڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک، پھر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے — یعنی جنوں کو یا شیطان کو جو اس پر تھا — کہ باہر نکل! پس تحقیق میں محمد ہوں خدا کا رسول، پھر چلے ہم، پس جب کہ پھرے ہم، گزرے اسی پانی پر، پس پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس عورت سے حال اُس لڑکے کا کہ دیوانہ ہو گیا تھا، پس کہا اس عورت نے: قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! نہیں دیکھی ہم نے اُس لڑکے سے کوئی چیز کہ مکر وہ سمجھیں ہم اُس کو آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے دعا کرنے کے بعد اس روایت کو بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے (مظاہر حق قدیم تتمہ جلد چہارم، ص: ۳۵، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ)

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بے شک ایک عورت اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا: یا رسول اللہ! میرے بیٹے کو جنون ہے، اور جنون اس کو پکڑتا ہے صبح و شام کے کھانے کے وقت، پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، پس قی کی اس لڑکے نے اور نکلا اس کے پیٹ سے کالے پلہ کے مثل دوڑتا ہوا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے (مظاہر حق قدیم تتمہ جلد چہارم، ص: ۳۵-۳۶، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ)

مذکورہ دونوں روایتوں سے اس بات کی اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ جنات جسم انسانی میں حلول کر کے یا کسی اور ذریعہ سے ضرر و تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری

ایک لڑکا دس یا بارہ برس کا اس ہتھیلی پر نظر کرتا ہے، اس میں اس کو چند اشکال بہ صورتِ انسان نظر آتی ہیں، وہ لڑکا ان سے دریافت کرتا ہے کہ فلاں شخص پر کوئی آسیب ہے یا جن یا بھوت؟ اس کو پکڑ لاؤ، وہ پکڑ لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے حضرات کرنا اور اس پر روپیہ پیسہ لینا درست ہے یا نہیں؟ (۱۸۰۳/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس قسم کے اعمالِ حضرات وغیرہ کو شریعت میں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہ ذریعہ جنات کے غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے کہ مثلاً فلاں شخص کو آسیب ہے یا کوئی جن ہے یا بھوت ہے؟ پس قطع نظر اس سے کہ یہ محض تخیلات ہوں اور اصل کچھ بھی نہ ہو، اگر واقعی طور سے بھی وہ اشکال نظر آتی ہوں تو ان سے دریافت کرنا خبرِ غیب کا کہ فلاں شخص کو آسیب ہے یا جن وغیرہ ہے ممنوع و حرام ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض لوگ کاہنوں سے خبریں غیب کی دریافت کیا کرتے ہیں، الحاصل خبرِ غیب کسی کو معلوم نہیں ہے اور دریافت کرنا اس کا کسی سے جائز نہیں ہے، پس خواہ ایسا فعل بہ ذریعہ سورِ قرآنیہ کیا جاوے یا اور کسی ذریعہ سے وہ ممنوع ہی ہوگا، اور اجرت لینا اس پر درست نہیں ہے، اور جو امامِ فعل خلافِ شریعت کا مرتکب ہوگا اس کی امامت مکروہ ہوگی۔ فقط

سوال: (۷۰۹) بعض عامل بزرگ عملِ حضرات کیا کرتے ہیں، اس طور سے کہ سورہ ملک اکیس روز تک اکتیس بار روزانہ پڑھنی پڑھتی ہے، اس عمل کے کرنے سے دو حرف اس کے قبضہ میں آجاتے ہیں ”لن لن تب تب“ اور ایک جن اس کی قید میں آجاتا ہے، اس کو ایک لڑکے یا لڑکی پر حاضر کر کے کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کر، اگر وہ کام اس موکل کی طاقت میں ہوتا ہے تو فوراً کر دیتا ہے، ورنہ انکار کر دیتا ہے، یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۲۵۲/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: ایسے عمل اور رقیہ میں کچھ حرج شرعاً نہیں ہے جس میں کلماتِ شرک نہ ہوں، فی الحدیث الشریف: لا بأس بالرُقَى ما لم یکن فیہ شرک الحدیث (۱) (رواہ مسلم) و فی حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرُقَى، فجاء

(۱) عن عوف بن مالک الأشجعی رضی اللہ عنہ قال: کنا نرقی فی الجاهلیۃ، فقلنا: یا رسول اللہ! کیف تری فی ذلک؟ فقال: اعرضوا علی رُقاکم، لا بأس بالرُقَى ما لم یکن فیہ شرک (الصّحیح لمسلم: ۲۲۴/۲، کتاب السّلام، باب استحباب الرقیۃ من العین والنّملۃ والحّمۃ والنّظرة)

آل عمر و بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (۱) (رواه مسلم) پس معلوم ہوا کہ کلام اللہ اور کلمات طہیات کے ساتھ اعمال و رقیہ کرنا جائز بلکہ مستحسن اور مامور بہ ہے، پس سورۃ قرآنیہ کے اعمال جو حضرات واقفین و ماہرین کے مجربات میں سے ہیں اور تاثیرات ان کے تجربہ سے ثابت ہیں، ان کے کرنے میں موافق ان کی شرائط کے بہ شرط عدم ارتکاب محذور شرعی کچھ حرج نہیں ہے۔

اور تسخیر جن میں اس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی کام خلاف شرع اس سے نہ لے، اور اخبار غیب اس سے دریافت نہ کرے، اور اس پر یقین اور عمل نہ کرے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (سورۃ اسراء، آیت: ۳۶) کما قال المحقق الشيخ ولي الله الدهلوي قدس سره في القول الجميل: ولمعرفة السارق يتقابل اثنان، ويمسكان الإبريق بينهما، ويحملانه بين إصبعيهما السبابتين، ويكتب اسم المتهم في الإبريق و يقرأ سورة يس - إلى - من المكرمين، فإن كان هو الذي سرق دار الإبريق، فإن لم يدر فليمح اسمه، و ليكتب اسم غيره، وهكذا حتى يدور.

قلت: ويجب على من اطلع على السارق بأمثال هذه أن لا يجزم بسرقة، ولا يشيع فاحشته بل يتبع القرائن، فإنما هي طريق اتباع القرائن. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (۲) فقط

سوال: (۱۰۷) ایک شخص غیب کی خبریں دیتا ہے بہ ذریعہ حضرات کے اور حضرات اس طرح پر کرتا ہے کہ اول ایک لڑکے کو جس کی عمر چودہ برس سے کم ہو اس کے ماتھے پر عطر لگاتا ہے اور ناخن پر سیاہی ملتا ہے، جب سیاہی خشک ہو جاتی ہے اس پر تیل لگاتا ہے اور لڑکے سے کہتا ہے کہ ایک نظر سے ناخن کے اندر دیکھتے رہو اور خود پڑھتا رہتا ہے، اور پھر لڑکے سے کہتا ہے کہ دیکھ بھنگی اس میں آیا ہے؟ لڑکا جواب میں کہتا ہے: ہاں! آیا ہے، پھر اس کو کرسیاں وغیرہ آتی دکھتی ہیں، آخر میں

(۱) (الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۳، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والتملة والحمّة والنظرة)

(۲) شفاء العليل ترجمة القول الجميل: ص: ۹۲، فصل هشتم برائے شناختن دزد، مطبوعہ: مطبع نظامی کانپور۔



جنات کا بادشاہ تاج پہنے ہوئے آکر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ذریعہ سے لڑکے سے غیب کی خبریں دریافت کراتا ہے؛ یہ شرعاً کیسا ہے؟ جو شخص ایسا کرے یا کراوے اور اس کو صحیح سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اس کا نکاح منہج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور نماز اس کے پیچھے جائز ہے یا نہیں؟ (۱۴۰۷/۱۳۳۸ھ)

الجواب: بہ طریق مذکور حضرات کرنا اور اس کو سچا جاننا اور حق سمجھنا بالکل حرام اور باطل اور بدعات و منکرات سے ہے، اور وہ شخص جو ایسا کرے یا کراوے اور اس کو حق جانے فاسق و مبتدع ہے، نماز اس کے پیچھے مکروہ ہے، اور امام بنانا اس کو حرام ہے۔ کیونکہ شامی میں لکھا ہے کہ فاسق کے امام بنانے میں اس کی تعظیم ہے اور تعظیم فاسق کی حرام ہے (۱) اور حکم کفر کا اس پر نہ لگایا جاوے اور منہج نکاح کا حکم نہ کیا جاوے کہ مسلمان کو کافر کہنا بہت سخت امر ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ درحقیقت کافر نہ ہو تو وہ (یعنی اس کا وبال) اس کہنے والے پر لوٹتا ہے (۲) والعیاذ باللہ تعالیٰ لہذا تکفیر اس کی نہ کی جاوے۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### غیر مسلم سے جھاڑ پھونک کرانا

سوال: (۷۱) زید کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سانپ پھوکاٹے اور کوئی درد وغیرہ ہو تو ہنود سے منتر وغیرہ پڑھوانا درست نہیں، بکر کہتا ہے کہ ہم خود اس منتر کو استعمال نہ کریں گے، کس کا قول صحیح ہے؟ (۱۹۰۸/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: قول زید کا صحیح ہے ایسا علاج مجہول نہ کرانا چاہیے۔ فقط

- (۱) و أمّا الفاسق فقد علّوا کراهة تقدیمہ، بأنّہ لا یهتم لأمر دینہ، و بأنّ فی تقدیمہ للإمامة تعظیمہ، وقد وجب علیہم إہانتہ شرعاً، ولا یخفی أنّہ إذا کان أعلم من غیرہ لا نزول العلة (الشامی: ۲/۲۵۵، کتاب الصلاة، باب الإمامة، قبیل مطلب: البدعة خمسة أقسام)
- (۲) عن ابن عمر رضي الله عنہما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما، متفق عليه (مشكاة المصابيح، ص: ۴۱۱، کتاب الآداب - باب حفظ اللسان والغيبة والشتيم. وهكذا في جامع الترمذي: ۹۲/۲، أبواب الإيمان - باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر)

## اضافہ از مرتب:

نہایت سخت مجبوری میں جب کہ مسلمان کے علاج سے فائدہ نہ ہو، غیر مسلم سے اس شرط کے ساتھ علاج کرانا جائز ہے کہ مریض کو کچھ نہ کرنا پڑے، غیر مسلم اس سے پیسے لے لے اور چڑھاوا وغیرہ جو کچھ کرنا ہے وہی کرے۔ جیسا کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے درج ذیل فتویٰ سے واضح ہے:

سوال: (ب/۸۶۹) زید سفلی جادو وغیرہ سے بہت پریشان ہے، ہر چند مسلم عاملوں سے علاج کرایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، روز بہ روز تکلیف شدت پکڑتی جا رہی ہے، اور جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو کیا اس سخت مجبوری میں کسی غیر مسلم معالج سے اس شرط پر علاج کرانا جائز ہوگا کہ زید کو کچھ کرنا نہ پڑے، صرف پیسے دیدے، اور چڑھاوا وغیرہ جو کچھ کرنا ہے معالج کرے۔ فقط والسلام المستفتی: محمد یونس قاسمی

شعبہ ترتیب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

۱۴۳۲/۶/۱۹ھ

الجواب وباللہ التوفیق: (تب/۱۵۷) اگر سفلی جادو کا دفعیہ مسلمان عاملوں سے نہیں ہو پاتا ہے اور کوئی دوسرا جائز علاج مفید اور کارآمد نہیں ہو رہا ہے، روز بہ روز سحر میں شدت بڑھتی جا رہی ہے اور مریض کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو شدید ضرورت اور مجبوری میں غیر مسلم سے اس کا علاج کرا سکتے ہیں، بہ شرطیکہ وہ مریض کو کوئی نجس اور حرام چیز نہ کھلائے نہ شریک اور کفریہ کلمات مسلمان مریض سے کہلوائے، بلکہ غیر مسلم عامل خود ہی اپنے عمل کے ذریعہ سحر کے مضر اثرات کو دفع کرے تو شدت تکلیف اور مجبوری کی حالت میں غیر مسلم معالج سے ایسا عمل کرانے کی گنجائش ہے اور اس کا معاوضہ اور اجرت بھی دے سکتا ہے۔ وفي حاشية الإيضاح لبيري زاده قال الشَّمنى تعلّمه وتعليمه حرام. أقول: مقتضى الإطلاق ولو تعلّم لدفع الضرر عن المسلمين ..... وفي ذخيرة الناظر تعلّمه فرض لردّ ساحر أهل الحرب وحرام ليُفرّق به بين المرأة و زوجها، وجائز ليوثق بينهما الخ (إلى قوله) وللسّحرة فصول كثيرة في كتبهم فليس كل ما يسمّى سحرًا كفرًا الخ (شامي: ۱/۱۲۴-۱۲۵، مقدمة، مطلب في التنجيم والرمل) (بہ حوالہ فتاویٰ رحیمیہ کامل: ۱۰/۱۶۸، مطبوعہ پاکستان) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ

مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۴۳۲/۶/۲۲ھ

الجواب صحیح: محمود حسن غفرلہ بلند شہری الجواب صحیح: وقار علی غفرلہ الجواب صحیح: فخر الاسلام غفرلہ

نیز فتاویٰ رحیمیہ میں ہے:

سوال: (۲۴۸۷) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل صورت حال میں کہ ہمارے علاقہ گجرات میں آج کل سحر کا بہت زور ہے، آپس میں ذرا بھی اختلاف یا دشمنی ہوگئی، تو فریق مخالف کو پریشان کرنے یا جان لینے کے لیے غیر مسلم مشرک کے پاس سے سحر کروایا جاتا ہے، اس کے دفعیہ کے لیے تعویذات، عملیات سب کچھ کیا گیا، مگر اس میں خاطر خواہ آرام نہیں ہوا۔ البتہ تخفیف ہو جاتی ہے، عاملوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ سفلی یا ناپاک علم ہوتا ہے، اس لیے اس کا مکمل دفعیہ بھی اسی طرح سفلی اور ناپاک عاملوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ چند مشرک عامل بھی تعلق کی وجہ سے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شریعت کا احترام اور گناہ کے ڈر کی وجہ سے آج تک نہ خود کیا اور نہ کسی کو اجازت دی، بہت سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں، اور متعدد اموات بھی واقع ہو چکی ہیں تو کیا ایسی صورت حال میں غیر مسلم مشرکوں سے سحر ٹوٹکا وغیرہ تمام پلید چیزوں کے رد کے لیے عمل کروانا جائز ہے یا نہیں؟

اس میں ہمیں کچھ کھانا، پینا، پڑھنا، باندھنا نہ ہوتا ہو، بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعہ از خود دفع کرتا ہو، یا اُن میں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہو، مثلاً عام طور پر ان کا پڑھا ہوا تاگا بندھواتے ہیں، تو کیا ان میں کچھ فرق ہوگا؟ یا دونوں صورتیں مساوی ہوں گی؟ نیز اجرت یا کوئی دوسری اشیاء خریدنے کے لیے پیسے دینے کا کیا حکم ہوگا؟ مینو تو جرد۔

الجواب: جب کہ جان کا خطرہ لاحق ہے، اور دوسرا جائز علاج کارگر نہیں ہوتا اور مریض کو کوئی نجس اور حرام چیز کھانی نہیں پڑتی اور نہ شرکیہ اور کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنے پڑتے ہیں بلکہ غیر مسلم خود ہی اپنے عمل کے ذریعہ سحر کے مضراثرات کو دفع کرتا ہے تو بوجہ مجبوری ایسا عمل کرانے اور اجرت دینے کی گنجائش ہے۔ وفی حاشیة الإيضاح لبیرو زاده قال الشَّمْنی: تعلّمہ وتعلیمہ حرام الخ (شامی: ۱/۴۱-۴۲، مقدمہ، مطلب فی التَّنجیم والرَّمَل) فقط واللہ اعلم بالصواب (۳/۲۴۷-۲۴۸)

(فتاویٰ رحیمیہ کامل: ۵/۴۴۱، جائز و ناجائز امور کا بیان، مطبوعہ: مکتبۃ الاحسان دیوبند)

سوال: (۷۱۲) اکثر مسلمانوں کو جب سانپ، بچھو ڈستا ہے تو غیر مسلم کو جھاڑنے پھونکنے کے لیے بلاتے ہیں، اور وہ لوگ آکر اپنے منتر جو صریح کفر و شرک ہوتے ہیں پڑھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۰۸/۱۳۴۵ھ)

الجواب: جب کہ یہ معلوم ہے کہ وہ ایسے منتر شرکیہ پڑھتے ہیں تو جائز نہیں ہے (۱) فقط

(۱) مسلمان کے لیے شرکیہ منتر پڑھنا حرام ہے، مگر غیر مسلم شرکیہ منتر پڑھ کر مسلمان کا علاج کرتا ہے اور مسلمان کو کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا پڑتا، تو غیر مسلم سے ایسا علاج کرانا اور اس کی اجرت دینا جائز ہے۔ ۱۲ محمد امین

## سفلی عمل کروانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۱۳) آسیب کے دفعیہ کے واسطے ہندو کے پاس جانا جو بہ ذریعہ منتر سفلی جھاڑ پھونک کرتا ہے درست ہے یا نہیں؟ (۷۱/۱۰۷۶-۳۲/۱۳۳۳ھ)  
الجواب: درست نہیں (۱) فقط

## پادری کے پاس بہ غرض علاج جانا

سوال: (۷۱۴) کسی شہر میں ایک پادری نے اشتہار دیا کہ میں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، خدا میرے علاج اور اس دعا سے جو خدا سے مانگتا ہوں بیماریوں کو شفا دیتا ہے، یہ خبر سن کر بعض مسلمان لوگ بھی صرف علاج کی نیت سے نہ بہ ارادہ عیسائی ہونے کے اس پادری کے پاس گئے، کیا وہ لوگ عیسائی اور گمراہ ہو گئے یا مسلمان ہیں؟ (۳۱۸/۱۳۳۱ھ)  
الجواب: وہ لوگ کافر اور مرتد نہیں ہوئے، لیکن ایسے مدعی کذاب اور کافر اشد سے علاج کرانا مناسب نہیں ہے، اس سے علیحدہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے بہانوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فقط

## نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرنا

سوال: (۷۱۵) نظر اتارنا یا دوسری بیماریوں کا علاج ایسے ٹوٹکا (منتر) سے کرنا جس میں شرک نہ پایا جائے کیسا ہے؟ (۷۸/۱۰۷۸-۱۳۳۹ھ)  
الجواب: ایسے عملیات کرنا جن میں شرک نہ ہو جائز ہے (۲) فقط

(۱) سخت مجبوری میں جب کہ مسلمان کے علاج سے فائدہ نہ ہو ہندو سے علاج کرانا جائز ہے، بہ شرطیکہ مریض کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری  
(۲) عن عوف بن مالک الأشجعی رضي الله عنه قال: كنّا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ==

## نظر بد کا لگنا ثابت ہے

سوال: (۷۱۶) آسیب اور جن اور شیطان اور بھوت اور جادو کی کچھ اصل ہے، اور نظر بد کا لگنا اور ان سے انسان کو تکلیف پہنچنا صحیح ہے یا نہیں؟ (۷۱۶/۱۰-۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ سحر کی تاثیر ہوتی ہے (۱) اور نظر بد کا لگنا بھی صحیح ہے (۲) اور جن، شیطان، بھوت سب ایک ہیں، ان کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔

## نظر بد لگنا صحیح ہے اور اس کا علاج

سوال: (۷۱۷)..... (الف) زید کا بچہ کھیل رہا تھا، ایک شخص اس کو دیکھ رہا تھا، تو اسی رات بچے کی ٹانگ پر پھوڑا معہ بخار ہو کر ٹانگ سوچ کر بچہ تین ہفتہ سخت بیمار رہا، اب سب کہتے ہیں کہ اس بچے کو نظر بد کا اثر ہو گیا، چنانچہ اس کے لیے تعویذ بھی کیا گیا، اور سب یہ کہنے لگے کہ جس شخص کی نظر بد لگی ہے اس کے پیشاب کی مٹی یا پاؤں کے نیچے کی مٹی لا کر اس بچے کو دھونی دی جائے، چنانچہ ایک دن اس شخص کے پاؤں کی مٹی ملا کر بچے کو دھونی بھی دی گئی، اس سے بچے کو افاقہ ہوا، اور تندرست == ما لم یکن فیہ شرک (الصّحیح لمسلم: ۲/۲۲۴، کتاب السّلام، باب استحباب الرّقیة من العین والنّملة والحمة والنّظرة)

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال: أشعرت يا عائشة! أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، قلت: وما ذاك؟ يا رسول الله! قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (أي مسحور) قال: ومن طبه؟ قال: كبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق الحديث (صحيح البخاري: ۲/۸۵۸، كتاب الطب، باب السحر، وأخرجه أيضاً الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۱، كتاب السّلام، باب السّحر)

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین الحديث (الصّحیح لمسلم: ۲/۲۲۰، کتاب السّلام، باب الطبّ والمرض والرّقی)

ہو گیا، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور نظرِ بد کا لگنا صحیح ہے یا کیا؟

(ب) عوام الناس کا معمول ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کو نظرِ بد لگنے کا گمان ہو تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ چند مرچیں یا گوندھا ہوا تھوڑا سا آٹا لے کر مٹھی میں بند کر کے اس مریض کے جسم پر پھیرتے ہیں، اور منہ سے ان لوگوں کے نام جن کی نظر لگنے کا یقین ہوتا ہے فرداً فرداً لیتے جاتے ہیں اور ہر ایک نام کے ساتھ کہتے ہیں فلاں کی نظر پھٹے، فلاں کی نظر پھٹے، اس کے بعد ان چیزوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اس سے اگر نظر کا اثر ہو تو چلا جائے گا، اس کی نسبت کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۸ھ/۴۳۰)

الجواب: (الف - ب) مسلم شریف کی حدیث میں ہے: العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين و إذا استغسلتم فاغسلوا (۱) اس کا حاصل یہ ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور جب تم سے دھلوائے تو دھو دو، اس دھونے کی کیفیت شروع حدیث میں مذکور ہے، اس دھونے میں استنجاء کی جگہ کا دھونا بھی آیا ہے اور پھر اسی پانی کا ڈالنا معیون پر یعنی جس کو نظر لگی ہے وارد ہوا ہے (۲) الحاصل جب کہ نظر کا لگنا حق ہے تو اگر کوئی ایسا عمل اس کے دفع کے لیے کیا جائے جس میں کچھ شرک اور کفر کے کلمات نہ ہوں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

پس دوسرے سوال میں جو ترکیب مرچوں وغیرہ سے عمل کی ہے اس میں بھی شرعاً کچھ ممانعت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## دشمن کو زیر کرنے کے لیے ناجائز عمل کرنا

سوال: (۷۱۸) بکر چاہتا ہے کہ لوگ زید امام مسجد کے معتقد نہ ہوں، زید نے بکر کے لیے عمر

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العین حق الحدیث (الصحيح لمسلم: ۲/۲۲۰، کتاب السلام - باب الطب والمرض والرقی)

(۲) قوله: (فاغسلوا) كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزار فتصب غسالته على المعیون يستشفون بذلك (مرقاة المفاتیح: ۸/۳۵۱، کتاب الطب والرقی، الفصل الأول)

سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلا جس سے یہ میرے ساتھ دشمنی نہ کرے، اب عمر اس کو عمل بتلاتا ہے کہ چاند کی ۱۳ تاریخ کو رات کو ایک موم کا پتلا بنا کر اس کا پیٹ چاک کر کے قرآن شریف کی فلاں آیت کا غز پر لکھ کر پتلا کے پیٹ میں رکھ دو، پھر پتلا کے سر پر آہنی میخ ٹھوکو، اور پتلا کو چوراہے میں دفن کر دو، دشمن کے سر میں ایسا درد ہوگا کہ وہ بیتاب پھرے گا اور جس وقت وہ تم سے راضی ہو جاوے پتلا کے سر میں سے میخ نکال کر دشمن کے سر پر الحمد شریف پڑھ کر دم کر دو، فوراً اچھا ہو جاوے گا، زید کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۲۱۳)

الجواب: ایسا عمل کرنا اور کرنا درست نہیں ہے، اور اس میں دونوں گنہ گار ہیں۔ فقط

### دشمنوں کے شر سے نجات کا مجرب عمل

سوال: (۷۱۹) بنا بر دفع شر اعدائے دنیوی کوئی مجرب عمل ارقام فرمائیں۔ (۱۳۳۹/۲۲۱)

الجواب: ﴿لَا يَلَا فِي قُرْبَشٍ﴾ ستر مرتبہ روزانہ یا کم از کم گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور حزب البحر ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ فقط

### زبان بندی کا عمل کرنا اور قرآن کریم کی

### آیتوں کو آمدورفت کے راستہ میں گاڑنا

سوال: (۷۲۰) زید نے زبان بندی فی العداالت بکر کے واسطے ینس کی آیتوں کا عمل کر کے اور آیات شریفہ کو ایک پرچہ پر لکھ کر بکر کے راستہ آمدورفت میں دفن کر دیا، اب بعض جاہل کہتے ہیں کہ بکر کافر ہو گیا، آیا زید شرعاً کسی گناہ کا مرتکب ہوا؟ اور برائے زبان بندی عمل بالآیت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۷۳۶)

الجواب: زید اس صورت میں کافر نہیں ہوا، مگر آیات قرآنیہ کا راہ آمدورفت میں دفن کرنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، اور زبان بندی کا عمل کرنا اگرنا اگر بہ وجہ حق پر ہونے زید کے ہے تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## کلام اللہ سے فال لینا

سوال: (۷۲۱) کلام اللہ سے فال لینا درست ہے یا نہیں؟ (۵۸۸/۳۲-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: کچھ حرج نہیں ہے۔

## اُلُو کو منحوس سمجھنا غلط ہے

سوال: (۷۲۲) بیس برس کے تجربہ سے ثابت ہے کہ چغدا (الو) ہو یا دیگر پرند، جب کوئی شخص بیمار ہونے والا یا مرنے والا ہے تو شب کو اس کے گھر پر پکارتا ہے، یہ خیال کیسا ہے؟  
(۱۰۷۸/۱۳۳۹ھ)

الجواب: حدیث شریف میں: وَلَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وارد ہے (۱) اور ہامہ کی تفسیر بوم (اُلُو) کے ساتھ بھی کی گئی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی گئی ہے، لہذا ایسے خیالات فاسدہ و توہمات طبعیہ سے اجتناب و احتراز لازم ہے۔ قال فی المرقاة: قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم ..... وهى اسم طير يتشائم به الناس وهى الصّدي وهو طير كبير يضعف بصره بالنهار ويطير بالليل و يصوت ويسكن الخراب و يقال له بوم — إلى أن قال — فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الخ (۲)

## نیک فال لینا درست ہے

سوال: (۷۲۳) سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور آیت کریمہ: ﴿وَأَفْوَضْ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (سورہ مؤمن، آیت: ۴۳) اور ایک اور دعا پڑھ کر قرآن شریف کو کھول کر سات ورق الٹا کر فال لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۶۶۸/۱۳۳۳ھ)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى الحديث (صحيح البخاري: ۸۵۰/۲، كتاب الطب — باب الجذام)  
(۲) مرقاة المفاتيح: ۳/۹، كتاب الطب والرقى — باب الفال والطيرة.



الجواب: نیک فال لینا درست ہے، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی نے کسی شخص کو پکارا جس کا نام مثلاً محمود ہے، یا حسن ہے، یا اور کوئی اچھا نام مثل صالح وغیرہ کے ہے، اور پکارنے والے نے کہا: ”یا حسن“ یا ”یا محمود“ اور سننے والے نے اس سے نیک فال لی کہ میرا کام اچھا ہو گا یا انجام اس کا محمود ہے تو یہ جائز ہے، اس کے سوا بہ طریق خاص جیسا کہ سوال میں مذکور ہے ثابت نہیں ہے (۱) باقی اگر اچھی فال کسی لفظ سے لے لی جائے تو یہ درست ہے (۲)

### چھینک سے نیک فال لینا اور اسے گواہ عادل قرار دینا

سوال: (۷۲۴) زید کہتا ہے کہ چھینک گواہ عادل ہے، مثلاً کوئی شخص دعا کر رہا ہو، اور کسی نے چھینک دیا یہ قبولیت کی دلیل ہے، اور استدلال میں ما ثبت من السنّة مترجم: ص: ۵۶، ذکر ماہ صفر: باب اول طیرہ میں کی یہ عبارت پیش کرتا ہے: الفال مرسل والعطاس شاهد عدل لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن معاوية (۳) لیکن بکر اس کا خلاف کرتا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بکر چھینک کو عدم قبولیت اور بدفالی کی دلیل کہتا ہے؟ (۱۰۶/۳۳-۱۳۳۴ھ)

(۱) سوال میں فال نکالنا مراد ہے وہ نیک فال بھی نکل سکتا ہے اور بد بھی اور فال نکالنے والا دونوں کا اعتبار کرے گا، پس یہ جائز نہیں۔ نیک فال کا جواز ہی حدیث سے ثابت ہے۔ حاشیہ کی تیسری حدیث میں ہے: ولا يَتَطَيَّرُ ۱۲ سید احمد پالن پوری

(۲) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، و أحبّ الفأل، قالوا: يا رسول الله! وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.

و عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجیح (جامع الترمذي: ۱/۲۹۰-۲۹۱، أبواب السّير - باب ما جاء في الطّيرة)

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفأل ولا يتطير وكان يُحبُّ الإسم الحسن. رواه في شرح السنّة (مشكاة المصابيح، ص: ۳۹۲، كتاب الطبّ والرّقي، باب الفال والطّيرة، الفصل الثّاني)

(۳) ما ثبت من السنّة: ص: ۳۱، باب بالطيرة، المطبوعة: المطبع العالی نول کشور، لکناؤ.

الجواب: مجمع البحار میں ہے: وفيه — أي في الحديث: — كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ العطاس ويكره التثاؤب، لأنه يكون مع خفة البدن وانفتاح المسام المسببة عن تخفيف الغذاء وإقلال الشراب والتثاؤب بخلافه (ن) لأنه يدل على النشاط وخفة البدن ويخرج به ما اختلق في دماغه من الأبخرة ولذا أمر بالحمد (ك) المحبة راجع إلى سببه الجالب له، قال الأطباء: العطاس يدل على قوة الدماغ وصحة مزاجه و زوال زلزلة البدن (ج) وسببه خفة البدن فيعين على الطاعات والتثاؤب يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه للنوم والكسل، فينشط عن الطاعات (۱) (مجمع البحار) حديث شريف میں عطاس کے بارے میں اسی قدر الفاظ وارد ہوئے ہیں: كان يحبّ العطاس ويكره التثاؤب: ترجمہ حضرت رسول اللہ ﷺ چھینک کو دوست رکھتے تھے، اور پسند فرماتے تھے، اور جمائی کو مکروہ سمجھتے تھے، اور وجہ اس کی عبارت مذکورہ بالا مجمع البحار سے واضح ہے، جو عبارت آپ نے ماثبت من السنة سے نقل کی ہے اس کو دیکھا گیا، ماثبت من السنة میں اسی طرح منقول ہے، مگر آخر میں جو حوالہ اس میں ترمذی اور ابن ماجہ کا لکھا ہے ان دونوں کتابوں کو دیکھا گیا ان میں صرف یہ الفاظ مروی ہیں: وقد روى حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم وقد يكون اليمين في الدار والمرأة والفرس (۲) (ترمذی شریف) اور ان ہی الفاظ سے ابن ماجہ میں منقول ہے، لفظ والعطاس شاہد عدل کسی میں نہیں، اور باقی کتب صحاح ستہ میں بھی یہ الفاظ حدیث نظر سے نہیں گذرے، بہر حال اگر یہ الفاظ کسی حدیث میں آئے ہوں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ چھینک گواہ عادل ہے:

(۱) مجمع بحار الأنوار: ۳۹۷/۲، باب العين مع الطاء، المطبوعة: المطبع العالي نول کشور، لکناؤ۔

(۲) جامع الترمذی: ۱۱۰/۲، أبواب الاستيذان والأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الشؤم۔

وعن حكيم بن معاوية عن مخمر بن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا شؤم وقد يكون اليمين في ثلاثة في المرأة والفرس والدار (سنن ابن ماجه، ص: ۱۲۳، كتاب النكاح، باب ما يكون فيه اليمين والشؤم)

صحت جسم و خفت بدن و قوت دماغ و سلامت مزاج وغیرہ کا، جیسا کہ مجمع البحار میں حدیث: کان یحب العطاس کی شرح میں ارقام فرمایا ہے۔ نیک فالی اور بد فالی سے اس کو کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا، اور بکر کا قول تو بالکل غلط اور مخالف احادیث صحیحہ اور قواعد شرعیہ کے ہے، باقی رہا زید کی تقریر اور بیان: اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر حدیث کے الفاظ اس طرح ہوتے: والعطاس شاهد عدل لاشؤم تو یہ مطلب جو زید کہتا ہے فی الجملہ چسپاں ہو جاتا اور صحیح ہوتا، مگر الفاظ حدیث یہ نہیں ہیں، بلکہ حدیث یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ لاشؤم وقد یكون الیمن الخ (۱) یعنی نحوست کوئی چیز نہیں، اور کسی چیز کو منحوس نہ سمجھنا چاہیے، البتہ یمن اور برکت کبھی گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتی ہے، پس اگر یہ الفاظ والعطاس شاهد عدل کہیں مروی ہیں، تو بہ ظاہر یہ علیحدہ جملہ ہے، اور اس کا مطلب موافق دوسری حدیث کے جو بندہ نے نقل کی ہے: وہ ہے جو مجمع البحار سے نقل کیا گیا۔ فقط

### کسی کے ٹوکنے یا چھینک دینے پر کام سے رکنا

سوال: (۷۲۵) زید کا عقیدہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو جانے لگے اور کوئی اس کو ٹوک دیوے یا چھینک دیوے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اس خیال سے کہ اس کا کام نہ ہوگا، اور جب وہ سوکر اٹھتا ہے تو بغیر اپنا ہاتھ دیکھے دوسرے کا منہ نہیں دیکھتا، ایسے خیالات کا آدمی کیسا ہے؟ (۱۸۷۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: یہ خیالات بے اصل ہیں، شریعت میں ان کی کچھ اصل نہیں ہے، ایسے خیالات نہ رکھنے چاہئیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کسی کام سے کسی خیال سے رکنا نہ چاہیے۔ فقط

### سحر کی تاثیر حق ہے

سوال: (۷۲۶) زید معتقد تاثیر سحر کو مشرک جانتا ہے اور عمر مکر تاثیر سحر کو کافر جانتا ہے، لہذا کون حق پر ہے؟ (۲۶/۶۱-۱۳۳۷ھ)

الجواب: اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تاثیر سحر کی حق ہے، لیکن ان میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے گا۔ شامی میں ہے: وفي شرح الزعفرانی: السحر حق عندنا وجوده وتصوره

## سحر کرنا حرام ہے

سوال: (۷۲۷) سحر کرنا اور غیب کی بات بتلانا کیسا ہے؟ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ (۱۱۶۰/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: سحر وغیرہ سب حرام ہیں (۲) ایسے شخص کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ فقط

## سحر کرنے والوں پر سحر کرنا

سوال: (۷۲۸) دو آدمیوں نے ایک شخص پر سحر کرایا، وہ شخص فوت ہو گیا، لیکن عامل صاحب کہتے ہیں کہ اب ان سحر کرنے والوں پر سحر کرنا خلاف شرع ہے شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۱۲۳۱ھ)

الجواب: اس صورت میں ان عامل صاحب کا یہ کہنا کہ ”خلاف شرع ہے“ صحیح ہے، کیونکہ شرعی قاعدہ سے ثبوت اس امر کا نہیں ہوا کہ اس شخص نے سحر کیا، کیونکہ شرعی قاعدہ ثبوت کا یہ ہے کہ یا وہ ساحر خود اقرار کرے یا دو معتبر گواہوں کی شہادت سے ان کے سامنے اس کا سحر کرنا ثابت ہو۔ شامی میں منقول ہے: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّاحِرُ إِذَا أَقْرَبَ بِسَحْرِهِ أَوْ ثَبِتَ بِالْبَيِّنَةِ يُقْتَلُ وَلَا يَسْتَتَابُ مِنْهُ الْخ (۳) فَقَطْ

## کاہن اور نجومی سے غیب کی باتیں دریافت کرنا

سوال: (۷۲۹) علم نجوم شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور نجومی سے غیب کی باتیں دریافت

(۱) الشَّامِي: ۱/۱۲۴، مقدمة، مطلب: فِي التَّنْجِيمِ وَالزَّمَلِ .

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْمُؤَبَّاتِ: الشُّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحَرَ (صحيح البخاري: ۸۵۸/۲، كتاب الطب، باب الشرك والسحر من المؤبقات)

(۳) الشَّامِي: ۶/۲۹۱، كتاب الجهاد، باب المرتدة، مطلب فِي السَّاحِرِ وَالزَّانِدِ .

کرنا اور ان کی تصدیق کرنے کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۶۵۲ھ)

الجواب: حدیث شریف میں وارد ہے: من أتنى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته في دبرها، فقد برى مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (۱) پس معلوم ہوا کہ کاہن اور نجومی کے پاس جا کر اس سے کچھ امور غیبیہ کو دریافت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا کبیرہ گناہ ہے اور دین سے بری کرتا ہے۔ والعياذ باللہ تعالیٰ

### غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے عمل کرنا

سوال: (۷۳۰) ایک شخص کسی بچے نابالغ کے انگوٹھے کو تیل لگوا کر اس سے غیب کی خبریں دریافت کرتا ہے جیسا کہ یہ طریقہ مشہور ہے، ایسی خبریں معتبر ہیں یا نہیں؟ اور ایسے عمل کی نسبت کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو امام اور پیر بنانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۶-۳۵/۱۷۷ھ)

الجواب: ایسی خبروں کا شرعاً اعتبار نہیں ہے، اور بہ قاعدہ شرعیہ ایسے اعمال جن میں اخبار بالغیب ہو درست نہیں ہیں (۲) پس وہ شخص لائق مقتدا بنانے اور پیر بنانے کے نہیں ہے اور اس کو امام بھی نہ بنایا جائے۔ فقط

### جفر کے قاعدہ سے کوئی امر دریافت کرنا حرام ہے

سوال: (۷۳۱) زید بکر کے پاس گیا کہ میرا بھائی بیمار ہے، تم دریافت کرو کہ مرض کا سبب کیا ہے؟ بکر نے جفر (۳) کا قاعدہ جاری کر کے زید کو جواب دیا کہ تیرے بھائی کو نظر بد لگی ہے، یا کسی نے جادو کیا ہے، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۷۲ھ)

(۱) سنن أبي داود، ص: ۵۴۵، كتاب الكهانة والتطير، باب النهي عن إتيان الكهّان.  
(۲) وفي البرزازية: يكفر بادعاء علم الغيب و إتيان الكاهن وتصديقهم. وفي التاترخانية: يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اهـ. قلت: فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة (الشامي: ۲۹۴/۶، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في الكاهن والعرفاء)  
(۳) جَفَرُ: ایک علم جس سے غیب کا حال بتایا جاتا ہے۔ (فیروز اللغات)

الجواب: جعفر کے قاعدہ سے کوئی امر دریافت کرنا درست نہیں ہے، پس جو امر قاعدہ مذکورہ سے معلوم ہو اس پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے۔ فقط

### رافضی کو ہلاک کرنے کے لیے تعویذ کرنا

سوال: (۷۳۲) زید صاحب ریاست ہے، ہر طرح کے اختیارات اس کو حاصل ہیں، وہ رافضی ہے، اہل سنت والجماعت اور دین کا دشمن ہے، ان کے حقیر و ذلیل کرنے میں کوئی فرو گذاشت نہیں کرتا، کارکنان خلافت کمیٹی کو نہایت بے عزتی سے گرفتار کیا، اور منشا سخت سزا دینے کا ہے، اور جن جن لوگوں نے سمرنا فنڈ میں چندہ دیا ان کو بیچ قوم سے جوتے لگوائے، اسی خوف سے لوگوں نے مذہبی کاموں میں حصہ لینا اور جماعت میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے، تو ایسے شخص کا بہ ذریعہ کسی عمل یا تعویذ کے ہلاک کرنا جائز ہو گا یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۲۶۵۸ھ)

الجواب: ایسے شخص کے لیے آخرت میں عذاب سخت ہے، اور کیا عجب ہے کہ دنیا میں بھی کوئی عذاب اس پر نازل ہو یا حق تعالیٰ اس کو توبہ نصیب فرمادے، بہر حال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اس کے شر سے اہل اسلام اور مخلوق خدا محفوظ رہے، اور یا ان مظالم اور معاصی سے باز آوے، ورنہ حق تعالیٰ اس کو ہلاک و تباہ و خوار کرے، پس مسلمانوں کو اسی پر اکتفا کرنی چاہیے، اور اللہ کے حوالہ کرنا چاہیے، خود کوئی تدبیر ہلاکی کی نہ کرنی چاہیے۔

شداد، ہامان، نمرود، فرعون، قارون کے ناموں

### کے فلیتے کی دفع بلیات کے لیے دھونی دینا

سوال: (۷۳۳) زید ایک فلیتہ (بٹی) حسب ذیل ناموں کا لکھ کر دفع بلیات کے لیے دیتا ہے، وہ نام یہ ہیں: شداد، ہامان، نمرود، فرعون، قارون دھونی کے لیے، یہ عمل کرنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۱/۲۵۰۵ھ)

الجواب: اگر یہ عمل اس کے پاس دفع جن و بلیات کے لیے ہو تو جائز ہے۔ فقط

## رمضان شریف میں ختم قرآن کے وقت حفاظ سے پانی پڑھوانا

سوال: (۷۳۴) رمضان شریف میں ختم قرآن شریف کے وقت حفاظ سے پانی پڑھواتے ہیں، شرعاً اس کی کچھ اصل ہے یا نہیں؟ (۱۵۹۳/۱۳۴۱ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اس کی اصل شریعت میں ہے (۱) فقط

## شفائے مریض کے لیے صدقہ کرنا

سوال: (۷۳۵) قربانی یا صدقہ کرنا بہ وقت مرض بہ نام خدائے تعالیٰ بڑ (بکری) یا گاؤ جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۱/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: بکری یا گائے وغیرہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے صدقہ کرنا واسطے شفائے مریض وغیرہ کے جائز ہے بہ دلیل روایت درمختار: ولو قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبريء لا يلزمه شيء الخ إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض الخ ولو قال لله علي أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع

(۱) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن (سنن ابن ماجه، ص: ۲۵۰، أبواب الطب، باب الاستشفاء بالقرآن)

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه أعرابي، فقال: إن لي أخاً وجعاً، قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم، قال: اذهب فأتني به، قال: فجاء به. فأجلسه بين يديه، فسمعته عوداً بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ﴾ وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران، أحسبه قال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وآية من الأعراف ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ﴾ وآية من المؤمنين ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ وآية من الجن ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس (سنن ابن ماجه، ص: ۲۵۳ - ۲۵۴، أبواب الطب، باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه)

شیاء جاز الخ (۱) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نذر کرنا ذبح شاة وغیرہ کی شفاء وغیرہ کے لیے اور صدقہ کرنا اس کا واسطے اللہ کے جائز ہے، اور جس شے کی نذر جائز ہے اور لازم ہو جاتی ہے وہ شے شرعاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ معصیت کی نذر صحیح نہیں ہوتی۔ فقط

### انگشتی پر آیت قرآنیہ کندہ کرانا

سوال: (۷۳۶) قبلہ بزرگ نے ایک آیت انگشتی پر کندہ کرنے کو اجازت دی تھی، آیت یہ ہے: ﴿الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (سورہ زمر، آیت: ۳۶) تو یہ آیت کندہ کرا لی جائے کچھ حرج تو نہیں؟ (۲۱۲۰/۴۶ - ۱۳۴۷ھ)  
الجواب: جائز ہے۔ فقط

و بادور کرنے کے لیے دودھ اور شراب گلی کوچہ میں بہانا اور منتر پڑھنا

سوال: (۷۳۷) کسی شہر میں مرض وبائی ہوا اس کے دفعیہ کے لیے یہ عمل کرنا کہ دودھ اور شراب گلی کوچہ میں بہانا اور لوگ لٹھیاں لے کر چیختے پکارتے غل مچاتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں وغیرہ، اس قسم کا منتر پڑھنا اور کرنا کیسا ہے؟ (۲۲۸/۳۵ - ۱۳۳۶ھ)  
الجواب: ایسے اعمال اور منتر خلاف شرع کرنے اور کرانے سے گناہ ہوتا ہے، اور مرتکب ایسے افعال کے فاسق اور مرتکب کبیرہ گناہ کے ہوتے ہیں، تو بہ کریں، اور آئندہ ایسے اعمال کے پاس نہ جائیں، اور ان پر اعتقاد نہ رکھیں۔

جس مکان کے بارے میں برا خیال ہے اس کو چھوڑنا درست ہے

سوال: (۷۳۸) ایک مکان ایسا ہے کہ اس میں جو کوئی رہتا ہے اس کے اولاد نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، اس خیال سے اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں رہنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۱۵۶/۳۲ - ۱۳۳۳ھ)



الجواب: حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مکانات میں کچھ نا موافقت ہوتی ہے (۱) پس تبدیل مکان کرنا اور جس مکان میں برا خیال ہے اس کو چھوڑنا درست ہے۔ فقط

### کسی کو مطیع بنانے کے لیے ناخن کھلانا

سوال: (۷۳۹) کسی کو مطیع بنانے کی غرض سے ناخن کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵/۱۳۴۱ھ)  
الجواب: جائز نہیں ہے۔ فقط

### چور کی شناخت کے لیے کوئی عمل کرنا

سوال: (۷۴۰) بعض لوگ چور کو معلوم کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہوئے لوٹے کو گھماتے ہیں، لوٹا گھومتا ہے، مگر چور کی تعیین نہیں ہوتی، کیا ایسا عمل جائز ہے یا نہیں؟ اور لوٹا گھومنے کی کیا وجہ ہے؟ (۱۳۳۹/۱۴۱۹ھ)

الجواب: اس عمل کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے بھی قول جمیل میں نقل فرمایا ہے (۲) مگر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ محض اتباع قرائن کے لیے ہے، اس کے موافق اس شخص کو جس کے نام لوٹا گھوما ہے، یقیناً چور نہ سمجھا جائے۔ فقط

سوال: (۷۴۱) ایک شخص کا کچھ مال چوری ہو گیا، بہت تلاش کے بعد بھی نہ ملا، تو وہ ایک

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله! - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار أخرى فقلّ فيها عددنا وقلّت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذَرُوهَا ذَمِيمَةٌ (سنن أبي داود: ص: ۵۴۷، كتاب الكهانة والتطير، باب في الطيرة والخطأ)

(۲) وللمعرفة السارق يتقابل اثنان، ويمسكان الإبريق بينهما، ويحملا نه بين إصبعيهما السبابتين، ويكتب اسم المتهم في الإبريق ويقرأ سورة يس - إلى - من المكرمين، فإن كان هو الذي سرق دار الإبريق، فإن لم يدر فليمح اسمهم، وليكتب اسم غيره، وهكذا حتى يدور. قلت: ويجب على من أطلع على السارق بأمثال هذه أن لا يجزم بسرقة، ولا يشيع فاحشته بل يتبع القرائن، فإنما هي طريق اتباع القرائن (شفاء العليل ترجمة القول الجميل: ص: ۱۲۸، فصل: ۸، چور کی پہچان کے لیے)

مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کسی عمل خاص سے کسی خاص آدمی کا نام بتلایا، آیا مولوی صاحب کے بتلانے پر یقین رکھا جاوے یا نہیں؟ جس کا نام بتلایا وہ انکار کرتا ہے۔

(۱۳۳۵ھ/۱۴۷۹-۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس پر یقین نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بعض اعمال جس سے چور کی شناخت ہو لکھ کر فرمایا ہے کہ اس پر یقین نہ کرنا چاہیے، قرآن وغیرہ کو دیکھنا چاہیے۔ فقط سوال: (۷۴۲)..... (الف) جو لوگ کسی عمل کے ذریعہ سے گم شدہ چیزوں کا نام ظاہر کر دیتے ہیں اور چور کو بتلا دیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟

(ب) ایک امام مسجد کا کچھ روپیہ چوری ہو گیا تھا، اس نے تاوان نکلو کر ایک شخص سے تاوان لیا، حالانکہ وہ قسمیہ انکار کرتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی؛ اس امام کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۱۳۸۲)

الجواب: (الف-ب) عمل مذکور کے ذریعہ سے اگر کسی کا نام ظاہر ہو تو اس پر یقین نہ کرنا چاہیے، اور اس کو بالیقین چور سمجھ کر اس سے تاوان لینا درست نہیں ہے، پس امام مذکور کا یہ فعل خلاف حکم شریعت ہے، اور اس کے ذمے واپس کرنا اس روپیہ کا ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اس کو امام نہ بنایا جاوے۔ فقط

### جنون کو دفع کرنے کے لیے منتر پڑھنا

سوال: (۷۴۳) بعض آدمی مجنون ہوتے ہیں، اس کے دفع کرنے کے لیے ایک منتر خواں منتر پڑھتا ہے، اور ایک اچھے آدمی کو منتر پڑھ کر مجنون بنا کر جوابات لیے جاتے ہیں، وہ جن بذریعہ اس مجنون آدمی کے جو مانگتا ہے حسبِ مقدور دیا جاتا ہے، اور اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸ھ/۶۵۲)

الجواب: اس منتر میں اگر کلمات شرکیہ وغیرہ ہیں تو حرام ہے ورنہ مباح ہے (۱) اور یہ طریقہ

(۱) عن عوف بن مالک الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رُقاكم، لا بأس بالرُقَى ما لم يكن فيه شرك (الصحيح لمسلم: ۲۲۴/۲، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والتملة والحمة والنظرة)

مجنون بنانے کا اور اس کے ذریعے سے ”جن“ سے امور دریافت کرنے وغیرہ کا بھی ناجائز ہے۔

### کتا کاٹنے کا ایک جائز منتر

سوال: (۷۴۴) کتے کاٹنے کا ایک منتر اس طور سے ہے کہ پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بعدہ یا اللہ، بعدہ یا قطمیر، یا قطمیر، یا قطمیر لکھا جاتا ہے، تجربہ سے بہت نافع ثابت ہوا، جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۵/۱۳۳۷ھ)

الجواب: یہ منتر درست ہے (۱)

### مرغ کے خون سے قرآن کریم کی آیت لکھنا

سوال: (۷۴۵) مرغ کے خون سے برائے علاج قرآن شریف کی آیت لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۲۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مرغ کے خون سے تحریر آیت قرآن شریف بہ طور علاج اس میں شفا معلوم ہو جائز لکھا ہے (۲) جیسا کہ فتاویٰ سراجیہ میں مذکور ہے: إِذَا سَالَ الدَّمُ مِنْ أَنْفِ إِنْسَانٍ يَكْتُبُ بِفَاتِحَةِ (۱) الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ: ۲۲۴/۲، کتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والتملة .

(۲) مجبوری کی صورت میں تداوی بالمُحَرَّم جائز ہے، مگر دو شرطوں کے ساتھ: (۱): کوئی دوسری دوا اس مرض کے لیے مفید نہ ہو۔ (۲): اور حرام سے علاج کرنے میں شفا کا ظن غالب ہو، یا مسلمان حاذق طبیب کہے کہ اس سے شفا کا ظن غالب ہے۔

لیکن سائل جس بیماری کے لیے قرآن کریم کی آیت مرغ کے خون سے لکھنا چاہتا ہے اس کے دیگر جائز علاج موجود ہیں، اسی طرح نکسیر کے روکنے کی بہت دوائیاں اور جائز علاج ہیں، اور مذکورہ طریقہ اختیار کرنے میں شفا کا ظن غالب بھی نہیں، صرف شفا کا وہم ہے اس لیے کوئی مسلمان قرآن کریم کی آیت کو خون سے یا پیشاب سے لکھنے کی ہرگز جرأت نہ کرے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، امداد الفتاویٰ میں ہے:

سوال: (۵) لکھنا قرآن شریف کا ساتھ پیشاب کے؟

جواب: معاذ اللہ! قرآن مجید کا نجاست سے لکھنا اگر بدون اکراہ و اضطرار کے قصد و اختیار سے ہو تو کفر ہے الخ (امداد الفتاویٰ: ۳۶/۴، قرآن مجید، قبلہ اور دیگر قابل تعظیم اشیاء کے احکام)

الكتاب بالدم على جبهته و أنفه ونحو ذلك للاستشفاء و المعالجة ، ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس به ولكن لم يفعل الخ (۱)

سوال: (۷۴۶) مرغ کے خون سے تعویذ لکھنا جائز ہے یا نہ؟ (۴۴/۵۵۸-۱۳۳۵ھ)

الجواب: خون سائل نجس ہوتا ہے اس لیے یہ اچھا نہ ہوگا۔

### خاوند سے طلاق لینے کے لیے تعویذ کرانا

سوال: (۷۴۷) ایک عورت اپنے خاوند سے کسی سبب جو بتلانے کے قابل نہیں ہے رنجیدہ رہتی ہے، اور اس کے عقد میں رہنا نہیں چاہتی ہے، اگر وہ عورت کوئی عمل کسی شخص سے برائے طلاق کر دے تو وہ عورت اور وہ شخص کہ جو عمل کرے گنہگار ہیں کہ نہیں؟ (۸۷/۱۳۳۵ھ)

== کفایت المفتی میں ہے:

سوال: فقہ میں کتابۃ القرآن بالبول والدم جائز ہے۔ و کذا اختاره صاحب الهدایة فی التّجنیس فقال: لو رَعَفَ فکتب الفاتحة بالدم علی جبهته و أنفه جاز للاستشفاء و بالبول أيضًا. الخ. (رد المحتار: ۱/۳۲۵، کتاب الطہارة) اگر جائز ہو تو خیر ورنہ مذکورہ عبارت کے جواب سے مستفید فرمائیں۔ جواب: (۵۶) یہ حکم جواز مرجوح ہے اور اس حکم کا مئی ضرورت علاج ہے، جیسے کہ دوسری دوا میسر نہ ہو سکے اور علاج سے مایوسی ہو جانے اور شفا شراب میں بہ قول طبیب حاذق منحصر ہو جانے کی صورت میں شرب شراب جائز ہے، مگر یہ واضح رہے کہ حکم جواز کتابت مرجوح اور ضعیف ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ (کفایت المفتی: ۹/۵۶، کتاب الحظر والإباحة، دوسرے باب: عملیات و تعویذ)

اور فتاویٰ سراجیہ کے حاشیہ میں ہے:

الأصحّ المعتمد المفتی به عند جمیع مشایخنا منع کتابۃ القرآن بالنجاسة، و أمّا ما ذکر فی بعض الكتب من الجواز فقول مرجوح ضعیف لا یُعتمد علیہ ؛ لمخالفته أصول الدین . و إلیک ما قاله حکیم الأمة الشیخ أشرف علی التهانوی - رحمه الله تعالى - العیاذ بالله ، کتابۃ القرآن بالنجاسة إذا فعله متعمداً بدون إکراه و اضطرار یُکفّر (الفتاوی السراجیة، ص: ۳۳۱، کتاب الکراهة والاستحسان، باب التداوی و العلاج، رقم الحاشیة (۲) المطبوعة: مکتبة الاتحاد، دیوبند) محمد امین پالن پوری

(۱) الفتاوی السراجیة، ص: ۳۳۱، کتاب الکراهة والاستحسان، باب التداوی و العلاج، المطبوعة: مکتبة الاتحاد دیوبند .

الجواب: اس کی حدیث شریف میں ممانعت ہے (۱) ایسا عمل اور تعویذ نہ کرنا چاہیے۔ فقط

### مسمریزم کا حکم

سوال: (۷۴۸) مسمریزم (۲) سیکھنا اور سکھانا اور عمل کرنا کیسا ہے؟ (۱۶۶۷/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مسمریزم سیکھنا اور سکھانا درست نہیں ہے۔

سوال: (۷۴۹) ایک مسمریزم کا طلسماتی آلہ ہے، اس میں نظر کرنے سے اول اپنا چہرہ نظر آتا ہے، پھر تاریکی پھر بڑی روشنی پھر پہاڑ وغیرہ نظر آتا ہے، غرضیکہ شاہی دربار لگتا ہے پھر بادشاہ سے حسب مرضی سوال جواب ہوتا ہے مثلاً دور دراز مقاموں کی سیر، مقامات متبرکہ کی سیر و زیارت، اپنے عزیز و آشنا کی مردہ ارواح سے ملاقات و گفتگو، مرض کے مجرب نسخے، اور بعض آدمی غیب کی خبریں دریافت کرتے ہیں، مگر راقم گذشتہ یا آئندہ کی باتیں دریافت کرنا تو بہت برا اور جھوٹ خیال کرتا ہے، البتہ مردہ ارواح سے ملاقات اور گفتگو کرنے کو، ملکوں کی سیر اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کو دل چاہتا ہے؛ یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۲۷۱ھ)

الجواب: آلہ مذکورہ اقسام سحر سے ہے، لہذا اس قسم کے طلسمات کے ذریعہ سے کوئی امر دریافت کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس قسم کے شیطانی آثار اور عجائب متخیلہ کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، ایسے طلسمات پر اعتقاد کرنے سے فساد عقیدہ پیدا ہوتا ہے اور زوالِ ایمان کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن زینب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ يَقُولُ هَذَا؟ وَاللَّهِ! لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ فَكُنْتُ أَحْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيَنِي، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَذْهَبُ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. (سنن أبي داود، ص: ۵۳۲، كتاب الطب، باب في تعليق التَّمَائِمِ)

(۲) مَسْمَرِيزْم (Mesmerism) ڈاکٹر مسمر (۱۷۳۴ء — ۱۷۷۸ء) باشندہ آسٹریا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم جس میں تصویر یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔

(فیروز اللغات) ۱۲

## کفار و مرتدین سے میل جول رکھنے کا بیان

### غیر مسلم کی عیادت جائز ہے

سوال: (۷۵۰) غیر مسلم کی عیادت جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۸/۴۴-۱۳۳۵ھ)  
الجواب: جائز ہے بہ شرطیکہ اس قسم کا غیر مسلم نہ ہو جن کے متعلق شریعت نے بایکٹا کا حکم دیا ہے، جیسے مرتد یا اور تبدیل مذہب کرنے والے لوگ ان کی عیادت کرنا بہتر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں ہے: **وإن مرضوا فلا تعودوهم (۱)** اور حدیث میں کافر ذمی کی عیادت کرنا مرفوعاً ثابت ہے (۲)

### کفار کی عیادت، تعزیت، خدمت اور غیر مسنون طریقہ پر کفن و دفن کرنا

سوال: (۷۵۱) کفار کی بیمار پرسی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۴۳۹ھ)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدريّة مجسوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني)  
(۲) عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال: أسلم فأسلم (صحيح البخاري: ۸۳۴/۲-۸۳۵، كتاب المرضى، باب عيادة المشرك)

وعن سعيد بن المسيّب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ==

**الجواب:** کفار کی عیادت اور تعزیت جائز ہے۔ و جاز عیادته بالإجماع و فی عیادة المجوسی قولان الخ. وصحّح الشّامي جواز عیادة المجوسی وقال أيضًا: وفي النّوادر: جار یهودی أو مجوسی مات ابن له أو قریب ینبغي أن یعزیه ویقول: أخلف الله علیک خیرًا منه وأصلحك الخ (شامی: ۵/۲۳۸) وفيه قبل أسطر: وصحّح أن النّبی صلی الله علیه وسلّم عاد یهوديًا مرض بجوارحه الخ (۱) (شامی) عبارت وروایت مذکورہ بالا سے اس کا جواز معلوم ہو سکتا ہے یعنی موقع ضرورت میں کچھ حرج نہیں ہے جیسا کہ کافر کا قریب اور ولی اگر مسلمان ہو تو اس مسلمان کو کافر قریب کی خدمت کرنا اور کفن و دفن کرنا لا علی وجہ المسنون فقہاء نے (جائز) لکھا ہے۔ قال فی الدرّ المختار: ویغسل المسلم ویکفن ویُدفن قریبه کخاله الکافر الأصلی الخ عند الاحتیاج فلوله قریب (أي من أهل ملّته) فالأولی ترکه لهم من غیر مراعاة السنّة فیغسله غسل الثوب النّجس ویلفّه فی خرقة ویلقیه فی حفرة، ولبس للکافر غسل قریبه المسلم (۲) (در مختار)

### کفار کے کفن و دفن میں شریک ہونا اور وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہ کی تفسیر

سوال: (۷۵۲) کفار کے کفن و دفن میں مسلمانوں کو شریک ہونا جائز ہے یا نہ؟ آیت قرآنی:

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہ﴾ (سورہ توبہ، آیت: ۸۴) کی کیا تفسیر ہے؟ (۳۳۹/۳۳-۱۳۳۴ھ)

**الجواب:** عبارت مذکورہ بالا (جواب بالا) میں عند الاحتیاج کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا حاجت کفار کے کفن و دفن کا انتظام کرنا اور غسل دینا نہ چاہیے اور یہ اچھا نہیں ہے، پس بلا ضرورت ان کے کفن و دفن میں شریک ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور اگر کوئی مصلحت اور ضرورت ہو یا حق جوار کی وجہ سے رعایت منظور ہو تو درست ہے، لیکن بچنا بہر حال اولیٰ ہے۔ آیت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْبَدُ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہ﴾ (سورہ توبہ، آیت: ۸۴) میں نماز اور قیام علی القبر کی ممانعت

== ابن المغیرۃ الحدیث (صحیح البخاری: ۷۰۲/۲-۷۰۳، کتاب التفسیر، القصص،

باب قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

(۱) الدرّ المختار و ردّ المحتار: ۴۷۳/۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع.

(۲) الدرّ والردّ: ۱۲۵/۳، کتاب الصّلاة، باب صلاة الجنّازة، قبیل مطلب فی حمل المیت.

معلوم ہوتی ہے، سونماز کافر کے جنازہ پر تو بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے، اس میں کچھ تردد اور اختلاف نہیں ہے، باقی رہا قیام علی القبر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہ طریق زیارت قبر و دعا و استغفار قیام علی قبر الکفار ممنوع ہے اور کسی ضرورت سے کافر کی قبر پر کھڑا ہونا جیسا کہ کافر کے ولی مسلمان کو بہ وقت حاجت اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ درست ہے۔ تفسیر احمدی میں اس آیت کے متعلق یہ مذکور ہے:

وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْكَافِرِ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِخِلَافٍ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ كَافِرٌ وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ يَغْسِلُهُ مِثْلَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ لَا كَالْغَسْلِ الْمَسْنُونِ وَيَكْفِنُ فِي خُرْقَةٍ تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ لَا أَنْ يَكْفِنَهُ بِالطَّرِيقِ الْمَسْنُونِ إِلَّا وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا مَنَعَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَبَدًا﴾ كَذَلِكَ مَنَعَهُمْ عَنِ الْقِيَامِ عَلَى الْقَبْرِ لِلدَّفْنِ وَالزِّيَارَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ عَلَى مَا ذَكَرْتُ آنفًا لِأَنَا نَقُولُ: النَّهْيُ مُخْصَصٌ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ نَقُولُ: إِنَّهُ نَهَى عَنِ الدَّفْنِ وَالزِّيَارَةِ وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ إلقاءِ الْكُفْرَةِ فِي الْحَفْرَةِ إلقاءً فِيهِ لِادْفِنَ لَهُ، إِذَا الْمَطْلُوبُ تَرَكَ تَعْظِيمَهُمْ وَتَرَكَ اسْتِغْفَارَهُمْ وَهُمَا مَوْجُودَانِ حِينَئِذٍ الْخ (۱) عبارت مذکورہ سے جو مطلب احقر نے لکھا ہے بہ وضاحت ثابت ہے۔ فقط

### مسلمانوں کا ہندوؤں کے مرگھٹ تک جانا

سوال: (۷۵۳) مسلمانوں کے جنازہ کے ساتھ ہندوؤں کا قبرستان تک جانا اور مردہ کو مٹی دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور مسلمانوں کو ان کے مرگھٹ تک جانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۸۱/۱۳۴۵ھ)

الجواب: یہ طریق اچھا نہیں ہے، بالخصوص مسلمانوں کو کفار کے مرگھٹ میں جانا مکروہ ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ فقط

### یہود و نصاریٰ اور مجوس کی میت کے ساتھ قبرستان تک جانا

سوال: (۷۵۴) افریقہ میں رات دن یہود و نصاریٰ اور مجوس سے اکثر لین دین کا معاملہ

(۱) التفسیرات الأحمدیہ، ص: ۳۷۹، تحت الآیة: ۸۴، من سورة البراءة .



رہتا ہے، بغیر ان کے کاروبار نہیں چل سکتا، لہذا ان کی میت کے ساتھ قبرستان تک مسلمانوں کو جانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۵۹۰/۱۳۳۸ھ)

الجواب: بہ ضرورت جائز ہے۔ فقط

### قادیانی کو چائے کی پارٹی میں شریک کرنا

سوال: (۷۵۵) ہمارے دفتر میں ایک صاحب مرزائی فرقہ کی لاہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو مرزا کو بہ حیثیت ایک مجدد کے مانتے ہیں، ہم لوگ حنفی اپنے دفتر میں ایک کلب چائے نوشی قائم کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم مرزائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ (۹۸۲/۱۳۳۹ھ)

الجواب: مرزا اور اس کے اتباع پر کفر کا فتویٰ عام علماء نے شائع کر دیا ہے، لہذا اس کو شریک نہ کرنا چاہیے اور اس سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدہ باطلہ سے توبہ کرے اور اسلام قبول کرے تو پھر اس کو شریک کر لیں۔ فقط

### قادیانی سے رشتہ نانا اور میل جول رکھنا درست نہیں

سوال: (۷۵۶) ایک شخص قادیانی مشرب رکھتے ہیں اور برادر بھائی ہیں، ان سے رشتہ تعلق لین دین رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اکثر اندیشہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی صحبت سے، ایک صاحب اپنے لڑکے کا رشتہ ان کی لڑکی سے کرانا چاہتے ہیں، اس رشتہ کرانے یا کرنے والوں سے میل جول رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۰۶۱/۲۹-۱۳۳۰ھ)

الجواب: جس شخص کے عقائد قادیانی کے سے ہیں، وہ شخص جماعت اہل سنت بلکہ اہل اسلام سے خارج ہے، قادیانی کے عقائد کفریہ ہونے میں علمائے اہل حق کو خلاف نہیں، پس اس شخص سے میل جول کرنا اور رشتہ تعلق رکھنا درست نہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (سورہ مجادلہ، آیت: ۲۲) پس اہل حق کو ضروری ہے کہ اس قادیانی عقائد والے سے بالکل اجتناب کریں اور تعلق رشتہ وغیرہ کا اس سے نہ کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۷۵۷) جماعتِ مرزا غلام احمد قادیانی جن کا مذہب اور جن کے بانی مذہب مرزا کا دعویٰ خدائی، ابن اللہ مثل اولاد خدا کا ہو، پھر وہ مدعی نبوت و رسالت و مسیح موعود نبی اللہ کا ہو، معجزاتِ انبیاء مندرجہ قرآن کو مسمریزم، شعبدہ بازی کہہ کر منکر ہو، تو ہیں انبیاء و مریم خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام و حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے کرتا ہو، ایسے عقائد و اقوال والے لوگوں سے ہم لوگ مسلمانوں کا ناتا رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۶۹۳/۱۳۳۸ھ)

الجواب: مرزا مذکور کے دعاویٰ مذکورہ کی بناء پر علماء نے کافۃً اس کی تکفیر کا فتویٰ دیا ہے، چنانچہ وہ شائع ہو چکا ہے، اب اس سے اور اس کے معتقدین و تبعین کی جماعت سے کوئی معاملہ اسلامی رکھنا درست نہیں ہے، اور رشتہ ناتان کے ساتھ منقطع کرنا لازم ہے اور دلائل اس کے کتب و رسائل میں بہ کثرت لکھے جا چکے ہیں، یہاں بھی ایک رسالہ موجود ہے اگر مطلوب ہو تو مولانا سید اصغر حسین صاحب مدرس مدرسہ ہذا سے طلب فرمائیں۔

جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۷۵۸) زید نے کسی مرزائی کے دھوکے میں آ کر یہ الفاظ کہے کہ میں احمدی ہو گیا ہوں، اور باوجود سمجھانے کے باز نہیں آتا، تو زید سے مسلمانوں کو تعلقات رکھنے چاہئیں یا نہیں؟ (۱۶۹۳/۱۳۳۰ھ)

الجواب: زید جس نے ایسے کلمات کہے فاسق و عاصی ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے قطع تعلق کر دینا اہل اسلام کو ضروری ہے۔ فقط

مرزائیوں سے میل جول رکھنا

سوال: (۷۵۹) فرقہٴ مرزائیہ کو مسلمان سمجھنا اور ان سے میل جول کرنا اور ان کی طرف سے بحث و جھگڑا کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا شرفاً جائز ہے یا نہیں؟ (۲۹۶۳/۱۳۳۹ھ)

الجواب: فرقہٴ مرزائیہ کے کفر و ارتداد میں کچھ شبہ نہیں ہے، لہذا ان کو مسلمان نہ سمجھنا چاہیے اور ان سے بالکل علیحدگی کر لینی چاہیے، اور ان کی طرف داری کر کے ان کی طرف سے جھگڑنا حرام

ہے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا اور سلام و کلام کرنا ترک کر دینا چاہیے۔ فقط

قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور مناکحت کرنا جائز نہیں

سوال: (۷۶۰) قادیانیوں کے ساتھ میل جول، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، مناکحت کرنا کیسا ہے؟

(۱۳۳۵ھ/۲۰۱۷ء)

الجواب: مرزائیوں، قادیانیوں کے ساتھ کسی طرح کا اشتراک عمل کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ جائز نہیں۔ یہ جماعت بہ اتفاق علمائے اسلام کافر و مرتد ہے، شرعی حیثیت سے ان پر تمام وہی احکام جاری ہوں گے جو خدا کے دین سے پھرنے والوں پر ہوا کرتے ہیں، یہ لوگ جس کے پیرو ہیں اس نے ایسی ایسی باتیں کہی اور لکھی ہیں کہ قصر اسلامی کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ پیروان اسلام کے متفقہ عقیدے (ختم نبوت) کو اس طرح خاک میں ملایا کہ خدا کی پناہ! پہلے پہلے ہلکے ہلکے دعوے کیے، پھر طرح طرح کی حیلہ تراشیوں اور جعل سازیوں سے مستقل نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ یہاں تک کہ آج اس کے ماننے والے اس کو ایسا ہی نبی مانتے ہیں جیسے ہم مسلمان حضور سرور کائنات ﷺ کو۔

اس جھوٹے نبی نے خدا کے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں خصوصاً حضرت مسیح روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی توہین کی ہے کہ تنہا یہی چیز ہی اس کے اور اس کے پیروؤں کے کفر کے لیے کافی ہے، وہ ان کو شرابی کہتا ہے، زانی کہتا ہے، دنیا بھر کی بڑی سے بڑی ہتھتیں ان پر باندھتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان تمام خرافات کو قرآن پاک کی طرف منسوب کرتا ہے، پس وہ لوگ کہ جن کے مذہب کا بنیادی پتھر ختم نبوت کا انکار اور انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے، کب اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح بھی رواداری کی جاسکے؟! یہ ہمارے دشمن اور ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہم سے الگ اور ان کا دین ہمارے دین سے الگ ہے، جو مسلمان اسلام کے عام اصولوں سے بھی واقفیت رکھتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی ان کے ارتداد میں شبہ نہیں کر سکتا، ان بد بختوں کا عقیدہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے ہیں کافر ہیں۔

ایک عقل مند بہ آسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو کافروں کو مسلمان بنایا، اور

دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام پھیلا دیا، اور مرزا صاحب علیہ ما علیہ نے دعوائے نبوت کر کے بجز اپنے متبعین کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر ٹھہرا دیا، قرآن مجید کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) تمام مؤمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: المسلم أخو المسلم (۱) پس جو ہمارے تمام دنیا کے بھائیوں (یعنی دنیا کے تمام مسلمانوں) کو کافر بتلاتا ہے کیا عقل و دین غیرت و حمیت کا ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فتویٰ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی رکھیں؟!

اے علماء کو تنگ نظر کہنے والو! اللہ غور کرو کہ جس کا ذب نبی نے آنحضرت ﷺ کے دین و مذہب کے مقابلہ میں اپنا دین تراشا ہو، اسلام کے جھنڈے کے بالمقابل اپنا جھنڈا کھڑا کیا ہو، مدینہ جیسا مدینہ بنایا ہو، اور جنة البقیع جیسا قبرستان بنایا ہو، کیا اس کے ساتھ بھی کوئی رواداری کی جاسکتی ہے؟! ان کے ساتھ بیاہ شادی کرنا، ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا ناجائز ہے، کیا ایسے لوگ جو تمام پیروان اسلام کو بے تامل کافر کہیں، مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھنا گوارا نہ کریں، اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی درجہ میں بھی میل جول رکھا جائے؟ اب ہم ذیل میں ایسی عبارتیں خاص ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں جو خود ان کے کفر پر شاہد ہوں:

ختم نبوت کا انکار، اور اپنی نبوت کا دعویٰ: سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا (۲) (دافع البلاء ص: ۱۱) إنا أرسلنا أحمد إلى قومه (۳) (اربعین: ۳۳/۳) اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ سے افضل سمجھنا: تحفہ گولڑویہ میں نبی کریم ﷺ کے معجزات کی تعداد تین ہزار لکھی ہے اور اپنے معجزات کی تعداد دس لاکھ بتائی ہے، دیکھو: تحفہ گولڑویہ ص: ۴۰، وبراہین احمدیہ ص: ۵۶ (۴)

(۱) عن ابن شهاب أن سألماً أخبره، أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه الحديث (الصحيح البخاري: ۳۳۰/۱، أبواب المظالم والقصاص، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلّمه)

(۲) دافع البلاء، ص: ۱۱، روحاني خزائن: ۲۳۱/۱۸۔

(۳) أربعين نمبر، ۳ ص: ۳۳، روحاني خزائن: ۲۲۳/۱۷۔

(۴) مثلاً کوئی شریر انفس ان تین ہزار معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے، جو ہمارے نبی ﷺ سے ==

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین: لیکن مسیح کی راست بازی، اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیوں کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حَـصُور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیوں کہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے (۱) (دافع البلاء، آخری صفحہ)

اپنے شیطانی وسوسوں کو وحی قرآنی کے برابر سمجھنا: جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے کہ توریت و انجیل اور قرآن کریم پر الخ (۲) (اربعین: ۱۹/۴) تمام مسلمانوں کو کافر کہنا: قرآن شریف میں انبیاء کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے، اور ہم لوگ حضرت مسیح موعود و مرزا غلام احمد کو نبی اللہ مانتے ہیں، اس سے ہم آپ کے منکروں کو کافر کہتے ہیں۔ (تشحید الاذہان: ۱۳/۶)

ہر ایک شخص جو مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کافر ہے۔ (ایضاً) اس طرح کی صد ہا عبارتیں ہیں ہم نے صرف نمونہ چند عبارتیں نقل کر دی ہیں، خدا مسلمانوں کو اس ظالم قوم کے فریب سے بچائے اور ہدایت کی توفیق دے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ عتیق الرحمن عثمانی (۳)

سوال: (۷۶۱) مرزا غلام احمد قادیانی اور لاہوری پارٹی سے ہر قسم کے تعلقات میل جول بیاہ شادی وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ (۳۱/۸-۳۶/۱۳۷۷ھ)

الجواب: مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین اور لاہوری پارٹی اور اس کے متبعین کافر

== ظہور میں آئے (تحفہ گولڑویہ، ص: ۴۰، روحانی خزائن: ۶۷/۱۷)

ان چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان ایسے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں (براہین احمدیہ، ص: ۵۶، روحانی خزائن، ۷۲/۲۱)

(۱) دافع البلاء، ص: ۴، روحانی خزائن: ۲۲۰/۱۸۔

(۲) اربعین نمبر ۴، ص: ۱۹، روحانی خزائن: ۴۵۴/۱۷۔

(۳) یہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے صاحبزادے ہیں۔

و مرتد ہیں، اور مرتدین کے احکام بہ نسبت کفار کے شدید اور سخت ہیں، اور مرتد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ حاکم اس پر اسلام پیش کرے اور اس کے شبہ کو زائل کرے اور اس کو تین دن قید رکھے، اگر وہ تین دن کے اندر اسلام لے آئے تو فیہا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ درمختار میں ہے: من ارتدّ عرض الحاکم علیہ الإسلام استحباباً ..... وتكشف شبهته ..... ويحبس ثلاثة أيام الخ فإن أسلم فيها وإلا قتل لحديث: من بدل دينه فاقتلوه (۱)

اور مرتد کا نکاح بہ فوراً رد اودخ ہو جاتا ہے۔ درمختار میں ہے: وارتداد أحدهما ..... فسخ عاجل إلخ (۲) اور درمختار باب الجنائز میں ہے: ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه ..... الكافر الأصلي، أما المرتد فليق في حفرة كالكلب (۳) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کا قریبی رشتہ دار کافر اصلی ہو تو اس کو بعد مرنے کے غسل و کفن دے کر دفن کرنے کا حکم ہے، اور مرتد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو مثل کتے کے؛ گڑھے میں ڈال دیا جائے، بناءً علیہ مرزائی اور لاہوری جماعت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا اور کسی قسم کی رواداری رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے اور جو شخص ان دونوں جماعتوں سے میل جول اور ربط و ضبط رکھے ان سے بھی تعلقات منقطع کرنے چاہئیں۔ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳) سوال: (۷۲) قائم گنج کے فرقہ اہل سنت والجماعت نے فرقہ قادیانی سے بہ نظر تحفظ مذہب تعلقات مذہبی و برادری کو ترک کر کے قیود ذیل کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا:

- (۱) قادیانی فرقہ سے سلام علیک نہیں کریں گے۔
- (۲) شادی غمی میں نہ ان کو بلائیں گے، نہ ان کے یہاں جائیں گے۔
- (۳) نہ ان سے ناتا رشتہ کریں گے۔

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۶/۲۷۲-۲۷۳، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب: ما يُشك أنه ردّة لا يُحكم بها.

(۲) الدر مع الردّ: ۴/۲۷۲، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، مطلب: الصبيّ والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع.

(۳) الدر المختار مع الشامی: ۳/۱۲۵، کتاب الصلوة، باب صلاة الجنابة، قبيل مطلب في حمل الميت.

(۴) جو شخص ان قیود کی خلاف ورزی کرے گا اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔

(۵) ان سے رسوم ملاقات اور برادرانہ ملنا جلنا عیادت و تعزیت بھی چھوڑ دیں گے۔

پس یہ قیود قابل عمل ہیں یا قابل ترک؟ (۱۳۳۵ھ/۳۱۷)

الجواب: واضح ہو کہ قادیانیوں کے کفر و ارتداد پر فتویٰ ہو چکا ہے اور ان کے کافر و مرتد ہونے میں کچھ تردد و شبہ نہیں ہے، اور اہل اہواء کے فرقوں کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں: القدریۃ معجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم رواہ أحمد و أبو داؤد۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتاحوهم الحدیث رواہ أبو داؤد (۱) پہلی حدیث میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ پر حاضر نہ ہو، اور دوسری حدیث میں یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور ابتدا بالسلام نہ کرو۔

اور جب اہل اہواء کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا حکم ہے اور مقاطعہ کلیہ ان سے مامور بہا ہے تو قادیانیوں سے بہ درجہ اولیٰ یہ معاملہ کرنا لازم ہے اور مقاطعہ کلیہ ان سے واجب ہے۔ فقط سوال: (۷۶۳) مرزائی خواہ لاہوری ہوں یا قادیانی ان کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور ولیمہ وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ان کے سلام کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۷۱۶)

الجواب: مرزائی ہر دو فریق لاہوری و قادیانی مرتد و کافر ہیں، اور قطعیات و ضروریات دین کے منکر ہیں، ان کے ساتھ شرکت کھانے پینے میں اور ان کی غمی شادی میں شریک ہونا اور طعام ولیمہ وغیرہ کھانا سب حرام اور ناجائز ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ أنعام، آیت: ۶۸) وقال عليه الصلاة والسلام في أهل الأهواء: فلا تنالكوهم ولا تجالسوهم الحدیث (۲) أو كما قال صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فما ظنك

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: القدریۃ معجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتاحوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

(۲) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: إن الله اختارني ==

بالمتردین والملحدین. فقط

## قادیانیوں کے ساتھ مل کر کوئی انجمن قائم کرنا

سوال: (۷۶۴) یہاں لدھیانہ میں ایک قوم نے اپنی قومی انجمن قائم کی ہے، اس قوم کے اکثر لوگ قادیانی ہیں، اور بعض حنفی لوگ بھی شریک ہیں، تو اس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہ؟ اور جو شریک ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ (۷۶۴/۴۴-۱۳۴۵ھ)

الجواب: حنفیہ اہل سنت و جماعت کو اس میں شریک نہ ہونا چاہیے، اور جو شریک ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ انعام، آیت: ۶۸)

## قومی اور اسلامی جلسوں میں قادیانیوں کو شریک کرنا

سوال: (۷۶۵) قومی کانفرنس میں قادیانیوں کو شامل کرنا شرعاً کیسا ہے؟ (۷۶۵/۱۷۹۳ھ)

الجواب: قومی مجالس اور اسلامی جلسوں میں قادیانی و احمدی فرقہ بدین و گمراہ کے اذان و اتباع کو داخل و شامل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، ان کی عداوت اور بدخواہی مسلمانوں کے لیے غیر مذہب کے لوگوں سے شدید تر ہے۔ فقط

## رافضیوں سے تعلق رکھنے والی عورت سے احتیاط کرنا

سوال: (۷۶۶) ہندہ ایک عورت نامعلوم النسب ہے، تحقیق سے اس قدر پتا چلتا ہے کہ وہ نو مسلم ہے، ایک عرصہ تک رافضی کے ساتھ رہی، اور اب اس نے ایک اہل سنت سے نکاح کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو اہل سنت بتلاتی ہے، حالانکہ رافضیوں سے تعلقات زیادہ رکھتی ہے، اس کو اہل سنت

== و اختار لی أصحابی و أصهارى، و سیأتی قوم یسبونهم و ینتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تأواکلوهم ولا تناکحوهم (عق - عن أنس) (کنز العمال: ۱۱/۲۴۱، رقم الحدیث: ۳۲۴۶۵، کتاب الفضائل، باب ذکر الصحابة و فضلهم رضی اللہ عنہم أجمعین، المطبعة: دار الکتب العلمیة، بیروت)



سمجھیں یا رافضی سمجھ کر احتیاط کریں؟ (۱۶۲۱/۱۳۳۰ھ)

الجواب: جب کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہتی ہے، تو اس کو رافضی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اگر وہ درحقیقت رافضیہ ہے تو یہ معاملہ اس کا اللہ سے ہے، البتہ ایسی عورت سے احتیاط کرنی چاہیے۔

### شیعوں کے ساتھ خور و نوش اور میل جول رکھنا

سوال: (۷۶۷) فرقہ شیعہ اثنا عشری جس میں اکثر سید شامل ہیں اور اپنے آپ کو بنی فاطمہ بتلاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں برا بھلا کہتے ہیں، اور تعزیہ و مرثیہ خوانی کی محفل گرم رکھتے ہیں، درجہ کفر تک پہنچتے ہیں یا نہیں؟ ان کے ساتھ خور و نوش جائز ہے یا نہیں؟ جو اُن کے ساتھ خور و نوش یا سلام کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۲۶۵ھ)

الجواب: فقہاء نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ جو روافض سب شیخین کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اُفک کے بھی قاتل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قاتل ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں وہ بہ اتفاق کافر ہیں (۱) ان کے ساتھ خور و نوش اور میل جول درست نہیں ہے، اور ان کی تعظیم کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ مدعی سید ہونے کے ہوں، اور جو لوگ ان کے ساتھ خور و نوش و میل ملاپ رکھیں وہ عاصی ہیں، آئندہ ان کو اس سے احتراز اور توبہ لازم ہے۔ فقط

سوال: (۷۶۸) ایک شخص منکر صحبت صدیق و روافض رکھنے والا سب شیخین کا ہے، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو تعلقات رکھنا اور اپنے ساتھ مساجد میں نمازوں میں شریک کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۱۱)ھ

الجواب: أقول و بہ نستعين: بے شک ایسا رافضی جو کہ منکر صحبت صدیق ہو بہ اتفاق کافر

(۱) لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن (الشامي: ۲/۲۸۸، كتاب الجهاد، مطلب مهم في حكم سب الشيخين)

ہے اور اکثر فقہاء نے سب شیخین کرنے والے کو بھی کافر کہا ہے (۱) پس ایسے رافضی کے ساتھ اختلاط و ارتباط رکھنا اور بلائگیران کو مساجد مسلمین میں آنے دینا اور شریک نماز و جماعت کرنا حرام اور ناجائز ہے، ایسے لوگوں سے جہاں تک ہو سکے اجتناب اور علیحدگی کی جاوے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ انعام، آیت: ۶۸) فقط

### شیعہ تہرائی سے علیحدگی ضروری ہے

سوال: (۷۶۹) اس سال شیعہ نے خلاف معمول عشرہ محرم میں بہ آواز بلند چلا کر خلفائے راشدین کی شان میں تہرا کہا، تو ہم لوگوں کو شیعہ تہرائی برادری سے علیحدگی اختیار کرنا درست ہے یا نہ؟ اور دختر سنیہ کا نکاح شیعہ سے کیوں ناجائز ہے؟ (۱۳۳۱/۱۲۸۷ھ)

الجواب: ایسے شیعہ سے جن کا ذکر سوال میں ہے اہل سنت والجماعت کو علیحدگی ضروری ہے، اور شیعہ کی تکفیر میں فقہاء کا اختلاف ہے (۲) بہر حال ان کی مناکحت سے اہل سنت والجماعت کو احتراز لازم اور ضروری ہے۔ فقط

سوال: (۷۷۰) شیعہ سے سنی کا میل جول جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۲۸۳۱ھ)

الجواب: روافض کے ساتھ مواصلت و مشاربت جائز نہیں ہے، ایسے بدعتیوں و اہل اہواء سے علیحدگی کا حکم احادیث میں ہے، اور لا تؤاکلوہم ولا تشاربوہم ان کے بارے میں

(۱) أَنَّ الرَّافِضِي إِذَا كَانَ يَسِبُّ الشَّيْخِينَ وَيَلْعَنُهُمَا فَهُوَ كَافِرٌ ..... لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِ مِنْ قِذْفِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْ أَنْكَرَ صَحْبَةَ الصَّدِيقِ أَوْ اعْتَقَدَ الْأُلُوهِيَةَ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (الشَّامِي: ۲/ ۲۸۷-۲۸۸، كتاب الجهاد، مطلب مهم في حكم سبّ الشَّيْخِينَ)

(۲) أقول: نعم نقل في البزازیة عن الخلاصة: أَنَّ الرَّافِضِي إِذَا كَانَ يَسِبُّ الشَّيْخِينَ وَيَلْعَنُهُمَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ يُفْضِلُ عَلَيْهِمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ أَهْلٌ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ قَبُولِ التَّوْبَةِ، عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْكَفْرِ مُشْكَلٌ لِمَا فِي الْإِخْتِيَارِ: اتَّفَقَ الْأُئِمَّةُ عَلَى تَضْلِيلِ أَهْلِ الْبِدْعِ أَجْمَعٍ وَتَخْطِئَتِهِمْ، وَسَبُّ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَبَغْضُهُ لَا يَكُونُ كُفْرًا، لَكِنْ يَضِلُّ الْخَلْقَ (رد المحتار: ۲/ ۲۸۷، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم في حكم سبّ الشَّيْخِينَ)

وارد ہے (۱) جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ فقط

## شیعہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۷۷۱) اگر شیعہ و اہل سنت متفق ہو کر خلافت کمیٹی میں داخل ہوں تو شرعاً یہ اتفاق اور برتاؤ درست ہے یا نہیں؟ شیعہ کی تعظیم و حرمت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۱/۲۵۸۵ھ)

الجواب: ایسے روافض جن کا رفض حد کفر کو پہنچا ہوا ہے اور وہ تبراگو ہیں اور سب شیخین کرتے ہیں، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اقل کے قائل ہیں، ان کے ساتھ میں اہل اسلام یعنی اہل سنت و جماعت کو کسی قسم کی شرکت اور موافقت کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور ایسے گروہ مخالف دین نبی کریم ﷺ کی حرمت و عظمت جائز نہیں ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ أنعام، آیت: ۶۸) اور تعظیم فاسق کو جناب رسول اللہ ﷺ نے حرام فرمایا ہے (۲)

## شیعوں کے جلوس کو جائز سمجھنا اور اس کا انتظام کرنا

سوال: (۷۷۲) جو مسلمان سنی حنفی مذہب کا پابند ہو اور شیعوں کی مجلس میں شرکت کرے اور

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهارى، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تنكحوهم (عق - عن أنس) (كنز العمال: ۱۱/۲۴۱، رقم الحديث: ۳۲۴۶۵، كتاب الفضائل، باب ذكر الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفضب إذا مدح الفاسق في الأرض.

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش (شعب الإيمان للبيهقي: ۴/۲۳۰، باب في حفظ اللسان، رقم الحديث: ۴۸۸۵-۴۸۸۶، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت)

ان کے جلوس کا انتظام کرے اور اس کو جائز سمجھے، وہ کیسا ہے؟ (۱۸۰۳/۱۳۳۹ھ)

الجواب: شرکت اس میں حرام اور ناجائز ہے۔ فقط

مسلمانوں کو ”وندے ماترم“ کہنے سے احتراز کرنا چاہیے

سوال: (۷۷۳) اتحاد ہندو مسلم میں مسلمانوں کو ”وندے ماترم“ کہنا کیسا ہے؟

(۱۳۴۰/۱۳۷۱ھ)

الجواب: مسلمانوں کو ایسے الفاظ مشتبہ سے احتراز کرنا اولیٰ و انسب ہے۔ فقط

مہاتما گاندھی کی جے پکارنا

سوال: (۷۷۴) اللہ اکبر کے نعرہ کے ساتھ مسلمانوں کو ”وندے ماترم“ کہنا جائز ہے یا نہ؟ یا

مہاتما گاندھی کی جے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۱۴۰۷ھ)

الجواب: ایسے مشتبہ الفاظ سے بچنا مناسب ہے۔

غیر مسلم اللہ کو جن ناموں سے یاد کرتے ہیں مسلمان ان

کے جلسوں میں ان ناموں کو استعمال کر سکتے یا نہیں؟

سوال: (۷۷۵) کبھی کسی پارسی یا ہندو یا نصاریٰ یا یہودی کے جلسہ دنیوی میں مسلمان کو جانے

کا اتفاق ہو جائے، اور بجائے اللہ یا خدا کے اپنی گفتگو میں ان کے الفاظ مثلاً کرتا، اوتار، داور، الیشور،

بھگوان، رام، ہری (۱) یا گوڈ وغیرہ اگر کوئی مسلمان استعمال کرے تو کیا گناہ ہے؟ (۱۵۹۰/۱۳۳۸ھ)

الجواب: ان الفاظ کے استعمال سے احتراز اولیٰ ہے، اگرچہ گناہ کچھ نہیں ہے، مگر تشبہ بالكفار

سے کلام اور الفاظ میں بھی بچنا بہتر ہے۔ فقط

(۱): کرتا: خالق۔ اوتار: ہندوؤں کے عقیدے میں خدا کا کسی جنم میں داخل ہو کر مخلوق کی اصلاح کے لیے دنیا

میں آنا۔ داور: خدا۔ ہری: پریشور، خدا۔ (فیروز اللغات)

جو مسلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اُن سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے

سوال: (۷۷۶) ایک مسلمان اپنے مکان میں مثل ہنود کے بتوں کو رکھ کر پوجا کرتا ہے، اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اہل اسلام میں سے ایسے منافق سے محبت و یگانگی رکھے تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۷/۱۰۰۰)

الجواب: ایسے شخص سے بالکل علیحدگی کرنی چاہیے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ الْآيَةُ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳) اور محبت و یگانگی ایسے شخص سے رکھنا خلافِ نصوص ہے اور معصیت ہے، آئندہ اس سے (یعنی ایسے شخص سے محبت و یگانگی رکھنے سے) توبہ کی جاوے، اور انقطاع کیا جاوے، بہ مجبوری اور بہ خوفِ عداوت جیسا کچھ ہو جاوے معذور ہے۔ فقط سوال: (۷۷۷) ایک موضع کے مسلمان بت پرستی وغیرہ رسوم کفر کرتے ہیں، نماز قطعاً نہیں پڑھتے، اگر کوئی عالم نصیحت صوم و صلاۃ کی کرتا ہے تو بے عزتی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنی زمین میں مسجد نہیں بنانے دیتے، ان لوگوں سے میل جول تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۱۱۹۵)

الجواب: شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کی شادی و غمی میں شریک ہونا حرام اور ناجائز ہے، جب تک وہ لوگ رسوم کفریہ اور افعال قبیحہ شریک سے توبہ نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں اس وقت تک ان سے متارکت کر دیں اور قطع تعلق کریں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بِعَدُوِّكُمْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ أنعام، آیت: ۶۸) فقط

ہنود کی طرح پوجا کرنے والے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۷۷۸) ایک شخص مسلمان ہو کر قصدِ صوم و صلاۃ ترک کر دے، اور ہدایت کرنے پر بھی نہ مانے، مثل ہنود کے پوجا وغیرہ کرے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ (۱۳۳۲/۲۱۱۵)

الجواب: اس کی تالیفِ قلب کرنی چاہیے، اور بہ نرمی اس کو مسائل نماز و روزہ بتلانا چاہیے، اور اس کے ساتھ سختی کرنے میں جلدی نہ کرنی چاہیے، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۱۶) فقط

## سکھ اور ہنود کے جلسوں میں تبلیغ اسلام کی غرض سے جانا

سوال: (۷۷۹) سکھ اور ہنود کے جلسوں میں اسلامی تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟  
حالات کہ وہاں چند غیر شرع باتیں بھی ہوتی ہیں۔ (۱۳۴۰/۱۳۴۰ھ)  
الجواب: ایسے جلسوں میں جانا جن میں امور خلاف شرع ہوں درست نہیں ہے۔

## ہنود مسجد کے سامنے باجا بجانے پر مصر ہوں

### تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۷۸۰) امسال ہنود نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے میلے کے زمانہ میں اپنا جلوس باجا گا جا کے ساتھ جامع مسجد کے قریب بہ وقت عشاء خلاف معمول ٹھہرا دیں، اور جماعت عشاء میں خلل ڈالیں، اگر اہل محلہ اس خاص شب کو بعد نماز مغرب جامع مسجد میں قفل ڈال دیں اور جلوس نکل جانے کے بعد نماز ادا کریں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر تنگی وقت کے خوف سے اہل محلہ اپنے گھروں میں یا دیگر مساجد میں نماز اس شب پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۵۹۱ھ)  
الجواب: شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اہل محلہ مسجد محلہ میں نماز نہ پڑھیں اور اس کو بند کر کے دوسری مساجد میں یا اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ نماز اسی مسجد میں پڑھیں اور اگر کفار باجا وغیرہ نکالیں اور باز نہ آئیں تو صبر و تحمل کریں اور کچھ جھگڑا اور روک ٹوک نہ کریں۔

## جس نے عیسائی عورت سے شادی کر کے مذہب

### تبدیل کر دیا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۷۸۱) ایک مسلمان عیسائی خاندان میں شادی کرتا ہے اور خود بھی مذہب تبدیل کر دیا ہے اور مسلمانوں کو دھوکا میں رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس صورت میں مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۳/۱۵۳۳ھ)

الجواب: اول عیسائیوں میں نکاح کرنا ممنوع ہے (۱) اور پھر اس کے ساتھ جب کہ اس نے تبدیل مذہب بھی کر دیا ہے تو جب تک وہ پوری طرح توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام نہ کرے اس وقت تک اس کے ساتھ ملنا جلنا اور کھانا پینا درست نہیں ہے، اور جب تک وہ عیسائیت سے صاف طور سے براءت ظاہر نہ کرے اور اس مذہب سے انکار نہ کرے اس وقت تک اس کی حالت میں اطمینان نہ کیا جائے۔ فقط

جو مسلمان عیسائی عورت سے محبت کرتا ہے اور اس

کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۷۸۲) زید مسلمان کو ایک عیسائی عورت سے محبت ہوگئی، اکثر آمد و رفت طرفین سے ہوتی ہے، اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جس کے حرام و حلال کا پتا نہیں، زیادہ شبہ حرام پر ہے، والدین کے منع کرنے سے بھی نہیں مانے، زید کے لیے کیا حکم ہے؟ اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ (۳۶/۹۸۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: زید اس صورت میں فاسق معین ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے متارکت کی جائے، اس کی غمی و شادی میں شریک نہ ہوں۔ فقط

ہنود کی مجلس میں جانا

سوال: (۷۸۳) ایک فقیر جوگی شہر میں آیا ہے، ہنود اس کی آؤ بھگت کرنے لگے، اپنے عقیدے میں فقیر کامل جاننے لگے، اور اپنی حاجت پیش کرنے لگے، ایک شخص ڈاکٹر پابند صوم و صلاۃ سلسلہ چشتیہ و قادریہ و نقشبندیہ سب حال سن کر اس کے پاس گیا، اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے آنکھ کی روشنی جو کم ہوگئی ہے، اور ظاہر میں موتیا معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ سب آسیب کے سبب

(۱) وتحل ذبیحة النصارى مطلقاً سواء قال: ثالث ثلاثة أولاً، ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه، والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام (رد المحتار: ۳۵۹/۹، كتاب الذبائح)

سے ہے، اب ڈاکٹر صاحب اس کے معتقد ہو گئے، اس کو مکان پر بھی بلایا، اس نے مکان کو دیکھ کر کہا کہ اس مکان کو چھوڑ دو، مگر ڈاکٹر نے نہیں چھوڑا، اور یہ بھی بتلایا کہ اس میں خزانہ دفن ہے اور اس کی ترکیب ہم کریں گے، پس وہ معتقد ہو گئے اور ہنود کی مجلس میں جانے لگے، مسلمانوں نے منع کیا کہ اہل ہنود کی مجلس میں مت جاؤ۔ (۳۳/۱۹۰۸-۱۳۳۳ھ)

الجواب: سب کو اول تو عموماً ہندوؤں کی صحبت سے احتراز کرنا چاہیے خاص کر اس صورت میں کہ عقیدہ کے بگڑنے کا خوف ہو، اس جوگی کی صحبت سے احتراز لازم ہے اور اس کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے۔ فقط

### ہنود کے مذہبی امور میں شرکت کرنا

سوال: (۷۸۴) ایک شخص نے تعزیہ داری اس نیت سے کی کہ میرا لڑکا اچھا ہو جاوے گا اور ہندو لوگوں کے ساتھ پوجا کی اور ان کی رسومات میں شریک ہوتا ہے روکنے سے بھی باز نہیں رہتا، ایسے فعل بد سے روکنا مشکل ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۲۹۴ھ)

الجواب: مسلمانوں کا کام اسی قدر ہے کہ اس کو ایسے رسوم کفر و شرک سے روکیں وہ نہ مانے تو وبال اس پر ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ نہ ماننے کے بعد اس سے میل جول نہ رکھیں، اور محبت و دوستی نہ کریں، اور فتنہ اور فساد بھی نہ کریں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (سورہ مجادلہ، آیت: ۲۲)

سوال: (۷۸۵) جو شخص ہنود کی رسومات کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۸۷۴ھ)

الجواب: ہنود کی رسوم کرنا اور ان میں شریک ہونا حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۷۸۶)..... (الف) زید ایک کارخانے کا آفس کلرک ہے اور مسلمان شریف خاندان ہے، سوائے چند مسلمانوں کے کارخانہ کے تمام کاریگران ہندو ہیں، وہ ہر سال چندہ کر کے ایک دیوتا کی بڑے اہتمام سے پوجا کرتے ہیں، بعض مسلمان بھی چندہ دے کر شریک ہوتے ہیں،



زید بھی خوشی سے پوجا میں چندہ دے کر شریک دعوت ہوتا ہے، اور دیگر لوگوں پر جبر کر کے اور ترغیب دلا کر چندہ دلاتا ہے، آیا کسی مسلمان کا ایسی پوجا میں چندہ دینا اور شریک دعوت ہونا کیسا ہے؟

(ب) اپنی شرکت کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بہ جبر چندہ دینے پر آمادہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟

(ج) کوئی ملازم بہ خوف معزولی شریک ہو تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۸۹۹)

الجواب: (الف) مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا اور چندہ دینا حرام ہے اور سخت گناہ ہے، اور ہندوؤں کی پوجا کی رسوم میں شریک ہونے سے خوف کفر ہے۔ حدیث شریف میں ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (۱) وَمَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (۲) اور حق تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳)

(ب) یہ اور بھی زیادہ برا ہے کہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے اور ضلُّوا وَأَضَلُّوا (۳) کا مصداق بنے۔

(ج) بہ خوف معزولی بھی اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ فقط

ہنود کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں میں شامل ہونا

سوال: (۷۸۷) جوابل اسلام اہل ہنود کو خوش کرنے کے لیے اور آپس میں اتحاد اور سلوک

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم

فهو منهم (سنن أبي داود، ص: ۵۵۹، كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة)

(۲) من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكاً في عمله (كنز

العمال، كتاب الصّحة من قسم الأقوال: ۲۲/۹، رقم الحديث: ۲۳۷۷، المطبوعة: مكتبة

التراث الإسلامي، حلب)

(۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء

حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً، فاستلوا فأفتروا بغير علم، فضلوا وأضلوا

(صحيح البخاري ۲۰/۱، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الخ)

کی وجہ سے ان کے تہوار میں شامل ہوں اور بے بولیں اور زنا رگلے میں ڈالیں اور تھالی میں پان پھول مٹھائی وغیرہ رکھ کر ان کی مورتیوں پر چڑھائیں اور جس تخت پر مورتیاں ہوں اس کو کندھے پر رکھ کر شہر میں بے بولتے ہوئے پھریں، اور صد ہا روپیہ اپنی جانب سے پان سگریٹ وغیرہ میں صرف کریں اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۶-۳۵/۳۱۷ھ)

الجواب: یہ سب امور حرام ہیں اور ناجائز ہیں، مسلمانوں کو ان سے احتراز لازم ہے کہ ایسے امور میں خوف کفر ہے۔ اَعَاذُنا اللہ تعالیٰ منہ۔ فقط

### دنیاوی مفاد کی غرض سے مشرکین سے ملنا جلنا اور دوستی رکھنا

سوال: (۷۸۸) دنیاوی مفاد کی غرض سے مشرکین سے اتحاد پیدا کرنا درست ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۶-۳۵/۴۲۸ھ)

الجواب: مشرکین سے دنیاوی معاملات میں بہ ضرورت ملنا جلنا روا ہے اور محبت و دوستی دشمنانِ اسلام سے روا نہیں ہے۔

### مرتد سے میل جول رکھنا حرام ہے

سوال: (۷۸۹) ایک مسلمان عیسائی ہو گیا، اس سے دوستی اور محبت رکھنا اور خندہ پیشانی ہو کر ملنا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۱۲ھ)

الجواب: وہ شخص جو اسلام سے پھر کر عیسائی ہو گیا مرتد ہے، اس سے تعلقات اور میل جول رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اور بہ خندہ پیشانی اس سے مصافحہ کرنا اور ملنا اور اس کے ساتھ مواصلت و مشاربت رکھنا ناجائز اور ممنوع ہے، ایسے لوگ جو اس مرتد کے ساتھ بہ خندہ پیشانی ملے اور ساتھ کھایا پیا گئے گار ہوئے، اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس سے اجتناب رکھیں۔ فقط

سوال: (۷۹۰) زید نے معہ عیال و اطفال کے مذہب قادیانی اختیار کیا ہے، اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ میل جول اور کھانا پینا اس کے یہاں کا درست ہے یا نہیں؟ عمر کہتا ہے کہ ہنود کے یہاں کا کھانا کھاتے ہیں اسی طرح قادیانی کے یہاں کا کھانا درست ہے، یہ صحیح

ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۹۳۵ھ)

الجواب: قادیانی پر فتویٰ کفر کا ہے، لہذا اس کے ساتھ میل جول رکھنا جائز ہے اور چونکہ وہ مرتد ہے تو دوسرے ہندوؤں سے وہ بدتر ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کھانا پینا اور میل جول رکھنا درست نہیں ہے اور عمر کا قول غلط ہے۔ مرتد کا حکم بہت سخت ہوتا ہے اس کا حکم مثل دیگر ہنود کے نہیں ہے، اس کے گھر کا کھانا نہ چاہیے اور مسلمانوں کو اس سے بالکل علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ فقط

ہنود سے اس قدر میل جول رکھنا کہ وہ مذہبی

امور میں مذاق کرنے لگیں جائز نہیں

سوال: (۷۹۱) ”عید“ حجامت بنوار ہاتھا، وہاں پر ہندو موجود تھے، انہوں نے حجام کو مذاق میں اشارہ کر دیا کہ چوٹی کے بال ہندوؤں کی طرح چھوڑ دینا اور ڈاڑھی کا صفایا کر دینا۔ غرض ہندو حجام نے ایسا ہی کیا، اور وہ ہندو عیدو سے مذاق کرنے لگے کہ بھائی تم شدھ (پاک، صاف) ہو جاؤ، برادری نے عیدو کو ترک کر رکھا ہے اور عیدو کے ذمہ یہ خطا لگائی ہے کہ اس نے ہندوؤں سے اس قدر میل جول کیوں کیا جس سے وہ مذہبی مذاق کرنے لگے؟ اب عیدو نے توبہ کر لی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۲۳۶۰ھ)

الجواب: یہ اعتراض عیدو پر صحیح ہے کہ عیدو نے ہندوؤں سے اس قدر میل جول کیوں کر رکھا ہے کہ وہ اس قسم کا ہتک اسلام کرتے ہیں، عیدو کو چاہیے کہ توبہ کرے، اور آئندہ ہندوؤں سے قطع تعلق کرے، اور عیدو کی برادری والے عیدو کو بعد توبہ کے اپنے ساتھ ملا لیں۔ فقط

تالیفِ قلوب کے لیے شعار کفار میں شرکت کرنا

سوال: (۷۹۲) ایک غیر مسلم یعنی ہندو کے جنازہ کو کا ندھا دینا اور مسلمانوں کا شرکت کرنا اور مرگھٹ تک جانا اور تعظیماً و اظہارِ غم و ہمدردی کے لیے برہمنہ سر ہنا اور دوسروں کو بھی مجبور کرنا، اور میت کا نام لے کر بے پکارنا، اور اظہارِ غم میں اپنا کاروبار و دکانیں وغیرہ بند کرنا شرعاً کیسا ہے؟

اور یہ حضرات شرعاً کس جرم کے مرتکب ہوئے؟ ان لوگوں کو تجدید اسلام و تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۹۳۷ھ)

الجواب: اگر ضرورت اسلامی سے کفار کے ساتھ ہمدردی کی جاوے اور ان کی میت کی تعزیت کی جاوے اور جنازہ کے ساتھ جایا جاوے تو یہ درست ہے، لیکن جے وغیرہ پکارنے سے اور شعار کفار میں شرکت کرنے سے احتراز کیا جاوے۔ شامی جلد خامس میں ہے: جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزیه ويقول: أخلف الله عليك خيرًا منه وأصلحك، وكان معناه: أصلحك الله بالإسلام: يعني رزقك الإسلام و رزقك ولدًا مسلمًا. كفاية (۱) الغرض تالیف قلوب کے لیے اور ضرورت اسلامی کے لیے کفار کے ساتھ اظہار غم کرنا اور ہمدردی کرنا درست ہے، لیکن بہ شرطیکہ شعار کفر میں ان کا شریک نہ ہو۔ فقط

### جلسہ میں ہندو کو صدر بنانا

سوال: (۷۹۳) کسی جلسہ میں ہندو کو صدر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۰۶ھ)

الجواب: اگر کوئی مصلحت اسلامی داعی ہو کہ کسی ہندو کو صدر بنا کر کچھ کام اسلام کا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ فقط

### مجبوری میں رسم رام لیلا کی اجازت دینا

سوال: (۷۹۴) ایک قصبہ میں اہل ہندو رسم رام لیلا (۲) ادا کرنی چاہتے تھے، مسلمان مخالف تھے، عدالت نے اجازت نہیں دی، اہل ہندو نے مسلمانوں سے لین دین بند کر دیا، مسلمان پریشان ہیں، اگر اس مجبوری سے رام لیلا کی اجازت دے دیں تو شرعاً کچھ جرم ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۴۵۳ھ)

الجواب: اگر مسلمان بہ وجہ مجبوری کے اجازت دے دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔

(۱) الشامی: ۴/۳۷۹، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع .

(۲) رام لیلا: رام چندر جی کی فتوحات کی نقل جو ہندو دوسرے کے موقع پر کرتے ہیں (فیروز اللغات)

## نصاری کے ساتھ ترک موالات کرنا

سوال: (۷۹۵) ترک موالات (۱) کا نصاریٰ کے ساتھ کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۱/۱۴)۔  
الجواب: ترک موالات نصاریٰ فرض مذہبی ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ تارک فرض شرعی ہے، اور عاصی اور فاسق ہے۔

## ہندو کے میلوں میں شریک ہونا اور مذہبی امور میں ان کی اعانت کرنا

سوال: (۷۹۶) قصبہ میں اہل ہندو سخت دشمنی سے پیش آرہے ہیں، اور چار مسلمان ان کو ہر قسم کی امداد دیتے ہیں، ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ مورت نکالنے میں اور میلوں وغیرہ میں امداد کرنے والوں کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۲/۹۰۶)۔

الجواب: جو مسلمان ہندو کے معین و مددگار ان کے میلوں وغیرہ میں اور مورت وغیرہ کے نکالنے میں ہیں وہ عاصی و فاسق ہیں، ان کو توبہ کرنی لازم ہے۔ فقط

سوال: (۷۹۷) کسی شہر میں ایک میلہ ہندو کا ہوتا ہے، جس میں مہادیو اور دیوی بڑی شان و شوکت سے بنائے جاتے ہیں، تو جو مسلمان اس کام میں چندہ وغیرہ سے اعانت کریں اور بہ غرض تماش بینی شریک ہوں ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۵/۹۰۴)۔

الجواب: مسلمانوں کو ہندوؤں کے مذہبی میلوں میں شریک ہونا اور ان کی کسی قسم کی اعانت کرنا درست نہیں ہے؟ لہذا جو مسلمان اس میں شریک اور چندہ وغیرہ سے اعانت کریں یا ان کے میلوں میں بہ غرض تماش بینی شریک ہوں وہ سب عاصی و فاسق ہیں توبہ کریں اور آئندہ کبھی شریک نہ ہوں اور نہ کسی قسم کی اعانت کریں۔ فقط

(۱) موالات: دوستی، ترک موالات: عدم تعاون، جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزی حکومت سے عدم تعاون کا فتویٰ جاری ہوا تھا، اور تمام ہندوستانیوں نے حکومت کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اس زمانے کے بارے میں سوال و جواب ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

### دسہرا دیکھنا بڑا گناہ ہے

سوال: (۷۹۸) میں نے دسہرا دیکھا ہے، میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو یہ صحیح ہے؟ اگر ٹوٹ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۶۱/۴۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: دسہرا دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر نہ دیکھنا چاہیے، اور توبہ کرنی چاہیے، مگر نکاح نہیں ٹوٹا۔ فقط

### بیماروں کو ہندو سادھو کے پاس برائے شفا لے جانا اور اس کی تعظیم کرنا

سوال: (۷۹۹) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مسلمانوں کو ہندو سادھو پیراگی (تارک دنیا) کے پاس جن کے ہزاروں مرید ہندوؤں میں موجود ہیں برائے حاجت اخروی و دنیاوی کے جانا اور ان کے پاس مسلمان مریضوں کو برائے شفا لے جانا اور اس سے شفا چاہنا، اور اس کو ولی اللہ جانا اور اس سے دریافت کرنا کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں؟ یا خود سادھو جب اپنے ہندو مریدوں کے مکان میں یا اور کسی ضرورت سے آتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے مکان میں چلا آنا اور مسلمانوں کو اس کی تعظیم و تکریم روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کی چیزوں سے دینا یا کوئی مسلمان رادھا کرشن کی تصویر جو کاغذوں پر بنی ہوتی ہے، اس کو کسی ہندو کو خرید کر کے دینا کیسا ہے؟ یہ لوگ مسلمان ہیں یا مرتد؟ ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا؟ اور جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہیں ان لوگوں پر شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۹۱۲/۴۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: جو لوگ ہندو فقیروں سے اس قسم کے معاملات کرتے ہیں جن کا ذکر سوال میں ہے وہ لوگ فاسق و فاجر اور گنہگار ہیں، ان کو اس قسم کی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہندو فقیروں سے معاملات اس قسم کے نہ رکھنے چاہئیں، اگر ان کو کسی تعویذ یا عمل یا دعا کی ضرورت پیش آئے تو کسی مسلمان بزرگ متبع شریعت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جیسے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی۔ فقط

کتبہ: (مولانا) مسعود احمد (۱)

(۱) یہ حضرت مولانا قاضی مسعود احمد صاحب ہیں، جو ۱۳۳۳ھ سے ۱۳۸۴ھ تک دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں نائب مفتی رہے ہیں۔ ۱۲

## ہندو مسلمانوں کے ساتھ جیسا برتاؤ

### کریں ویسا ہی برتاؤ ان کے ساتھ کرنا

سوال: (۸۰۰) لاہور میں ہندو نے مسلمانوں سے پورا انقطاع کر لیا ہے، نہ وہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں نہ ان سے اجرت پر کام لیتے ہیں، بلکہ پہلے اجرت پر کام کرنے والوں کو بھی انہوں نے اپنے کارخانوں سے نکال دیا ہے، ایسی حالت میں مسلمانوں کو ان سے تجارتی تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۲۹۸۳)

الجواب: جس جگہ ہندو مسلمانوں سے اس قسم کا انقطاع کریں، وہاں مسلمانوں کو بھی ان سے معاملات کا منقطع کر دینا مناسب ہے۔ ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ (سورہ یونس، آیت: ۲۷) اور ان کے کھانے وغیرہ سے بھی احتراز کرنا مناسب ہے، احادیث میں یہاں تک وارد ہے: لا ترایا ناراهما (۱) جس کا حاصل یہ ہے کہ کفار سے نہایت دوری اور پورا بعد اختیار کرو، بہر حال مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور تعلقات و معاملات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو قوت دینی چاہیے اور کفار متعصبین سے اجتناب و احتراز رکھنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۸۰۱) ہندو جو برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کا چھو نہیں کھاتے، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک چار پائی پر نہیں کھاتے، آیا مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے یا نہ؟ اور اس بارے میں نصاریٰ کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱ھ/۱۱۹۱)

الجواب: مسلمانوں کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندو کے ہاتھ کا کھانا مسلمانوں کو مذہب کی رو سے درست ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، لہذا اس قسم کے احتراز اور پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو ہندو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ چھوت کا قصہ نہ رہے

(۱) عن جریر بن عبد اللہ قال: بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرية إلى خثعم..... وقال: أنا بریء من کل مسلم یقیم بین أظهر المشرکین، قالوا: یا رسول اللہ! لِمَ؟ قال: لا ترایا ناراهما (سنن أبي داود، ص: ۳۵۵، کتاب الجہاد، باب النهی عن قتل من اعتصم بالسجود)

## بھنگی، چمار کے یہاں کا کھانا کیسا ہے؟

سوال: (۸۰۲)..... (الف) ایک شخص اسلام لایا اس کے ساتھ خور و نوش میں پرہیز نہ کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟

(ب): ایک شخص بہت زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھنگی، چمار کے یہاں کا کھانا درست ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۶۳ھ)

الجواب: (الف - ب) یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص مسلمان ہو گیا اس کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز نہ کرنا چاہیے، اور ہندو اگرچہ سب برابر ہیں، لیکن بھنگی چماروں کے برتن وغیرہ چوں کہ غالباً پلید ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز حرام سے احتراز نہیں ہے، اس لیے ان سے علیحدہ رہنا چاہیے اور ان کے گھر کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ فقط

## چمار نے حقہ اٹھایا تو وہ قابل استعمال رہا یا نہیں؟

سوال: (۸۰۳) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اندریں مسئلہ کہ ایک حقہ چمار نے مسلمان کا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا، کیا اب وہ قابل استعمال رہا یا نہیں؟ (۱۳۲۷-۴۶/۳۲۵۹ھ)

الجواب: جب کہ اس چمار کے ہاتھ پر کچھ نجاست ظاہر میں نہیں تھی تو وہ حقہ پاک ہے اور قابل استعمال ہے، استعمال کرنا اس کا جائز ہے۔

جو شخص ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و عائشہؓ کو کافر، منافق اور غاصب قرار دے اور

اس کو کارِ ثواب سمجھے اس سے دینی و دنیاوی برتاؤ کس حد تک جائز ہے؟

سوال: (۸۰۴)..... (الف) اگر کوئی شخص حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کافر، منافق، غاصب قرار دے اور اس کو کارِ ثواب سمجھے، تو کیا وہ شخص کافر



ہو جاتا ہے؟ اگر کافر ہو جاتا ہے تو کن دلائل سے؟ بعض کتب میں جوابل قبلہ کو کافر کہنے سے روکا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

(ب) اگر ایسے عقیدے والا شخص کافر نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں، اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو مندرجہ ذیل امور دریافت طلب ہیں:

- (۱): اگر قائل ان الفاظ کا قوم سادات سے ہو تو کیا وہ اس کفر کے حکم سے مستثنیٰ ہے یا نہیں؟
- (۲): ایسے شخص سے دینی برتاؤ کس حد تک جائز ہے؟ اگر یہ شخص نماز میں سنی امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھے تو کیا سنیوں کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر خلل واقع ہوتا ہے تو کیوں؟ غنیۃ الطالبین مصنفہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ: ۱۹۴ پر یہ حدیث درج ہے: فی روایۃ أنس: إن اللہ عز وجل اختارني واختار لي أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وأنه سيجي في آخر الزمان قوم ينقصونهم، ألا فلا تأكلوهم، ألا فلا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة (۱) اس حدیث کی بابت پورے طور پر تشفی فرمائی جائے کہ آیا یہ حدیث درست اور واجب العمل ہے یا نہیں؟ اور یہ حدیث کم و بیش الفاظ سے مظاہر حق میں بھی موجود ہے اور غنیۃ الطالبین واقعی شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی تصنیف ہے یا کسی اور شخص کی؟
- (۳): ایسے عقیدہ والے شخص سے دنیاوی برتاؤ کس حد تک جائز ہے اور کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ خور و نوش جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۵۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف - ب) بعض فقہاء نے سب شیخین رضی اللہ عنہما کو کفر و ارتداد کہا ہے۔ کما فی الدر المختار: فی البحر عن الجوہرۃ معزیاً للشہید: من سب شیخین أو طعن فیہما کفر، ولا تقبل توبتہ، وبہ أخذ الدبوسی وأبو اللیث وهو المختار للفتویٰ إلخ (۲) ترجمہ: جس نے گالی دی شیخین کو یا ان پر طعن کیا وہ کافر ہوا اور اس کی توبہ مقبول نہ ہوگی اور اسی کو لیا دہلوی اور

(۱) غنیۃ الطالبین للشیخ السید محی الدین عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ، ص: ۱۹۴-۱۹۵، کتاب الآداب، فصل فی العقائد، مطبوعہ: مکتبہ محمدی لاہور۔

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۲/۲۸۶، کتاب الجہاد، باب المرتد - مطلب مهم فی حکم سب الشیخین۔

ابواللیثؒ نے اور وہی اختیار کیا گیا ہے فتویٰ کے لیے و فی رد المحتار: أقول: نعم نقل فی البزازیة عن الخلاصة أن الرافضی إذا كان یسبّ الشیخین ویلعنهما فهو کافر، وإن كان یفضل علیاً علیهما فهو مبتدع الخ (۱) ترجمہ: میں کہتا ہوں: ہاں، نقل کیا بزازیہ میں خلاصہ سے کہ رافضی جب کہ شیخین کو گالی دے اور ان پر لعنت کرے وہ کافر ہے اور اگر صرف حضرت علیؑ کو فضیلت دیتا ہے شیخین پر تو وہ بدعتی ہے الخ۔

پھر یہ تحقیق کی ہے کہ رافضیوں میں جو غالی ہیں اور نصوص قطعیہ کے منکر ہیں وہ بہ اتفاق کافر ہیں اور باقی فاسق و مبتدع ہیں مثل انکار صحبت حضرت صدیقؑ و قول اقل حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا، و قول الوہبیت حضرت علیؑ کہ یہ امور بہ اتفاق اہل سنت کفر ہیں (۲) اور جس رافضی پر بوجہ انکار نصوص قطعیہ کفر کا حکم کیا گیا ہے اس میں سادات اور غیر سادات برابر ہیں، اسی طرح جو رفض فسق و بدعت ہے اس میں بھی سب برابر ہیں۔ الغرض سید ہونا فسق و بدعت و کفر و ارتداد کو مباح نہیں کرتا اور وعید و عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتا ایسے لوگوں سے متارکت کلیہ لازم ہے، یعنی مواصلت و مشاربت و مناکحت ان کے ساتھ حلال نہیں ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (سورہ ہود: آیت: ۱۱۳) اور غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی تصنیف ہے اور یہ حدیث جو اس میں مذکور ہے مضامین اس کے دیگر احادیث میں بہ الفاظ مختلف وارد ہیں، مظاہر حق میں طبرانی و حاکم وغیرہ سے بایں الفاظ مروی ہے: عن عویمر بن ساعدة أنه صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن اللہ اختارنی واختار لی أصحاباً، فجعل لی منهم وزراء و أنصاراً و أصحاباً فمن سبهم فعليه لعنة اللہ والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل اللہ منه صرفاً ولا عدلاً (۳) اور یہ حدیث مظاہر حق میں موجود ہے اور روانض کے بارے میں صاحب

(۱) رد المحتار: ۶/۲۸۷، کتاب الجہاد باب المرتد، مطلب مهم فی حکم سب الشیخین.

(۲) نعم لاشک فی تکفیر من قذف السیدة عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، أو أنکر صحبة الصدیق، أو اعتقد الألوهية فی علي أو أن جبریل غلط فی الوحي أو نحو ذلك من الکفر الصریح المخالف للقرآن (الشامی: ۶/۲۸۸، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب مهم فی حکم سب الشیخین)

(۳) مظاہر حق جدید: ۷/۲۵۸، کتاب الفتن، باب مناقب الصحابة رضی اللہ عنہم أجمعین، الفصل الأول. صحابہ کرام کے مناقب کا بیان، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، دیوبند۔

مظاہر حق نے بہت سی آیات و احادیث نقل فرمائی ہیں، جن سے ان کے مذہب کا بطلان معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے اور شائع کیا جائے (۱) فقط

## شریعت، حدیث اور رسول خدا کی شان میں گالیاں بکنے

والا مرتد ہے، اس کے ساتھ مرتد جیسا معاملہ کرنا چاہیے

سوال: (۸۰۵) زید کی لڑکی بیوہ ہو گئی اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، بکرنے اور چند مردمان نے واسطے نکاح ثانی کے کہا کہ جس جگہ تمہاری مرضی ہو بہ موجب حکم شرع شریف اور موافق حدیث کے کر دینا چاہیے، تو زید نے یہ بات سن کر شرع شریف اور حدیث مذکور اور رسول خدا کی شان میں گالیاں دے کر یہ کہا کہ ہمارے خاندان میں عقد ثانی نہ ہوا اور نہ ہوگا، تو اب زید مذکور سے ریل میل: کھانے پینے و سلام علیک وغیرہ کے درست ہے یا نہیں؟ (۱۵۸۸/۱۳۳۷ھ)

الجواب: زید اس حالت میں مرتد و کافر ہو گیا (۲) اور اس کے تمام اعمال حبط (رایگاں) اور باطل ہو گئے، اس کو لازم ہے کہ اسلام از سر نو قبول کرے اور کلمہ شہادت پڑھے اور گزشتہ سے توبہ کرے، اور تا وقتیکہ وہ توبہ نہ کرے اس سے ملنا جلنا اور سلام و مصافحہ کرنا اور ساتھ کھانا پینا ترک

(۱) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي من بعدي قوم يقال لهم الرّفضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال: قلت: يا رسول الله! ما العلامة فيهم؟ قال: يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف، رواه الدارقطني.

اور دارقطني کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں:

وذلك يسبون أبا بكر وعمر ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس. اسی طرح کی روایت حضرت انس، حضرت عیاض انصاری، حضرت جابر، حضرت حسن بن علی، حضرت ابن عباس، حضرت فاطمہ زہراء اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: من أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.

(۲) من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد (الدر المختار مع الشامی: ۲۸۴/۶، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء)

کر دیا جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### ہندو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا

سوال: (۸۰۶)..... (الف) ایک سڑک کے کنارہ پر مسلمان اور ہندو دونوں کے مکانات واقع ہیں، اور فی الحال اس سڑک سے صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے، دو گاڑیاں بیک وقت اس سے نہیں گزر سکتیں، اگر ایک گاڑی بھری ہوئی کھڑی ہو تو دوسری گاڑی کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان ضرورتوں کو محسوس کر کے ایک ہندو یہ چاہتا ہے کہ یہ سڑک کشادہ کر دی جائے، اور چھ سات ہزار روپیہ اپنی ذات سے دینا چاہتا ہے۔ چونکہ سڑک کشادہ ہونے سے تکلیف عامہ بھی رفع ہوتی ہے، اور مکان کی مالیت بھی بڑھتی ہے، اس لیے اس سڑک پر رہنے والے غریب مسلمان اور ہندو اپنی زمین قیمتہ اس رفاه عام کے کام میں دینے پر آمادہ ہیں، لیکن زید اس میں حارج ہے شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟

(ب) زید نے اپنی زمین میں پاخانہ بھی بنوایا ہے جس سے ہندو پڑوسی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس میں کیا حکم ہے؟ (۲۶/۲۴۰-۱۳۳۷ھ)


الجواب: (الف) پڑوسیوں کی تکلیف رفع کرنا جس میں خود اپنی بھی تکلیف رفع ہوتی ہے شرعاً محمود اور پسندیدہ ہے، اور إماطة الاذى عن الطريق میں داخل ہے جو کہ موجب اجر و ثواب و علامت ایمان ہے (۱) پڑوسی ہندو ہوں یا مسلمان اس بارے میں برابر ہیں، جار (پڑوسی) اگر چہ کافر ہو اس کے ساتھ بھی ملاطفت اور حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اور جار کا حق ہے (۲) لہذا مسلمانوں

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (الصحيح لمسلم: ۱/ ۴۷، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها الخ)

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. ==

کو اس امر میں کوشش کرنی چاہیے جو کہ پڑوسیوں کے لیے موجب راحت ہے۔

(ب) زید کو اپنی زمین میں اس قسم کے تصرفات کا اختیار ہے، لیکن بہ حکم لا ضرر ولا ضرار (۱) جس فعل سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو اس کا رفع کرنا اور زائل کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم



== وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل

الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۲، كتاب الآداب، باب

الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الأول)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر

ولا ضرار (ابن ماجه: ۱۶۹، أبواب الأحكام، باب من بنى في حق ما يضر بجاره)

## فاسق و گمراہ لوگوں سے میل جول رکھنے کا بیان

ایک صدی پہلے برادریوں کی پچائیتیں ہوتی تھیں، اور ان کی قوم پر بہت مضبوط گرفت ہوتی تھی، اب وہ بات باقی نہیں رہی، جب پچائیتیں تھیں تو فواحش کی روک تھام کے لیے مختلف تدبیریں کرتی تھیں، برادری سے اخراج کی سزا دیتی تھیں، کبھی مالی جرمانہ کرتی تھیں، اور کبھی برادری کے بڑے کسی سے ذاتی پر خاش کی وجہ سے طاقت کے زعم پر نامناسب فیصلے بھی کرتے تھے، آگے درج ہونے والے فتاویٰ اسی ماحول کے اعتبار سے ہیں۔ (مرتب)

### شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مالی جرمانہ مقرر کرنا

سوال: (۸۰۷) خلاصہ سوال یہ ہے کہ پچائیت نے اس امر کا انتظام کیا ہے کہ جو لوگ امور غیر مشروعہ محرّمہ مثل شراب خواری، جوا، تاش، ڈاڑھی منڈانے کے مرتکب ہیں جب تک وہ ان محرمات کو ترک کر کے صوم و صلاۃ کے پابند نہ ہوں ان کو برادری سے خارج رکھا جاوے اور کسی قسم کا میل جول ان سے نہ رکھا جاوے، تاوقتیکہ وہ تاوان مالی مقرر شدہ ادا کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، اس کو شامل برادری نہ کیا جاوے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹ھ/۸۰)

الجواب: اگر امور دینیہ میں اس قسم کی تنبیہات اور انتظامات کیے جائیں اور لوگوں کو مجبور کیا جائے اور ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ محرمات شرعیہ کو ترک کریں اور ادا امر شرع مثل صوم و صلاۃ کے پابند ہوں تو درحقیقت یہ بہت بڑی خدمت دین کی ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور ایسے لوگوں سے جو خلاف شریعت امور کے مرتکب ہوں متارکت و عدم مجالست و مواصلت و مشارکت وغیرہ

منصوص ہے (۱) البتہ جرمانہ مالی شریعت میں نہیں ہے، اور جس امام نے اس کی اجازت دی ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر تنبیہا اس سے کچھ لے لیا جائے تو دوسرے موقع پر اسی کو واپس دیا جاوے یا اس کی اجازت و خوشی سے اس کی طرف سے کسی کار خیر میں لگایا جاوے (۲) اور بے نمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنا یہ ایک حکم شرعی ہے اس کو ترک نہ کیا جاوے، مگر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر بعض ادا کر لیں تو باقیوں سے ساقط ہے، الغرض انتظام مذکور بہ پابندی حکم شریعت کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی ہدایت کے خیال میں خود مبتلائے معصیت ہوں۔ فقط

### ایک میراثی کے قصور کی وجہ سے سب میراثیوں کا حقہ پانی بند کرنا

سوال: (۸۰۸) میراثیوں (۳) کا حقہ پانی بند کر دینا بہ وجہ اس قصہ کے کہ ایک میراثی نے ایک مولوی صاحب کو سور کا گوشت کھلا دیا تھا درست ہے یا نہیں؟ (۲۹/۴۰۷-۱۳۳۰ھ)

الجواب: میراثی کا قصہ جو مشہور ہے اگر وہ صحیح ہے تو قصور صرف اسی میراثی کا ہے جس نے ایسا فعل کیا، سب میراثیوں کا حقہ پانی بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

### ایک شخص کے قصور کی وجہ سے سارے خاندان سے متارکت کرنا

سوال: (۸۰۹) عبدالستار، عبدالحق کی بی بی کو بھگالے گیا، تو برادری کو عبدالستار کے خاندان

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل

القدر ولا تفاتحوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

(۲) قوله: (وفيه الخ) أي في البحر حيث قال: وأفاد في البرازية: أن معنى التعزير بأخذ المال

على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه

الحاكم لنفسه أو لبيت المال، كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال

أحد بغير سبب شرعي (رد المحتار: ۶/۷۷، كتاب الحدود - باب التعزير - مطلب في التعزير

بأخذ المال)

(۳) میراثی: گانے بجانے والی ایک قوم، مغنی۔ (فیروز اللغات)

کو علیحدہ کر دینا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۸۵/۱۳۴۰ھ)

الجواب: اس صورت میں جو کچھ قصور اور گناہ ہے عبد الستار پر ہے، اس کے خاندان کا کچھ قصور نہیں ہے، اور اگر متارکت کی جاوے تو عبد الستار سے کی جاوے، یعنی جب کہ وہ توبہ نہ کرے تو اس سے قطع تعلق کر دیا جاوے۔ فقط

### سود خور سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۱۰) زید سود خوار ہے، بہت دفعہ برادری نے تنبیہ کی مگر باز نہیں آتا، زید سے تعلق رکھنا اور اپنے ساتھ کھانا کھلانا درست ہے یا نہیں؟ برادری زید کو اپنے ساتھ کھلاتی ہے، ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ (۱۵۶۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: زید جب تک توبہ نہ کرے اس سے میل جول قطع کر دینا چاہیے، جو لوگ زید کے شریک حال ہیں وہ گنہگار ہیں۔ فقط

### بٹی کو سود خوار باپ کے پاس آنے جانے سے روکنا

سوال: (۸۱۱) زید نہیں چاہتا ہے کہ بکر جو زید کا فرزند ہے وہ اور اس کی زوجہ خالد سے جو سود خوار اور بکر کی زوجہ کا پدر ہے خور و نوش اور آمد و رفت رکھے یا خالد زید کے مکان پر آوے، زید کو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۵۶۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: زید کو جائز نہیں ہے کہ زوجہ بکر کا تعلق اس کے باپ خالد سے قطع کر اڑے اور آمد و رفت باہمی دختر و پدر یا داماد و خسر کے بند کر اڑے کہ یہ قطع رحم ہے اور قطع رحم کرنا یا کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے جس پر وعید شدید وارد ہے (۱) پس زید کو لازم ہے کہ خالد کو اس کی دختر کے پاس آنے سے نہ روکے

(۱) عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (صحيح البخاري: ۸۸۵/۲، كتاب الأدب، باب إثم القاطع)

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ (صحيح البخاري: ۸۸۶/۲، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله)



اور نہ دختر کو یعنی زوجہ بکر کو پدر یعنی خالد کے گھر جانے سے منع کرے، خالد اگر سود خوار ہے تو اس کو نصیحت کرے، وہ نہ مانے تو مواخذہ اس پر ہے، زید قطع رحم کی معصیت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔ فقط

### بے نمازیوں کا حقہ پانی بند کرنا اور ان کے جنازہ میں شریک نہ ہونا

سوال: (۸۱۲) ایک موضع میں تین سو چار سو گھر مسلمانوں کے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتے اسی وجہ سے ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھنا اور حقہ پانی بند کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

(۱۷۹۰/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا حقہ پانی بند کر دیا جاوے تاکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس دھمکی سے نماز پڑھنے لگیں، مگر جنازہ کی نماز بے نمازیوں کی چھوڑنا نہ چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے: صلّوا علی کلّ برّ و فاجر الحدیث (۱) یعنی ہر ایک نیک و بد کی نماز جنازہ پڑھو۔

### بے نمازی کی شادی غمی میں بہ غرض تنبیہ شریک نہ ہونا

سوال: (۸۱۳) تارک نماز کی غمی و خوشی میں بہ غرض تنبیہ شرکت نہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

(۱۲۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: تارک نماز کو اس قسم کی تنبیہ کرنی جائز ہے کہ اس کی غمی و شادی میں شرکت نہ کی جاوے، اور ملنا رلنا چھوڑ دیا جاوے، لیکن نماز جنازہ اس کی بالکل چھوڑنی نہ چاہیے۔ لقولہ علیہ الصّلاة والسلام: صلّوا علی کلّ برّ و فاجر (۱) یعنی ہر ایک نیک و بد فاسق و فاجر کے جنازہ کی نماز پڑھو، پس تنبیہ کے لیے ایسا کیا جاوے کہ دو چار عام آدمیوں سے اس کے جنازہ کی نماز پڑھوادی جاوے اور جو خاص لوگ ہیں جن کا اثر ہے وہ شریک نماز نہ ہوں۔ فقط

(۱) عن مکحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلّوا خلف کلّ برّ و فاجر و صلّوا علی کلّ برّ و فاجر و جاهدوا مع کلّ برّ و فاجر (سنن الدار قطنی: ۱/۱۸۵، کتاب الصّلاة، باب صفة من تجوز الصّلاة معه والصّلاة علیہ، المطبوعة: المطبع الأنصاري الواقع في الدّھلي) و (سنن أبي داود، ص: ۳۴۳/۱، کتاب الجہاد، باب في الغزومع أئمة الجور)

## چماری وغیرہ کو بیوی بنا کر گھر میں رکھنے

والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۱۴) اگر کوئی شخص بغیر مسلمان کیے بھگن اور چماری کو گھر میں بیوی بنا کر رکھے اس کی کیا سزا ہے؟ شامل برادری کیا جاوے یا نہیں؟ (۳۲/۲۲۶۳-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: وہ فاسق ہے، برادری سے علیحدہ کر دیا جاوے۔ فقط

## بے نکاحی عورت رکھنے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۱۵)..... (الف) ایک شخص ایک عورت کو بغیر نکاح کیے ہوئے گاؤں سے لایا اور دونوں ایک مکان میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ عورت کو حمل بھی رہ گیا اور بچہ ہوا، نہ اس نے اس عورت سے اب تک نکاح کیا اور نہ برادری کے لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں، اور نہ اس سے علیحدگی کرتے ہیں، اس صورت میں عورت اور مرد اور برادری کی نسبت کیا حکم ہے؟

(ب) ایک شخص کی تین عورتیں ہیں ایک منکوحہ اور دو بغیر نکاح کے ہیں، ایسے شخص کا کھانا کھانا اور اس سے ملنا رلنا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۳۶/۱۳۳۵ھ)

الجواب: (الف) ظاہر ہے کہ عورت و مرد فاسق مرتکب کبیرہ کے ہیں، ان کے ساتھ ترک مجالست و مواصلت و مشاربت لازم ہے، اور برادری کے لوگ جو ان سے ملنا اور کھانا پینا ترک نہیں کرتے اور ان کو تنبیہ نہیں کرتے وہ بھی گنہگار ہیں۔

(ب) ایسے فاسق کے گھر کا کھانا جس کے گھر میں دو عورتیں بلا نکاح کی ہیں کھانا درست نہیں ہے، اس کے ملنے رلنے سے احتراز کرنا چاہیے اور اس کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم

سوال: (۸۱۶) کیا جس شخص کے گھر عورت بلا نکاح کے آباد ہے، اور عورت کا خاوند حیات ہو، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو ملنا، یا دوستی رکھنا، یا برتاؤ کرنا، ان کے گھر کا کھانا بہ ذریعہ اسلام جائز ہے یا نہیں؟ مطابق آیت و حدیث مطلع فرمائیں۔ (۳/۳۶۷-۲۹/۱۳۳۰ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ أنعام، آیت: ۶۸) اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے، پس ایسے شخص سے ملنا اور اس کی دعوت کھانا ترک کر دینا چاہیے اور اس کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اس فعل سے باز آوے اور توبہ کرے، اگر نہ مانے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۸۱۷) جس شخص کے گھر میں عورت بے نکاحی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۹ھ/۱۲۸۰)

الجواب: وہ شخص فاسق ہے، اس سے توبہ کرائی جائے اور بے نکاحی عورت کو اس سے علیحدہ کرائی جائے، اگر وہ علیحدہ نہ کرے اور نکاح بھی نہ کرے تو اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔

سوال: (۸۱۸) ایک شخص کے گھر میں ایک عورت فاحشہ عرصہ سے رہتی ہے، اور شخص مذکور اس سے زنا کرتا ہے، مسلمانوں نے اس کو ہر چند سمجھایا مگر وہ بہ دستور علانیہ طور سے اس فعل کا مرتکب ہے، اور عورت کو حمل حرام بھی ہو گیا ہے، اگر وہ شخص اس فعل سے توبہ نہ کرے تو مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۴۰ھ/۱۳۷۴)

الجواب: بے شک ایسے شخص فاسق معلن سے مسلمانوں کو قطع تعلق کرنا اور اس کو تنبیہ کرنا جس سے وہ اس فعل کو چھوڑ دے ضروری ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ أنعام، آیت: ۶۸) فقط

سوال: (۸۱۹) امام الدین قصاب نے عرصہ سے ایک عورت منکوحہ غیر کو جس کا سابق خاوند موجود ہے، علانیہ طور پر اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے، اس سے زنا کرتا ہے، ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی ہے، علماء کے فتویٰ کو نہیں مانتا، اور اس کو علیحدہ نہیں کرتا، مسلمانوں کو اس کی دکان سے گوشت خریدنا اور کسی قسم کا تعلق رکھنا کیسا ہے؟ اور مسلمان اس کو اپنے جنازوں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟

(۱۳۴۳ھ/۲۱۲۳)

الجواب: ایسا شخص فاسق و عاصی ہے، اگر وہ اس عورت کو علیحدہ نہ کرے اور توبہ نہ کرے اور گناہ پر اصرار کرے تو اس سے مسلمانوں کو قطع تعلق کر دینا چاہیے، اور مناسب ہے کہ تنبیہ کے لیے

اس کی دکان سے گوشت نہ خریدیں، اور اس سے میل جول نہ رکھیں (۱) لیکن اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ فاسق و فاجر کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے (۲) اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۸۲۰) ایک شخص نے بلا نکاح کے عورت رکھ لی ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ وہ باز نہیں آتا۔ (۱۳۳۹/۱۸۸۸ھ)

الجواب: ایسے شخص سے جب کہ وہ توبہ نہ کرے اور اس غیر منکوحہ عورت کو علیحدہ نہ کرے یا اس سے نکاح نہ کرے ترک تعلق کر دینا چاہیے، اور اس کی شادی وغی میں شرکت نہ کرنی چاہیے، البتہ جماعت سے روکنا نہ چاہیے۔ فقط

سوال: (۸۲۱) فتوہ نظام الدین دو چچیرے بھائی ہیں؛ فتوہ کے لڑکے علی بخش نے نظام الدین کی عورت کو اپنے گھر میں آباد کر لیا، نظام الدین زندہ ہے، شرعاً علی بخش کے ساتھ میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لوگ میل رکھیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۵۸۵ھ)

الجواب: علی بخش فاسق ہے اس سے میل جول رکھنا درست نہیں ہے، اور علی بخش مذکور کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو بھی تنبیہ کی جاوے تو اچھا ہے کہ ان سے قطع تعلق کر دیا جاوے۔ فقط

سوال: (۸۲۲) ایک شخص عورت بدون نکاح کے گھر میں رکھتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اور نکاح نہیں کرتا، اس کے ساتھ اور جو لوگ اس سے میل جول رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ (۱۳۳۳/۲۱۱۸ھ)

الجواب: ایسے شخص سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، اور جو لوگ اس کے فعل سے راضی ہوں اور اس سے قطع تعلق نہ کریں وہ گنہگار ہیں۔ فقط

جس شخص نے غیر کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۲۳) ایک شخص نے غیر کی منکوحہ غیر مطلقہ کو رکھ لیا ہے، اور دو بچے بھی پیدا ہو گئے،

(۱) مگر اس کو جنازوں سے روکنا درست نہیں، کیونکہ مسلمان کے جنازہ میں شرکت کرنا کارِ خیر ہے اور کارِ خیر سے روکنا مناسب نہیں۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری۔

(۲) اس حدیث کی تخریج سوال (۸۱۲) کے جواب کے حاشیہ میں ہو چکی۔

اس کے لیے کیا حکم اور کیا فتویٰ ہے؟ (۱۳۳۵/۶۹۲ھ)

الجواب: وہ شخص جس نے دوسرے کی زوجہ کو رکھ لیا ہے ظالم و فاسق و بدکار ہے، اس سے توبہ کرائی جاوے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس عورت کو علیحدہ نہ کرے تو اس کو برادری سے خارج کر دیا جاوے۔ فقط

### بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے والے سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۲۴) زید نے اپنے صلیبی لڑکے کی زوجہ سے نکاح کر لیا، یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اہل اسلام نے زید سے کہا کہ یہ تیرے واسطے حرام ہے، اس کو چھوڑ دے اور توبہ کر، زید نہ اس عورت کو چھوڑتا ہے نہ توبہ کرتا ہے، ایسے شخص سے میل جول رکھنا اور اپنے گورستان میں دفن کرنا اور میت کو غسل دلانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۱۴۳ھ)

الجواب: اپنے صلیبی پر کی زوجہ سے نکاح قطعاً حرام ہے اور وہ محرمات ابدیہ سے ہے، کبھی بھی نکاح اس سے جائز نہیں ہو سکتا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (سورہ نساء، آیت: ۲۳) اور حرام کی گئی تم پر تمہارے بیٹوں صلیبی کی زوجات۔ پس نکاح مذکور باطل ہوا اور شخص مذکور لائق تعزیر اور تنبیہ کے ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس عورت کو علیحدہ نہ کرے تو اس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، اور کسی قسم کا میل اس سے نہ رکھنا چاہیے۔

### خالہ سے بدکاری کرنے والے کو برادری سے خارج کرنا

سوال: (۸۲۵) ایک شخص نے اپنی خالہ سے برا فعل کیا، مسلمانوں نے اس کو برادری سے خارج کر دیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۲۱۲۲ھ)

الجواب: ایسا شخص جب تک توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس کو برادری میں شامل نہ کیا جائے، اور اس کو تنبیہ کی جائے کہ فعل حرام سے باز رہے اور توبہ کرے۔ فقط

### بہتہنجی سے زنا کرنے والے سے متارکت کرنا

سوال: (۸۲۶)..... (الف) ایک شخص نے اپنی بہتہنجی سے زنا کیا، اس کا کیا حکم ہے؟

(ب) اس شخص کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۴۲-۱۳۳۵ھ)

الجواب: (الف-ب) زانی اگر توبہ نہ کرے تو اس سے متارکت کر دینی چاہیے، اور تعلقات قطع کر دیئے جائیں۔ (یعنی سلام کلام ترک کر دیں)

بہو سے حرام کاری کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۲۷) زید اپنے بیٹے متوفی کی عورت ہندہ بیوہ کو اپنے صرف میں لایا، اور حالات سننے و قرائن سے ابھی تک اس کا توبہ کرنا معلوم نہیں ہوتا، تو زید سے نفرت اور علیحدگی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۳۳۲ھ)

الجواب: اگر زید کا رویہ قرائن سے ایسا ہی معلوم ہو جیسا کہ سوال میں درج ہے تو بے شک زید قابل نفرت ہے یا اس سے توبہ کرائی جائے، یا اس سے علیحدگی کی جاوے، لیکن اگر زید اس فعل سے انکار کرے اور کوئی ثبوت اس کے خلاف نہ ہو، تو پھر مسلمان کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور بدظنی نہ کرنی چاہیے۔ فقط

سوال: (۸۲۸) زید نے اپنے صلیبی بیٹے کی بیوی سے نکاح پڑھا لیا اور وہ فوت بھی ہو گئی، دو لڑکے موجود ہیں، برادری نے اس سے تعلق قطع کر دیا، اب زید چاہتا ہے کہ میں شامل برادری ہو جاؤں، اس کی نسبت شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۵۲۸ھ)

الجواب: اگر زید اس گناہ سے جو اس سے سرزد ہوا توبہ کرتا ہے اور نادم ہوتا ہے تو اس کو داخل برادری کر لیا جاوے۔ فقط

سوال: (۸۲۹) جو شخص اپنی بہو سے جماع حرام کرے اس سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟

(۱۳۳۷-۳۶/۱۸۴۰ھ)

الجواب: ایسا شخص فاسق اور بدکار اور زانی ہے، ایسے شخص سے کسی قسم کا تعلق و ارتباط رکھنا روا نہیں ہے، بلکہ اس کو برادری سے خارج کر دیا جائے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَوَكَّلُوا عَلَى الدِّينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ الْآيَةُ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳) اور احادیث میں اہل کبار کے ساتھ تعلق

وارتباط و اختلاط سے ممانعت وارد ہوئی ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## برائے زنا کاری اپنی لڑکی کو ہندو کے گھر آباد کرنے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۰) عمر نے اپنی لڑکی کو برائے زنا کاری ایک ہندو کے گھر آباد کر دی ہے اور خود عمر بھی ان کے ہمراہ رہتا ہے اور کھانا پیتا ہے، دیگر مسلمانان عمر کو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا؟ عمر جواب دیتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تم دفن مت کرنا، ہندو جلا دیں گے، ایسے شخص سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ (۱۵۳۹/۱۳۳۸ھ)

الجواب: ایسا شخص فاسق اور بے حیا ہے اور دیوث ہے، اس سے خلط ملط رکھنا درست نہیں ہے، اور میل جول رکھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آیات اور احادیث میں بہ کثرت یہ مضمون وارد ہے (۲) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْكُفَرِیِّ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ﴾ (سورۃ أنعام، آیت: ۶۸) وَقَالَ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآیَةِ﴾ (سورۃ مجادلہ، آیت: ۲۲)

## دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۱) ایک شخص کا ناجائز تعلق اپنی سالی سے ہے، گویا دو حقیقی بہنیں اس نے اپنے نکاح میں کر رکھی ہیں، اس شخص سے میل ملاپ رکھنا کیسا ہے؟ (۲۰۴۵/۱۳۳۹ھ)

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

الجواب: دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے (۱) اور بلا نکاح کے زوجہ کی بہن سے زنا کرنے کی حرمت میں کیا شبہ ہے؟! پس ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے اور سالی کو علیحدہ نہ کرے تو اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے۔ فقط

### جن لوگوں نے زنا کاری اور نا چنے گانے کو

#### پیشہ بنا رکھا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۲) جنہوں نے زنا کاری اور نا چنے گانا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، بلکہ پیشہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس فعل شنیع پر اصرار کیے بیٹھے ہیں اور اسی پر عمر گذرتی ہے اور اسی زنا کی آمدنی پر ان کا کھانا پینا، پہننا اور تمام امور اتے ہوتے ہیں، اہل اسلام کو ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور ان کے ساتھ میل جول بات چیت کرنا اور ان کے وہاں سے کچھ کھانا پینا یا نقدی لینا یا ان کی خیرات، صدقات سے کچھ حاصل کرنا یا ان کا کوئی کام کر کے اس کی اجرت لینا، یا ان کا جنازہ پڑھنا، یا شریک جنازہ ہونا، یا ان کو غسل دینا، یا ان کے ہاتھ کوئی چیز اسی آمدنی کے عوض فروخت کرنا یا ان سے خریدنا وغیرہ وغیرہ شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ (۵۸۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس پیشہ کے شنیع اور حرام ہونے اور طریق اسلام کے خلاف ہونے میں کوئی شبہ اور تردد نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حرام قطعی پر اصرار کرنے سے خوف کفر ہے، اور حلال جاننا حرام قطعی کو بالیقین کفر و ارتداد ہے، بہر حال فساق و فجار ہونے میں اس فرقہ کے کچھ تردد اور شبہ نہیں ہے، آیات و احادیث میں ایسے لوگوں کی مجالست و موانست سے منع فرمایا گیا ہے (۲) پس جملہ معاملات

(۱) ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ..... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (سورہ نساء: آیت: ۲۳)

(۲) ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْكُفَرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ أنعام، آیت: ۶۸)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تدعوا دعوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتاحوهم (مشكاة المصابيح، ص: ۲۲، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)



مذکورہ میں اہل اسلام کو ان سے علیحدگی اور متارکت و منافرت لازم ہے اور نصیحت کرنا ان کو ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اس فعل شنیع سے باز آویں اور اس پیشہ کو چھوڑیں۔

لیکن بعد مرنے کے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں غسل و کفن کریں اور نماز جنازہ ان کی پڑھیں کہ یہ حق ہر ایک مسلمان کا ہے اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہو دوسرے مسلمانوں پر، اور حدیث شریف میں ہے: صَلُّوا عَلٰی کُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ الْحَدِيثُ (۱) یہ جملہ حدیث کا ہے جس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے شرح منیہ میں اس حدیث کے متعلق یہ بحث کی ہے: رواه الدارقطني وأعله بأن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ومن دونه ثقات، وحاصله أنه مرسل وهو حجة عندنا وعند مالك وجمهور الفقهاء، فيكون حجةً عليه وقد روى بعدة طرق للدارقطني وأبي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقى إلى درجة الحسن عند المحققين انتهی (۲) اور شرح منیہ میں قاتل نفس خود بالحمد (یعنی خودکشی کرنے والے) پر نماز پڑھنے کی دلیل میں امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے یہ بیان کیا ہے: ولأنه مسلم عاص غير ساع في الأرض فساداً، فلا يقاس على البغاة وقطاع الطريق إلخ (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صَلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ وصلُّوا على كلِّ برٍّ وفاجرٍ (سنن الدارقطني: ۱/۱۸۵) كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، المطبوعة: المطبع الأنصاري الواقع في الدهلي (و) (سنن أبي داود: ۳۴۳/۱) كتاب الجهاد، باب في الغز ومع أئمة الجور (۲) غنية المستملي في شرح منية المصلي المعروف بالحلي الكبير، ص: ۴۴۲، فصل في الإمامة، المطبوعة: دار الكتاب ديوبند.

(۳) ولا يصلى على من قتل نفسه عمداً عند أبي يوسف رحمه الله واختاره على السفدي، لأنه باغ على نفسه وعندهما يُصَلَّى عليه واختاره شمس الأئمة الحلواني، لأن دمه هدر، فصار كالميت حتف أنفه ولأنه مسلم عاص إلخ (غنية المستملي في شرح منية المصلي المعروف بالحلي الكبير، ص: ۵۰۹، فصل في الجنائز وفيها أبحاث، الرابع في الصلاة عليه)

### بھانجی سے زنا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۳) ایک شخص نے اپنی ہمشیرہ کی لڑکی سے زنا کیا، اس کے ساتھ کھانا پینا برتاؤ جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اس کے ہمراہی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۱۲۵۶ھ)

الجواب: اس شخص سے توبہ کرائی جاوے اور تنبیہ کی جاوے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے علیحدگی کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کے معاون ہیں گنہگار ہیں۔

### زانی اور جو نیم ملا زنا کی ترغیب دیتا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۴) ایک عورت اپنے خاوند سے علیحدہ و آوارہ ہے، اور ایک شخص کے یہاں رہ کرنا جائز اولاد بدون نکاح کے جنی، برادری کو جب معلوم ہوا تو اس کو علیحدہ رہنے کی تاکید کر دی، اور مرد نے علیحدہ رہنے کا وعدہ کر لیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد عورت سے اسی زانی نے میل جول ناجائز کر لیا، اور پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی، جس کا باعث ایک نیم ملا ہے اور برادری کو بہکا کر اس سے ملنے کے لیے مجبور کرتا ہے اس صورت میں اس زانی اور نیم ملا کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹ھ/۱۲۰۶ھ)

الجواب: ایسے فاسق وزانی سے تاوقتیکہ وہ توبہ صادق نہ کرے اور فعل بد سے باز نہ آوے ملنا جلنا ترک کرنا چاہیے، اور اس نیم ملا کے ساتھ بھی جس نے ان میں ناجائز تعلق قائم کر لیا یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ فقط

### حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی

### کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۵) ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے زنا کیا یا اس طور کہ جب حوا پیدا ہوئی اور آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے کر آؤں اس وقت تک ہاتھ نہ

لگانا، پس حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی سے اجازت لینے گئے، بعد میں آدم نے زنا کیا، اسی وجہ سے ہم پر غسل واجب ہوا، یہ کہنا اس کا صحیح اور اس کا کچھ ثبوت ہے یا یہ بہتان ہے؟ اگر بہتان ہے تو ایسے شخص کے ایمان اور نکاح کا کیا حال ہے؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ اور بدون توبہ اس سے تعلق رکھا جاوے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۸۷۲)

الجواب: اس کی کچھ اصل نہیں ہے، یہ محض افتراء اور بہتان ہے اور اس میں اہانت اور استخفاف ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں اور یہ کفر ہے، پس قائل کو تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا چاہیے، بدون توبہ و تجدید ایمان کے اس کی امامت درست نہیں اور متارکت اس سے لازم ہے، سلام و کلام اس سے ترک کر دیا جاوے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، جیسا کہ شامی میں مکفرات میں استخفاف نبی کو بھی شمار کیا ہے: حیث قال: وقتل نبی والاستخفاف به إلخ. وفيه بعد أسطر: قلت: و يظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف إلخ (۱) فقط

### توبہ کے بعد قطع تعلق کرنا درست نہیں

سوال: (۸۳۶) زید کے والد کا جب کہ زید کی عمر ڈیڑھ سال کی تھی انتقال ہو گیا، اور جب زید کی عمر تقریباً آٹھ سال کی ہوئی تو والدہ زید نے زنا کرایا، جس کا ثبوت تولد ہونا لڑکی کا ہے، اس کے دو چار سال کے بعد والدہ زید نے اپنی رضا و رغبت سے عقد ثانی کر لیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تائب ہوئیں، ان وجوہ سے چند حضرات نے قطع تعلق کر دیا، اور زید سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی اگر ترک تعلق کرتے ہو تو ہم لوگوں سے ملنے کے قابل ہو اور مل سکتے ہو ورنہ ہم سے کوئی غرض نہیں، آیا والدہ زید کے جو حقوق زید یا دیگر اعضاء و اقرباء و برادری کے ذمے ہیں وہ پامال ہو چکے یا نہیں؟ اور شرعاً زید یا حضرات مذکورہ کو متارکت جائز ہے یا نہیں؟ نیز جو لوگ فتویٰ شرعی سے بے پروائی کریں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۵۴۹)

الجواب: اب جب کہ زید کی والدہ نے نکاح کر لیا اور بہ ظاہر پہلے فعل پر نادم ہوئی اور توبہ کی تو اس کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا چاہیے، خصوصاً اس کے پسر زید کو ہر حال اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک

کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور طلبِ بخشش کی جائے۔ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (۱) بشر سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، مگر جب کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور گنہ گاروں کے گناہ اور خطا سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں کو بھی درگزر ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور فتویٰ شرعی سے جو لوگ بے پروائی سے اعراض کریں وہ گنہ گار ہوئے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### سوتیلی ماں سے زنا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۷) جو شخص اپنے باپ کی منکوحہ سے زنا کرتا ہے اور سمجھانے سے باز نہیں آتا تو اس شخص سے میل ملاپ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۲۴۱۵ھ)  
الجواب: وہ شخص اگر توبہ نہ کرے اور اس فعلِ قبیح کو نہ چھوڑے، تو اس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے۔ فقط

### رشوت لے کر زانی کو برادری میں شامل کرنا

سوال: (۸۳۸) ایک شخص نے گاؤں میں ایک شخص کی عورت کو خراب کیا (یعنی اس کے ساتھ بدکاری کی) پھر اس کے شوہر کو ڈرا دھمکا کر جبراً طلاق دلا دی، اور اب تک اس کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، یہاں کے مولوی نے اس شخص کے واسطے پہلے یہ حکم دیا کہ جب تک یہ شخص توبہ نہ کرے اور نکاح نہ کرے اس کو اپنے ساتھ کسی امر میں نہ ملاؤ، چنانچہ سال بھر ایسا ہی رہا، اب سنا جاتا ہے کہ عید کے موقع پر مولوی صاحب نے کچھ نذرانہ لے کر شامل کر لیا، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟  
(۱۳۳۵ھ/۱۰۲)

الجواب: جس نے ایسا کیا برا کیا کہ غریب شخص کو ڈرا کر اور دھمکا کر اس کی زوجہ کو بے وجہ طلاق دلائی، بہر حال وہ طلاق شرعاً واقع ہوگئی، پس جس شخص نے اس کو بلا نکاح رکھ لیا ہے وہ شخص زانی و فاسق ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے اور بعد عدت کے نکاح نہ کرے تو اس سے ملنا جلنا ترک کر دینا چاہیے،

(۱) (سورۃ یوسف، آیت: ۹۸۔ سورۃ قصص، آیت: ۱۶۔ سورۃ زمر، آیت: ۵۳)

اور جس سے مولوی نے بدون توبہ کرائے اور بدون نکاح کیے اس شخص سے رشوت لے کر پھر اس سے ملنا رلنا شروع کر دیا اور برادری میں ملا لیا، وہ فاسق و عاصی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فقط

جو لوگ اپنے گھروں میں زنا کاری کراتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۳۹) جن کے گھر میں پیشہ کمایا جاتا ہے ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۷۱۲ھ)  
الجواب: جو لوگ اپنے گھروں میں زنا کاری وغیرہ کرتے کراتے ہیں، وہ فاسق اور دیوث ہیں اور سخت بے حیا اور ظالم ہیں، ایسے لوگوں سے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں اور اس رسم بد کو ترک نہ کریں ملنا ملنا چھوڑ دینا چاہیے۔ فقط

جس کی بیوی خاکروب کے ساتھ بھاگی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۴۰) ایک مسلمان کی بیوی کا ناجائز تعلق دو سال سے ایک خاکروب سے ہوا، اور مسلمانوں نے اس شخص کو بلا کر بار بار سمجھایا، لیکن اس نے کسی کے سمجھانے پر عمل نہ کیا ہو، اور کہتا رہا ہو کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے، اس پر عداوتاً یہ الزام رکھا جاتا ہے، اور مسماۃ مذکورہ اسی خاکروب کے ساتھ فرار ہو گئی، ایک ماہ بعد اسی کے پاس سے گرفتار ہوئی، مسماۃ مذکورہ اور اس کے خاوند کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵-۳۳/۱۰۱۹ھ)

الجواب: اس عورت سے توبہ کرائی جاوے کہ گذشتہ افعال سے توبہ کرے، اور استغفار کرے، اور آئندہ کو فعل بد نہ کرے، بعد توبہ کے اس کو اور اس کے شوہر کو شامل برادری رکھا جاوے۔ فقط

شوہر بیوی کو زنا کاری سے نہ روکے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۴۱) ایک شخص کی بیوی زانیہ ہے، اور وہ شخص اس کو زنا سے نہیں روکتا حتیٰ کہ اب یہ حالت ہے کہ وہ عورت خاوند کے سامنے ہی اپنے آشناؤں کو گھر میں لاتی ہے اور خاوند منع نہیں کرتا، اور نہ طلاق دیتا ہے، ایسے مرد و زن کا حکم کیا ہے؟ (۱۳۳۵-۳۳/۳۷۵ھ)

الجواب: ایسی حالت میں اس شخص سے طلاق دینے کو کہا جائے اگر اب بھی نہ مانے تو

مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بے حیا مرد و عورت سے تمام علائق منقطع کر دیں، یہاں تسلط کفار کے سبب اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ تمام باغیرت مسلمان عملاً ان سے بیزاری کا اظہار کریں اور بحق و قارِ شریعت و غیرتِ اسلام کسی طرح کا کوئی علاقہ نہ رکھیں، جو لوگ باوجود اس علم کے ان سے میل ملاپ رکھتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ فقط

### بھاگی ہوئی زنا کار بیوی کو توبہ کرا کے رکھنے

والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۴۲) ایک شخص کی عورت دوسرے کے ساتھ چلی گئی اور زنا کرایا، شوہر اس کو تلاش کر کے لے آیا اور بہ طور زوجہ کے رکھ لی، اس پر لوگوں نے شوہر سے متارکت کر دی، ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور بھاگی ہوئی عورت ایک سال کے اندر اگر خاوند کے پاس آ جاوے تو کچھ حرج نہیں، اور توبہ فقط عورت سے کرائی اور ہم لوگوں کو راہ و رسم کرنے پر بڑا زور دیا، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۴ھ)

الجواب: یہ صحیح ہے کہ عورت کے بھاگ جانے یا زنا کار ہو جانے سے شوہر اول کا نکاح فسخ نہیں ہوا، اور شوہر اول اس کو رکھ سکتا ہے اور سال بھر کی بھی قید نہیں ہے، اس کا کچھ قصور نہیں ہے، توبہ صرف عورت سے کرائی کافی ہے، پس شوہر اول سے متارکت نہ رکھنی چاہیے۔ فقط

### بھنگی سے ناجائز تعلق رکھنے والی عورت اور اس

کے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟

سوال: (۸۴۳) ایک عورت کا تعلق ناجائز ایک بھنگی سے ہو گیا، عورت کے والدین نے ہر چند سمجھایا مگر باز نہ آئی، اور اس کے خاوند نے بھی اس کو طلاق نہیں دی، اب وہ بھنگی بھی مسلمان ہو گیا، اور بعد مسلمان ہونے کے اسی بھنگی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اپنے اصلی خاوند سے علیحدہ ہوئے اس کو تین سال ہو چکے، اس دوران میں اس عورت کے ماں باپ کا رہنا سہنا اور کھانا پینا ایک ہی ساتھ رہا،

اور برادری کا معاملہ بھی اسی طرح رہا، ایسے لوگوں کے واسطے شرعاً کیا حکم ہے؟ عورت کو کیا سزا دی جاوے؟ اور اس عورت اور اس کے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاوے؟ (۱۳۳۵ھ-۲۴/۸۵۴)

الجواب: ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، اور عورت سے اور اس نو مسلم سے توبہ اور استغفار کرایا جاوے، بعد توبہ اور استغفار اور علیحدگی از نو مسلم مذکور اس کو پہلے شوہر کے سپرد کیا جاوے، یا اس سے طلاق لے کر بعد انقضائے عدت نو مسلم شخص سے اس کا نکاح کر دیا جاوے۔ فقط

### چمار کے ساتھ فرار ہونے والی عورت کی

#### اولاد کی شادی برادری میں کرنا کیسا ہے؟

سوال: (۸۴۴) زید کی بی بی ہندہ ایک چمار کے ساتھ چلی گئی، اور عرصہ پانچ چھ ماہ تک اس کے ساتھ رہی، اس چمار سے ہندہ کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر زید ہندہ کو لایا اس سے ایک بچہ ہے، ان بچوں کی شادی برادری میں کرنا درست ہے یا نہیں؟ ان کے گھر کا کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲ھ/۱۵۳۸)

الجواب: زید کی زوجہ اگر تائب ہو گئی ہے اور اسلام پر قائم ہے تو زید کی اولاد جو اس سے ہوئی ان کی شادی برادری میں کرنا درست ہے، اور ان کے گھر کا کھانا پینا بعد توبہ کے جائز ہے۔ فقط

### توبہ کے بعد چمار کے ساتھ بھاگی ہوئی عورت

#### اور اس کے شوہر کو شریک برادری کرنا

سوال: (۸۴۵) ایک عورت منکوحہ شوہر والی ایک بھنگی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کچھ عرصہ بعد واپس آ گئی اور پنچایت نے اس کو سزا بھی دی، اور تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی ہوئی، لیکن وہاں کے مسلمان اس کے شوہر کو شریک برادری کرنا نہیں چاہتے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۱۰۵۵)

الجواب: اس صورت میں اس کے شوہر کو برادری میں داخل کر لینا چاہیے، حکم شریعت یہی ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب کمن لا ذنب له (مشکاۃ، ص: ۲۰۶، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث)

جس کو برادری سے علیحدہ کر دیا ہے وہ توبہ پر آمادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۴۶) زید نے اپنی چچا زاد بہن سے زنا کیا، برادری نے اس کی سزا بیس سال مقرر کی ہے، اور بیس سال تک برادری سے علیحدہ کر دیا ہے، اب وہ توبہ نصوح پر آمادہ ہے، اب ایسے شخص کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۴۴/۴۹۳-۱۳۳۵ھ)

الجواب: جب کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہے، اس کو داخل برادری کر لیا جاوے (۱)

جو شخص چچا زاد بھائی کی بیوی کو بھگا کر لے گیا اور

کافروں کے سپرد کر دی اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۴۷) ایک شخص اپنے برادر چچا زاد کی زوجہ کو بھگا کر لے گیا، اور اس کو کافروں کے سپرد کر دی، وہ بھی کافر ہو گئی، ایسے شخص کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۴۴/۸۱۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: وہ شخص سخت عاصی و ظالم ہے اور فاسق ہے مسلمانان اس سے مقاطعت اور علیحدگی کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

زانی اور اس کی حمایت کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۴۸) ایک مرد نے ایک اجنبی عورت سے زنا کیا، عورت حاملہ ہوئی، اور دولڑکے پیدا ہوئے، بعدہ چند آدمیوں نے اس مرد سے کہا کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، زانی کے فریق کے لوگوں نے کہا کہ جب تک بہ ذریعہ زنا کے تیسرا لڑکا پیدا نہ ہو تب تک توبہ نہیں کریں گے اور نکاح نہیں پڑھوائیں گے، اب ہم لوگ اس مرد زانی سے کھانا پینا بند کریں یا نہیں؟ اور زانی کے لوگ اس گفتگو سے گنہ گار ہوئے یا نہیں؟ اور اس قسم کی گفتگو سے کوئی

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (مشكاة المصابيح، ص: ۲۰۶، کتاب أسماء اللہ تعالیٰ، باب الاستغفار والتوبة)



کافر بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۵/۲۴۰۶ھ)

الجواب: جب تک وہ توبہ نہ کریں ان سے کھانا پینا بند کر دیں، اور اس زانی کے فریق کے لوگ اور اس کے مددگار و معین سب عاصی و فاسق ہیں اس میں خوف کفر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ فقط

### بدچلن بیوی کو طلاق نہ دینے کی وجہ سے حقہ پانی بند کرنا

سوال: (۸۴۹) ایک عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے، اس کا حقہ پانی برادری نے بند کر دیا ہے، اس کا خاوند اس کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور طلاق دینے پر آمادہ ہے، مگر چند وجوہ سے کہتا ہے کہ چند روز اور ٹھہر تو جن کے یہاں شوہر آتا جاتا ہے ان کا حقہ پانی بند کرنا بھی جائز ہے؟

(۱۳۴۳/۳۱-۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: جو عورت بدچلن یا نافرمان ہو اس کو طلاق دینا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے، لہذا طلاق نہ دینے کی وجہ سے شوہر کا اور ان لوگوں کا حقہ پانی بند کرنا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر کو منع کرنا اور روکنا زوجہ کو بدکاری سے ضروری ہے۔

### فرق باطلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کھانا پینا

سوال: (۸۵۰) کیا فرقہائے اسلام کو آپس میں کھانا پینا حلال ہے اور باہم اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ (۱۳۴۰/۱۹۳۵ھ)

الجواب: سوائے اہل سنت و جماعت کے دیگر فرقہائے اہل اسلام مثل روافض، خوارج، معتزلہ، مرزائیہ، اہل قرآن وغیرہ اہل ابواء میں سے ہیں، اور حدیث شریف میں ان فرق باطلہ کے بارے میں کلہم فی النار الا ملۃ واحده الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے (۱) یعنی سوائے اہل سنت و جماعت کے جملہ فرق اہل ابواء ناری ہیں، اور ترک مواصلت و مشاربت

(۱) عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ..... و إن بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملّة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي (جامع الترمذي: ۹۳/۲، أبواب الإيمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب افتراق هذه الأمة)

ومجالست ومناکحت وغیرہ ان باطل فرقوں سے حدیث شریف میں وارد ہے (۱) پس ایسے لوگوں سے میل جول اور ساتھ کھانا پینا بلا ضرورت اور بدون کسی سخت مجبوری کے درست نہیں ہے۔

لاہوری جماعت کے کسی فرد کو صدر بنانا کیسا ہے؟

سوال: (۸۵۱) زید سنی نے ایک قادیانی امام کے پیچھے ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھا جو گو مرزائی ہے، لیکن نبوت مرزا کا قائل نہیں یعنی لاہوری جماعت کا معتقد ہے، شرعاً ایسا آدمی کس سلوک کا مستحق ہے؟ صدر بنانا اس کو کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۱۲۷۳ھ)

الجواب: ایسا شخص فاسق و مبتدع لائق صدر و مقتدا بنانے کے نہیں ہے، مگر یہ کہ اس فعل سے جو اس سے سرزد ہوا توبہ کرے۔ فقط

انگریزوں کا باورچی سور کا گوشت پکاتا ہے

اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۵۲) ایک شخص مسلمان جو صوم و صلاۃ کا پورا پابند نہیں انگریزوں کا باورچی ہے، سور کا گوشت پکاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۴-۳۳/۱۶۷۵ھ)

الجواب: دوسرے مسلمانوں کو ایسے شخص سے علیحدگی کرنی چاہیے اگر وہ اس فعل کو ترک نہ کرے۔ فقط

خنزیر کا ٹھیکا لینے والے سے میل جول ترک کرنا ضروری ہے

سوال: (۸۵۳) ایک شخص خنزیر وغیرہ کا ٹھیکا لیتا ہے، تو اس کی برادری اس سے ناراض ہوئی

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتاحوهم (مشكاة المصابيح: ص ۲۲، کتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لہذا اس سے میل جول چھوڑ دیا، اس نے توبہ کر لی تو میل جول شروع کر دیا، اب وہ شخص پھر خنزیر وغیرہ کا ٹھیکا لینے لگا ہے، اب اس سے میل جول کرنا کیسا ہے؟ (۵۸۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: جب کہ اس نے پھر یہ خبیث پیشہ شروع کیا تو پھر اس سے متارکت کر دینی چاہیے کہ اہل معصیت سے متارکت جائز بلکہ ضروری ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ انعام، آیت: ۶۸) فقط

### منشیات کے ٹھیکے دار کو مقتدا بنانا

سوال: (۸۵۴) زید تقریباً کل منشیات کا مثلاً گانجا، افیون، تاڑی کا ٹھیکہ دار تاجر ہے، ایسے شخص کو مقتدا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۶۱۳/۱۳۳۲ھ)

الجواب: ایسا شخص مقتدا بنانے کے لائق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص خود بے راہ ہو وہ دوسرے کو کیا راہ راست پر لاسکتا ہے؟ بہ قول شخصے:

او خوشن گم است کرار ہبری کند؟ (وہ خود گمراہ ہے، کسی کی کیا رہبری کرے گا؟)

### شراب و سور فر وخت کرنے والے سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۵۵) شراب و سور فر وخت کرنے والے کے لیے احکام شرع کیا ہیں؟ مسلمان اس کے ہمراہ کھاپی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور نماز میں اس کو امام بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مولود پڑھوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ (۲۷۲۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: شراب و خنزیر کی بیچ و شراء کرنے والے فاسق و عاصی ہیں، ان سے ملنا جلنا چھوڑا جائے اور امام بنانا ایسے لوگوں کو درست نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور میلاد شریف کا پڑھوانا بھی درست نہیں ہے، اگر توبہ کر لیں تو سب (یعنی ملنا جلنا) جائز ہے۔

### شرابی کے ساتھ کھانے پینے سے احتراز کرنا

سوال: (۸۵۶) عمر بچ گانہ نماز معمولی طور پر پڑھتا ہے، اور زید کلمہ گو ہے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے اور نماز روزہ کا پابند نہیں ہے، گا ہے بگا ہے پڑھتا ہے، خالد کا یہ اعتراض ہے کہ زید کے ساتھ

کہ جو شراب پیتا ہے اور پابند نماز روزہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ عمر کہتا ہے کہ زید شراب پیتا ہے مگر میرے سامنے نہیں پیتا عمر کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۸/۱۷۴۸)۔  
الجواب: جب کہ عمر کو یہ معلوم ہے کہ زید شراب پیتا ہے اگرچہ عمر کے سامنے نہیں پیتا تو اس صورت میں عمر کو اس کے ساتھ کھانا کھانے اور ملنے جلنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ الْآيَةُ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳)

جو بے نمازی رمضان میں بھی افطار کے بعد

شراب پیتا ہے اس سے قطع تعلق ضروری ہے

سوال: (۸۵۷) شراب پینے والے کے ساتھ خلا ملا رکھنا کیسا ہے؟ اور شراب پینے والے کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۲۵۴۵)

الجواب: شراب پینے والا بھی فاسق ہے ایسے لوگوں کے ساتھ خلا ملا رکھنا نہ چاہیے، البتہ ان کو کافر نہ کہنا چاہیے کہ الکفر شیء عظیم (۱) اور بہ نرمی ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۲۵) فقط  
سوال: (۸۵۸) زید اکثر شراب پیتا ہے، بالخصوص رمضان میں بھی افطار کے بعد پیتا ہے، نیز نماز کا تارک ہے، صرف عیدین کی نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص سے مسلمانوں کو قطع تعلق کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو لوگ اس سے قطع تعلق نہ کریں بلکہ اس کی اور اعانت کریں ان کے لیے شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۵-۳۴/۸۷۷)

الجواب: تہدیداً اس سے قطع تعلق ضروری ہے، اور اس کے معاونین عاصی اور ظالم ہیں، توبہ کریں۔ فقط

جو مسلمان توبہ کے بعد شراب پیتا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۵۹) ایک شخص نے شراب پی اور پھر علانیہ مجمع میں توبہ کی، اور بعد توبہ کے وہی فعل

(۱) رد المحتار: ۶/۲۷۱، کتاب الجہاد، باب المرتد - مطلب: مَا يَشْكُ أَنَّهُ رَدَّةٌ لَا يَحْكُمُ بِهَا.

شراب خوری کا کرتار ہا، اور مسلمانوں پر سخت اثر پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص سے شرعاً کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ اس سے میل جول رکھیں وہ کیسے ہیں؟ اور جرمانہ مالی کرنے کا کیا حکم شریعت میں ہے؟ (۱۳۳۸/۲۲۰۰ھ)

الجواب: اس کو پھر سمجھانا چاہیے اور توبہ کرائی چاہیے، کیوں کہ حق تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اگرچہ بار بار وہ توبہ کو توڑیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (سورہ شوریٰ: آیت: ۲۵)

باز آ باز آ از آنچہ کردی باز آ ❁ ایں درگاہ ما درگاہ نہ امیدی نیست  
صد بار گر توبہ شکستی باز آ (۱)

اس کے ساتھ قطع تعلق کر دینے سے نفع نہیں ہے، نفع اس میں ہے کہ اس سے توبہ کرائی جاوے اور اگر پھر وہ توبہ کو توڑ دے تو پھر توبہ کرائی جاوے اور جرمانہ مالی کرنا درست نہیں ہے، ایسا نہ کیا جاوے (۲)

سمجھانے کے باوجود شراب کے ٹھیکہ دار باز نہ آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۶۰) جو گروہ باوجود مسلمان کہلانے کے اگر ان کو شراب کے ٹھیکے لینے اور فروخت کرنے کی حرمت بدلائل قرآن و احادیث سمجھائی جائے اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی ہر طرح شراب کی برائی دکھلائی جائے، پھر بھی ٹھیکہ داران آبکاری (۳) اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئیں، (۱) باز آ باز آ جو بھی گناہ تو نے کیا ہے اس سے باز آ، یہ ہماری درگاہ ناامیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ سو بار اگر توبہ توڑ چکا ہے تو بھی باز آ۔

(۲) قوله: (وفيه الخ) أي في البحر حيث قال: وأفاد في البرازية: أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال، كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي (رد المحتار: ۶/۷۷، كتاب الحدود - باب التعزير - مطلب في التعزير بأخذ المال)

(۳) آبکاری: شراب کھینچنے اور بیچنے کا کارخانہ یا جگہ۔ (فیروز اللغات)

اور احکام خداوندی کا استہزا کریں اور تردید کریں، ایسی حالت میں عام مسلمانوں کو ایسے گروہ سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۹/۱۴۰۴ھ)

الجواب: وہ لوگ فاسق و بے حیا ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کو متارکت کر دینی چاہیے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ فقط

تاڑی پینے والے اور ڈاڑھی منڈانے والے سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟

سوال: (۸۶۱) جو مسلمان تاڑی پیتا ہے اور نماز پنج وقتہ کا پابند نہیں اور ڈاڑھی صاف کراتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۱۴۰۴ھ)

الجواب: تاڑی میں جب تک نشہ نہ آئے مثلاً تازی ہو، تو اس وقت تک پینا اس کا جائز ہے، اور جس وقت نشہ آجائے اس وقت پینا تاڑی کا حرام ہے مثل تمام مسکرات کے، اور ڈاڑھی کا منڈانا حرام ہے، وہ شخص فاسق ہے اس سے ملنا جلنا اچھا نہیں ہے۔

جو شخص شراب کو جائز کہتا ہے اس کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟

سوال: (۸۶۲) ایک شخص کہتا ہے شراب پینا ہر مذہب ہر شخص کے لیے جائز ہے، اور مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے اور مسائل بھی سناتا ہے، اس شخص کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟ اور درمختار و شرح وقایہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ (۱۳۳۵/۹۴۳ھ)

الجواب: یہ اس شخص کا افترا اور کذب ہے اور وہ فاسق ہے، ہرگز اس کے کلام کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نہ اس سے کچھ سنا جاوے، اور اس کی صحبت سے بالکل احتراز کیا جاوے، وہ شخص مفسد و مفتری ہے اور غلط حوالہ کتابوں کا دیتا ہے، اس سے بالکل علیحدگی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ فقط

بھائی سے رشوت خوری کی بنا پر قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۸۶۳)..... (الف) ایسے حقیقی بھائی سے جو پولیس میں نوکر ہو اور رشوت لے کر اس روپیہ سے زمین گروی لے کر اس زمین کی آمدنی کھاتا ہو، اور منع کرنے سے باز نہ آتا ہو قطع تعلق

جائز ہے یا نہیں؟

(ب) کیا ایسا قطع تعلق کرنے والا قاطع الرحم ہوگا؟ (۱۳۳۴-۳۳/۱۹۹۸ھ)

الجواب: (الف) اوّل سمجھانا چاہیے، اگر نہ مانے تو متارکت اس سے درست ہے، لیکن اگر اس وجہ سے کہ زبردستی کسی پر نہیں ہو سکتی سمجھانے پر اکتفا کیا جائے اور متارکت نہ کی جائے خصوصاً جب کہ متارکت میں خوف فتنہ ہو تو اس میں بھی مواخذہ نہیں۔

(ب) قاطع رحم (رشتہ توڑنے والا) نہ ہوگا۔

بیٹا سنی ہے اور باپ قادیانی؛ تو بیٹے کی

شادی میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۸۶۴) ایک شخص جو مرزا قادیانی کے عقیدہ کا ہے اور شب و روز اسی خیال کی اشاعت میں رہتا ہے، اور اپنے دلوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا چکا ہے، اب اس کے تیسرے لڑکے کی جو ابھی تک مرزائی عقیدہ کا ظاہر نہیں ہوا ہے، اپنی برادری میں کہ وہ بھی مرزائی عقیدہ کے نہیں ہیں شادی ہے، لہذا مسلمانوں کو اس شادی میں شریک ہونا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۶۳۷ھ)

الجواب: جو لڑکا سنی ہے اور اس کی شادی بھی اہل سنت میں ہوتی ہے اس کے نکاح میں شرکت مسلمانوں کو درست ہے۔ فقط

سوال: (۸۶۵) دو بھائی جو سنی المذہب ہیں ان کا باپ کچھ دنوں سے مرزائی ہو گیا ہے جو انہیں کے شامل رہتا ہے، ان میں سے ایک بھائی کی شادی سنی المذہب کے یہاں ہوگی، اس کی شادی میں شریک ہونا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۶۷۸ھ)

الجواب: سنی المذہب کی شادی میں شرکت اور اس کے گھر کا کھانا کھانا درست ہے۔ فقط

مسلمان سے ترک موالات کرنا

سوال: (۸۶۶) کافر سے ترک موالات جائز ہے، مگر مسلمان سے ترک موالات کر سکتا ہے

یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۳۷۴ھ)

الجواب: کفر اور فسق کی وجہ سے ترک موالات ہوتی ہے اور اس میں تفصیل اور درجات ہیں۔

### جو لوگ تبلیغ اسلام میں خارج ہیں ان سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۶۷) بھوراسٹھ لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتا ہے، ایک خاکروب کو خدا نے ہدایت دی اور بھوراسٹھ کی نصیحت سے وہ مسلمان ہو گیا، مگر چند مسلمان؛ مرد و مسلم اور بھوراسٹھ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ نو مسلم پھر مرتد ہو جاوے اور بھوراسٹھ آئندہ تبلیغ اسلام سے باز رہے، لہذا ایسے لوگ جو اس کام میں سد راہ ہوتے ہیں کیا اس قابل ہیں کہ ان کو مسلمان اپنے گورستان میں دفن سے اور مسجد میں آنے سے روک دیں، اور ان سے متارکت کر دیں؟ (۱۳۳۳ھ/۲۱۲۵-۳۲)

الجواب: جو لوگ تبلیغ اسلام میں خارج ہیں اور مرد و مسلم اور بھوراسٹھ کی ایذا رسانی کے درپے ہیں وہ گنہ گار اور فاسق و فاجر ہیں، جب تک وہ اس حرکت سے توبہ نہ کریں، اور باز نہ آویں ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، باقی مسجد میں آنے سے اور قبرستان میں دفن کرنے سے نہ روکنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی واسطہ یا میل جول ان سے نہ رکھیں۔ فقط

### گستاخ رسول و گستاخ ازواج مطہرات سے ترک مجالست

سوال: (۸۶۸) ایک مولوی بنام زید اور چند مسلمان اس کے ہمراہ ایک پادری کے مکان پر جا کر نشست و برخاست کرتے ہیں، اور اس کے گھر کا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور گفتگو میں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ پادری آنحضرت ﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شان میں الفاظ گستاخانہ کہتا ہے، دوسرے مسلمانوں نے جب زید کو منع کیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا، اگر فرق آتا ہے تو ہم کو قرآن اور حدیث سے دکھا دو، آیا ایسا کرنا گناہ ہے یا کیا؟ (۱۳۳۵ھ/۱۵۲۶)

الجواب: قرآن شریف میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ دین اسلام کے ساتھ استہزاء کریں اور برا کہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور ان سے علیحدہ رہو۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ انعام، آیت: ۶۸) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا



فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ الْآيَةُ ﴿ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۳) پس زید اس معاملہ میں خطا پر ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہو، یہ سخت گناہ اور فسق ہے توبہ کرے، اور آئندہ ایسی جگہ نہ بیٹھے، اور جو مسلمان اس کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی وہاں جانے سے احتراز کریں، اور زید کے قول کا اعتبار نہ کریں کہ وہ مخالفت حکم شریعت کی کرتا ہے۔ فقط

### آلِ نبی اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والے سے تعلق قطع کرنا ضروری ہے

سوال: (۸۶۹) جو مسلمان سب آلِ نبی کرے ان کو گندی گالیاں دے جیسا کہ خوارج کرتے ہیں، اسی طرح سب صحابہ کریں جیسا کہ روافض کرتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو میل جول اور ہر قسم کا تعاون رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۸ھ/۲۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: ایسے شخص کی اقتداء ناجائز ہے، تمام مسلمانوں کو بہ حق وقار صحابہ و آل رسول اس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، وہ مسلمان کے کسی تعاون کا مستحق نہیں، جو مسلمان اس کا تعاون کریں گے گنہ گار ہوں گے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوِّ وَالْآيَةِ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْآيَةِ﴾ (سورہ أنعام، آیت: ۶۸) فقط

### جو شخص علماء کو گالیاں دیتا ہے اور بدعتی ہے اس سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۷۰) جو شخص علماء کو گالیاں دے اور بدعتی ہو، اس کے ساتھ مواکلت و مجانست کرنا کیسا ہے؟ اور اس کی زوجہ نکاح سے نکل جائے گی یا نہ؟ (۱۳۳۷ھ/۱۲۵۱ھ)

الجواب: ایسا شخص جو علماء کو سب و شتم کرتا ہے اور بدعات کا مرتکب ہے فاسق اور مبتدع ہے، مواکلت و مشاربت ایسے لوگوں کے ساتھ روا نہیں، اور چونکہ تکفیر مسلم میں احتیاط تام لازم ہے

اس لیے اس کے ارتداد کا اور بینونتِ زوجہ کا حکم نہ کیا جائے گا۔

## جو شخص جمعیت العلماء سندھ پر سرکار کے خلاف تحریک

چلانے کا الزام لگاتا ہے اس سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۷۱) ایک شخص نے جمعیت العلماء سندھ کی نسبت سرکار میں عرضی دی ہے کہ یہ لوگ سرکار کے خلاف تحریک کر رہے ہیں، ایسے شخص سے میل جول رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ (۱۸۴/۱۳۳۰ھ)  
الجواب: ایسے شخص سے مقاطعت شرعاً لازم ہے۔ فقط

## جو شخص مسلمانوں کی قائم کردہ تنظیم پر غلط

الزام لگاتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۷۲) اگر مسلمانان کہیں تنظیم قائم کریں اور کوئی مسلمان شریک تنظیم غلط و فرضی الزامات تنظیم پر یا اعمال اور اراکین تنظیم پر لگا کر تنظیم کے خلاف ہو جائے، تو اس سے تنبیہ قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ (۱۸۳۱/۱۳۴۳ھ)

الجواب: ایسے امور میں مسابہت اور مسامحت کرنی چاہیے، جو لوگ شریک ہوں ان کی معیت میں کام تنظیم کے کیے جائیں، اور جو لوگ شریک نہ ہوں ان سے تعرض نہ کریں، اور ان کی تفسیق اور تضلیل نہ کریں، اور ان کے بارے میں فتویٰ نہ لکھوائیں کہ اس سے اور بھی باہم مخالفت کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، جن پر لوگوں کو توفیق کسی کار خیر کی ہو وہ کریں، اور جو شریک نہ ہوں ان کو ملامت و طعن نہ کریں۔ کما ورد: الدین یسر (۱) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۶) فقط

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر الحديث (صحيح البخاري: ۱/۱۰، كتاب الإيمان، باب الدين يسر إلخ)

جو شخص خلافت کی مخالفت کرتا ہے یا مخالفت کرنے

والوں کی تائید کرتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۷۳) خلافت کی مخالفت کرنا، یا مخالفت کرنے والوں کی تائید کرنا، یا اجماع

خلافت میں پھوٹ ڈالنا شرعاً کیسا ہے؟ (۱۳۴۰/۲۲۹ھ)

الجواب: حسب شریعت خلافت کی مخالفت کرنے والے اور مخالفوں کی تائید اور اعانت کرنے والے اور دشمنان اسلام کی حمایت کرنے والے سخت ظالم اور فاسق ہیں، اور آیت کریمہ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدْوَانِ الْآیۃ﴾ (سورہ مائدہ، آیت: ۲) کے مخالف ہیں، اور ایسی گورنمنٹ سے قطع تعلق کرنا جس نے اسلام اور خلافت اسلامیہ حقہ کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا ہو، قطع تعلق اور ترک موالات کرنا فرض اور ضروری ہے۔ فقط

جو شخص امن سبھایا کونسل کا ممبر ہے اور نصاریٰ کی

خوشی میں شریک ہوتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۷۴) جو شخص شریعت کا پابند نہیں اور امن سبھایا کونسل کا ممبر بھی ہے اور نصاریٰ کی

خوشی میں شریک ہوتا ہے تو وہ بہ حکم آیت کریمہ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (سورہ مائدہ: آیت: ۵۱) کے اس سے کسی طرح کی امداد لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۱۰۳۷ھ)

الجواب: وہ شخص بہ حکم آیت: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (سورہ مائدہ: آیت: ۵۱) فاسق و ظالم ہے، اس سے متارکت و مقاطعت لازم ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اس سے

تعلقات قائم رکھنا درست نہیں ہے۔

جو شخص اسلام کا مخالف ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۷۵) ایک شخص نے ایک مقدمہ میں شہادت دیتے ہوئے کلکٹر کے روبرو کثیر مجمع

کے سامنے بہت سے سوالات کے جوابات کے علاوہ حسب ذیل سوالات کے حسب ذیل جوابات دیے: آپ سنی ہیں؟ جواب: ہاں۔

خلافت پر آپ کا ایمان ہے؟ جواب: نہیں۔

آپ سلطان روم کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانتے؟ جواب: ہاں نہیں مانتا۔

ایسے شخص سے کیا معاملہ چاہیے؟ (۱۳۳۹/۱۹۲۱ھ)

الجواب: ایسے شخص کا حال ظاہر ہے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص مخالف اسلام کا ہے اور نہایت بد دین اور فاسق ہے، مسلمانوں کو اس سے مقاطعت کر دینی چاہیے۔ **إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ. فقط**

### زکاۃ ادا نہ کرنے والے سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۷۶) جو صاحبِ نصاب باوجود اسراف کرنے کے زکاۃ ادا نہ کرے، اس سے میل رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۱۹۲۰ھ)

الجواب: جواز میں کچھ کلام نہیں ہے، البتہ ایسے اہل معاصی و فساق سے علیحدہ رہنا اچھا ہے اگر کوئی فتنہ نہ ہو۔

### سود خور اور زکاۃ نہ دینے والے سے میل ملاپ درست نہیں

سوال: (۸۷۷) زید سود خور ہے، غیبت کا عادی ہے، مسلمانوں میں مخاصمت کر دیتا ہے، باوجود صاحبِ نصاب ہونے کے زکاۃ نہیں دیتا، علماء کو دھوکا دے کر غلط استفتاء کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے شخص سے میل جول درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۱۹۲۹ھ)

الجواب: وہ شخص جو ایسا ہو ظالم و فاسق ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ درست نہیں ہے۔ فقط

### اس زمانہ کے غیر مقلدین سے میل جول ترک کرنا چاہیے

سوال: (۸۷۸) ہمارے موضع میں سے سات آدمیوں نے مذہبِ اہل حدیث اختیار کر لیا

ہے، امسال فرقہ اہل حدیث میں سے ایک شخص نے کپتان صاحب کی روبرو دستخط کر دیے کہ ہم لوگ ایک روز قربانی کریں گے جس سے دو روز کی قربانی بند ہوگئی، ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۲۲۸ھ)

الجواب: غیر مقلدین اس زمانہ کے جن کا وظیفہ سب و شتم سلف و علمائے مقلدین ہے اور تقلید کو شرک سمجھتے ہیں فاسق ہیں، حنفیوں کو ان کے ساتھ ملنا جلنا ترک کرنا چاہیے اور یہ فعل ان کا دوروز کی قربانی کو بند کرنا فعل مذموم اور معصیت ہے، اس میں اعانت کرنا بھی معصیت ہے۔

علمائے اہل سنت سے بغض رکھنا اور غیر مقلدین سے رابطہ و ضبط رکھنا

سوال: (۸۷۹) اہل حق، مذہب حنفیہ، اہل سنت والجماعت کے علماء سے حسد، بغض، کینہ رکھنا اور غیر مقلدوں سے رابطہ ضبط رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۴۲۲ھ)

الجواب: برا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، توبہ کریں، اور اہل حق سے بغض، کینہ و حسد نہ رکھیں کہ یہ افعال قبیحہ عام اہل اسلام کے ساتھ بھی برے ہیں، خصوصاً علمائے اہل حق کے ساتھ زیادہ قبیح و معصیت ہیں۔ فقط

غیر مقلد کا وعظ سننا

سوال: (۸۸۰) غیر مقلد کا وعظ سننا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/۲۲۹۰ھ)

الجواب: اس میں احتیاط مناسب ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات غیر مقلدین ایسی کہہ دیتے ہیں، جو خلاف مسلک اہل سنت و جماعت ہو۔ فقط

جو شخص شعار اسلام (گاؤ کشی) کے انسداد

میں کوشاں ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۸۸۱) زید جو حافظ اور حاجی ہے اس مرتبہ قربانی کے ایام میں اس نے اہل ہنود کو بہ

کوشش اس جدید امر پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ قربانی گاؤں کی کوشش کو روک دیں، اور اگر کوئی فساد ہوگا تو ہم تمہارے شریک ہیں، اس پر اہل ہنود نے جواب دیا کہ یہاں قربانی ہمیشہ سے ہوتی ہے، مسلمان اپنے اپنے مکانات میں فرائض مذہبی ادا کریں ہم مزاحم نہیں ہو سکتے، اس واقعہ پر مسلمانوں نے زید سے قطع تعلق کر دیا ہے، کیوں کہ زید نے مسلمانوں کو ایک بڑی مصیبت میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اس صورت میں ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے زید سے قطع تعلق کیا ہے کیا حکم ہے؟ اور اس کا ردوائی کے ساتھ زید کے واسطے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۳۳۰/۳۵-۱۳۳۶ھ)

الجواب: زید نے جو کچھ کیا برا کیا، افسوس ہے کہ مسلمان ہو کر ایک شعار مذہب اسلام کے انسداد میں کوشش کی جاوے، مگر الحمد للہ کہ اس کی کوشش سے کوئی مفسدہ ظاہر نہ ہوا، ایسا شخص اگر آئندہ کو اپنے خیال و ارادہ سے باز نہ آوے تو بے شک قابل نفرت اور لائق متارکت کے ہے، لیکن اگر وہ آئندہ کو اپنے ارادہ سابق سے باز آئے اور توبہ کرے تو اس سے متارکت و قطع تعلق نہ کیا جائے، اور دیگر مسلمانوں نے جو کچھ زید کے اس فعل شنیع کی وجہ سے اس سے منافرت کی اور متارکت کا معاملہ کیا اس میں وہ لوگ حق پر ہیں، اور عند اللہ مأجور ہیں۔ إنما الأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى (۱) فقط

سوال: (۸۸۲) موضع ”جگرانوان“ مسلمانوں کا گاؤں ہے، دس بارہ گھر ہنود کے بہ طور دکاندار آباد ہیں، یہاں ایک مسلمان موچی گاہ بہ گاہ گائے ذبح کر لیتا تھا، جس پر ہندوؤں نے اس کے برخلاف تحصیل دار صاحب کے جو کہ ہندو ہیں درخواست دی، تحصیل دار نے کئی مسلمانوں کے انگوٹھے موچی مذکور کے خلاف لگوائے، آیا جن مسلمانوں نے گائے کے ذبح کرنے کو برا سمجھ کر انگوٹھے لگائے ہیں ان کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ (۳۳۱/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: جن لوگوں نے ذبیحہ گائے کو برا سمجھ کر موچی کے خلاف انگوٹھے لگائے ہیں وہ فاسق اور گنہگار ہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ موچی مذکور کا ساتھ دیں اور کوئی کام اس کے خلاف نہ کریں، اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ”مجموعۃ الفتاویٰ“ جلد دوم میں تحریر فرمایا ہے: جو گاؤں کو معظم سمجھ کر ذبح نہ کرتا ہو یا اس کے ذبح کو برا سمجھتا ہو، اس کے اسلام میں فتور ہوگا، اور بہ قصد اثارتِ فتنہ (فتنہ انگیزی)

(۱) صحیح البخاری: ۲/۱، باب کیف کان بدؤ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .

گاؤ کشی نہیں چاہیے (۱) اور یہ بھی ”مجموعۃ الفتاویٰ“ میں لکھا ہے: اگر ہنود روکیں اور بہ نظر تعصب مذہبی منع کریں تو مسلمانوں کو اس سے باز رہنا درست نہیں ہے، بلکہ ہر گاہ ہنود ایک امر شرعی قدیم کے ابطال میں کوشش کریں اہل اسلام پر واجب ہے کہ اس کی ابقاء و اجراء میں سعی کریں، اور اگر ہنود کے کہنے سے اس فعل کو چھوڑیں گے تو گنہ گار ہوں گے الخ (۲) فقط

سوال: (۸۸۳) اگر مسلمانوں کو کفار نے مع ان کے مکانات کے جلا دیا ہو؛ تاکہ مسلمان قربانی نہ کر سکیں، اگر بادشاہ وقت کفار کے سزا دینے کے درپے ہو اور مدعی ہو اور بعض مسلمان کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف شہادت دیں اور خلاف پیروی کریں اور جھوٹ بولیں ایسے لوگوں کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۲۱۳۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ایسے لوگ سخت فاسق اور گنہ گار اور دشمنِ دینِ اسلام ہیں، ان لوگوں کے ایمان میں نقصان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، یہ گناہ بہت سخت ہے اور ایسے لوگوں کے حال پر سخت افسوس ہے، ان کی حالت نہایت اندیشہ ناک ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ فقط

ہم وطنوں کی رعایت میں گائے کی قربانی نہ کرنا

اور جو کرے اس سے عداوت رکھنا

سوال: (۸۸۴) گوئدہ میں جہاں کوئی مذہبی احساس نہ تھا اور نام کے مسلمان تھے اس میں کوشش اور خاص سرگرمی سے ایک مذہبی حمیت اور عزت پیدا کی گئی، اور اب عام و خاص مسلمانوں میں خلافت اسلامی کی بقا کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور سب مسلمان متحد ہو گئے ہیں، مگر بد نصیبی سے ایک شخصیت اپنی خود غرضیوں اور ذاتی خفیہ قواعد سے مسلمانوں کی جماعت میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے، اور چند حاسد مسلمان اس کے اغوا کی وجہ سے بقرعید میں قربانی گائے کی کرنے کے لیے صرف اس واسطے متفق ہیں کہ مسلمانوں کے متفقہ سیاسی اصول میں داعی ہو کر برادرانِ ہنود کی نہ

(۱) مجموعۃ الفتاویٰ للشیخ عبدالحی فرغی محلی أسکنہ اللہ فی جنانہ: ۲/۱۳۰، کتاب العقائد، استفتاء نمبر: ۵۶، مطبوعہ: مطبع شوکت اسلام۔

(۲) مجموعۃ الفتاویٰ: ۲/۱۳۱، کتاب الأضحیۃ. استفتاء نمبر: ۵۸۔

صرف دل آزاری بلکہ باہم مسلمانوں اور ہنود میں پھر وہی بغض و عناد پیدا ہو جائے اور مسئلہ خلافت میں پھر کمزوری پیدا ہو جائے، اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو جماعت اسلامی میں انتشار پیدا کرے اور خلافت کے چندہ اور جلسوں کی شرکت سے اور ترک موالات سے روکتا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ سب مسلمان اس کا مقاطعہ کر دیں؟ (۱۳۳۸/۲۰۹۲ھ)

الجواب: کسی مسلمان سے مقاطعت اور متارکت اس بناء پر ہو سکتی ہے کہ وہ کسی جرم شرعی کا مرتکب ہو، اور محصیت خدا تعالیٰ و رسول اللہ کا مرتکب ہو، لیکن گائے کی قربانی جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے جاری ہے اور کتاب و سنت سے اس کا جواز ثابت ہے، اور خود آنحضرت ﷺ نے گائے ذبح کی ہے (۱) تو گائے کا ذبح کرنا اور گائے کی قربانی کرنا جرم شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟! جو اس کے مرتکب کو مجرم شرعی قرار دیا جاوے اور اس سے متارکت کی جاوے، حاصل یہ ہے کہ ہم وطنان کی رعایت کی وجہ سے اپنے مذہبی امور میں خلل ڈالنا نہ چاہیے، موافقت ان کے ساتھ اسی حد تک ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام میں کچھ مداخلت نہ ہو، اور گائے کی قربانی اسی اختیار کے ساتھ جاری رہے جس طرح پہلے سے تھی۔ فقط

جو شخص مسجد کی تعمیر کروانے میں کفار کی حمایت کرتا ہے اس سے متارکت کرنا سوال: (۸۸۵) مسلمانوں نے مسجد تعمیر کرنا چاہا، جاٹوں نے منع کیا، عدالت میں نوبت پہنچی، مسلمانوں کی ملکیت ثابت ہوئی، مگر بعض مسلمانوں نے جاٹوں کے ساتھ ہو کر شہادت دی اور دوبارہ جاٹوں کو اپیل کے لیے براہیجختہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۱۷۷۸ھ)

الجواب: مسلمانوں کا قوم کفار کے ساتھ ہو کر تعمیر مسجد سے روکنا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا فاسق ہے، اور اس کے معاونین بھی فاسق ہیں تنبیہا ان سے متارکت درست ہے۔ فقط سوال: (۸۸۶) ایک نمبردار کے پاس تعمیر مسجد کے لیے چندہ جمع کیا، نصف مسجد تیار ہونے کے بعد ہنود سے مل گیا، اور مسجد کو روک دیا، اور باقی مسجد کے روپیہ کو جواب دے دیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۱۹۹۹ھ)

(۱) ملاحظہ فرمائیں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۱۵/۴۴۹-۴۵۰، کتاب الذبائح والصدید - سوال: (۱۳۲)



الجواب: وہ نمبر دار جس نے ایسا کیا سخت عاصی و فاسق ہے، اس سے توبہ کرائی جاوے، ورنہ اس سے جملہ تعلقات قطع کر دینا چاہیے۔ فقط

بد باطن اور مفسد سے علیحدہ رہنا چاہیے

سوال: (۸۸۷) اگر کوئی شخص عام لوگوں میں یہ کہے، بول سے قرآن شریف لکھنا جائز ہے، شراب حرام نہیں، حنفی مذہب کی توہین کرے، ایسے شخص سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور جو مسائل وہ بتلاتا ہے یہ صحیح ہیں یا کیا؟ (۱۳۳۵/۷۲)

الجواب: ایسا شخص مفسد اور بد باطن ہے، اس سے علیحدہ رہنا چاہیے اور یہ مسائل جو وہ بتلاتا ہے غلط ہیں۔ فقط

ڈھول بجانے والے، بچہ کی ناف کاٹنے والے

اور نو مسلم بھنگی کے ساتھ سلوک کرنا

سوال: (۸۸۸) مسلمان ڈھول بجانے والے کو اور جو بچہ کی ناف کاٹے اس کو جماعت مسلمانوں میں شریک کرنا کیسا ہے؟ ڈھول بجانے والا اگر توبہ کر لیوے اور بھنگی وغیرہ ہندو اگر مسلمان ہو جاوے تو ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷-۳۶/۳۷۴)

الجواب: مسلمان ڈھول بجانے والا فاسق ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے علیحدہ رہنا اور اس کو شریک نہ کرنا جائز ہے، اور بچوں کی ناف کاٹنا درست ہے اس پر کچھ عیب نہ کیا جائے، اور اگر ڈھول بجانے والا اس پیشہ سے توبہ کر لیوے اور بھنگی مسلمان ہو جائے تو اس سے احتراز نہ کیا جائے، بعد طہارت لباس و بدن وغیرہ اس کے ساتھ مواصلت و مشارکت جائز ہے۔

جس شخص کی شادی میں منکرات ہوں اس میں شرکت کرنا

سوال: (۸۸۹) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں:

جس کے بیاہ شادی میں اسباب لہو مثل باجا وغیرہ کے موجود ہوں اس میں شریک ہونا اور کھانا وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۶۷۰/۱۳۳۳ھ)

الجواب: نہیں چاہیے، خصوصاً مقتدا کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فقط  
سوال: (۸۹۰) جس شادی میں ممنوعات شرعیہ انگریزی باجا وغیرہ ہو، اس میں شرکت کرنے اور کھانے کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۹۶/۱۳۳۳ھ)

الجواب: درمختار کتاب الحظر والإباحة میں لکھا ہے کہ اگر پہلے سے ممنوعات شرعیہ انگریزی باجا وغیرہ کا علم ہو تو وہاں جانا نہیں چاہیے خواہ مقتدا ہو یا عوام میں سے ہو، عبارت اس کی یہ ہے: و إن علم أولاً باللعب لا يحضر أصلاً سواء كان ممن يقتدى به أولاً الخ (۱) فقط

جو مسلمان لڑکا ایک عرصہ ہندوؤں میں رہا اور سور کا

گوشت کھاتا رہا اس کو اپنی جماعت میں ملانا

سوال: (۸۹۱) ایک لڑکا مسلمان عمر غالباً پندرہ سولہ بھاگ کر ہندوؤں میں چلا گیا، انہوں نے عرصہ تک رکھا اور اس کو خنزیر کا گوشت کھلایا، پھر اس کو لے کر اس کے وارثوں میں آئے کہ اس کو تم اپنے میں ملاؤ، انہوں نے اس کو نہ ملایا، ایک دوسرے مسلمان نے دس روپیہ لے کر اس کو ملایا، اس کا حقہ پانی مسلمانوں نے علیحدہ کر رکھا ہے، اب اس لڑکے کے واسطے اور جس نے اس کو ملایا کیا حکم ہے؟ (۲۱۲/۱۳۳۳ھ)

الجواب: جب کہ وہ لڑکا توبہ کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو داخل اسلام کر لینا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے، اور اپنی جماعت میں ملا لینا چاہیے، اور کسی قسم کا پرہیز اس سے نہ کرنا چاہیے، اور جس نے اس کو ملایا اس کو علیحدہ نہ کرنا چاہیے، اور حقہ پانی اس کا بند نہ کرنا چاہیے۔ فقط

## سنی شیعہ ہو گیا پھر سنی مذہب اختیار کر لیا

### تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۹۲) زید سنی تھا پھر شیعہ ہو گیا، پھر مذہب سنی اختیار کیا تو اہل سنت کو زید کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور کیا سمجھنا چاہیے؟ (۳۵/۲۷-۱۳۳۶ھ)

الجواب: زید جو پہلے سنی تھا اور پھر رافضی ہو گیا، پھر جب مذہب باطل یعنی رفض سے توبہ کر کے سنی ہو گیا تو فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گیا، اور اہل حق میں سے ہو گیا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ اور معاملہ کرنا چاہیے۔ فقط

### گاؤں کی اکثریت بددین ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۹۳) ہمارے دیہات میں مرد علی الاکثر اور عورتیں علی الاطلاق بے نماز و بے روزہ اور جملہ احکام دین سے اجہل ہونے کے علاوہ ہزار ہا فسق و فجور و رسوم و انہی اور کفریات و لغویات میں راغب و منہمک و راسخ و مصر موجود ہیں، اب متقی کیا کرے؟ مع عیال و اطفال ہجرت پر قادر نہیں، آیا رہبانیت اختیار کرے یا کیا کرے؟ (۳۵/۱۶۹-۱۳۳۶ھ)

الجواب: ایسی حالت میں یہی غنیمت ہے کہ خود اوامر و نواہی شرعیہ کا پابند رہے اور حتی الوسع دوسروں کو بھی ترغیب خیر کی کرتا رہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (سورہ بقرہ: آیت: ۲۸۶)

### فاسق و مبتدع کو نکاح خوانی کے عہدہ سے معزول کرنا

سوال: (۸۹۴) زید کے خاندان سے پیشہ مجاوری چلا آتا ہے، اور بزرگوں کے مزار کے چڑھاوے کو کھاتے ہیں، اسی سے اہل و عیال کی پرورش ہوتی ہے، اور محرم میں اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے ہیں اور اس کا چڑھاوا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور زید بھی قاضی شہر کا نائب ہے، اور نکاح

خوانی کرتا ہے، تو کیا زید کا نائب ہونا جائز ہے؟ اور اس کے پڑھانے سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۵ھ/۳۲-۳۳)

الجواب: زید فاسق و مبتدع ہے، وہ شرعاً کسی ایسے عہدہ کے لائق نہیں ہے جو شرعاً معزز سمجھا جاوے، کیوں کہ فاسق شرعاً واجب الایمانت ہے اور تعظیم اس کی درست نہیں (۱) باقی نکاح جو اس نے پڑھا وہ صحیح ہو گیا، مگر آئندہ اس کو اس عہدہ سے علیحدہ کیا جاوے یا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ فقط

جو شخص اپنے آپ کو بددین کہتا ہے اس سے میل جول رکھنا

سوال: (۸۹۵) جو شخص مسلمان اپنے کو بددین کہے اس کے ساتھ کھانا جائز ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۵ھ/۱۰۱۷)

الجواب: ایسے شخص کے ساتھ کھانا پینا اور میل جول کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْكُفَرِیِّ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ﴾ (سورہ أنعام: آیت: ۶۸)

جو بے نمازی اذان کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟

سوال: (۸۹۶) اگر کوئی مال دار یا زمین دار بے نمازی ہو اور اذان سن کر مضحکہ اڑاتا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۵ھ/۷۴)  
الجواب: ایسے شخص کو تنبیہ کی جاوے کہ وہ توبہ کرے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس سے ترک کلام و سلام وغیرہ کر دیا جاوے۔ فقط

بے نمازی کی دعوت اور بیاہ شادی میں شریک ہونا

سوال: (۸۹۷) بے نمازی کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ اور اس کی بیاہ شادی میں شریک ہونا

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق في الأرض.

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش (شعب الإيمان للبيهقي: ۴/۲۳۰، باب في حفظ اللسان، رقم الحديث: ۴۸۸۵-۴۸۸۶، المطبعة: دار الكتب العلمية، بيروت)

کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۶۷۸ھ)

الجواب: فاسق کی دعوت کی اجابت ضروری نہیں ہے، اگر کھالیوے اور شریک ہو جاوے تو درست ہے۔

بے نمازی دھوبیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۸۹۸) پوربی دھوبی مسلمان نماز روزہ نہیں کرتے، عام مسلمان ان کے ساتھ ہندو کی طرح چھوت چھات کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵-۴۴/۱۳۸۶ھ)

الجواب: چھوت چھات ان سے جائز نہیں ہے، البتہ ان کو بہ وجہ ترک نماز کے تنبیہ کی جاوے، اور ان کو دکھایا (یعنی بتایا) جاوے کہ ہم تم کو کھانے پینے میں شریک نہیں کریں گے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جو شخص نماز کے بارے میں نازیبا بات کہے

اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے

سوال: (۸۹۹) ایک شخص نے نماز پڑھنے سے انکار کیا، اور فحش لفظ استعمال کیا، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۳/۱۷۹۰ھ)

الجواب: وہ شخص فاسق و عاصی ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اور اس سے ملنا جلنا ترک کر دینا چاہیے۔

جس شخص کا حال مشتبہ ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے

سوال: (۹۰۰) جس شخص کا حال مشتبہ ہو اور ڈاڑھی مونچھ منڈی ہوئی ہو، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہندو ہے یا مسلمان، اس سے اعتقاد رکھنا اور منت مانگنا شرعاً کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/۲۰۲۴ھ)

الجواب: ایسے لوگوں سے جن کا حال مشتبہ ہے اور صورت ان کی خلاف شریعت ہے احتراز

کرنا اور ان کی صحبت سے بچنا مسلمانوں کو لازم ہے، اور اپنی حاجتیں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے مانگنا درست نہیں ہے، اور ان پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے۔ فقط

### طلاق کی وجہ سے شوہر کی بستی والوں کا حقہ پانی بند کرنا

سوال: (۹۰۱) ایک شخص ساکن کرناں نے اپنی لڑکی کی شادی پانی پت میں کردی، شوہر نے عدم موافقت کی وجہ سے طلاق دے کر طلاق نامہ لکھ دیا اور مہر ادا کر دیا گیا، اس پر کرناں والوں نے پانی پت والوں کا حقہ پانی بند کر دیا، اور محمد اسماعیل و عبدالرحمن تیلی جو بدعات و رسومات سے علیحدہ رہتے ہیں، ان کا حقہ پانی پہلے سے بند ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ (۱۳۴۳/۲۷۹ھ)

الجواب: اس میں کوئی امر حقہ پانی بند کرنے کا نہیں ہے، جب کہ بہ وجہ عدم موافقت زوجین طلاق نامہ لکھا گیا اور مہر وغیرہ کا فیصلہ ہو گیا، پھر کسی کا حقہ پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے برادری والوں نے یہ کام برا کیا، اور محمد اسماعیل و عبدالرحمن جو بدعتوں سے اور رسوم سے علیحدہ رہتے ہیں ان کا حقہ پانی بند کرنا بھی برا ہے، اور یہ گناہ کے کام ہیں ایسی باتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ فقط

### احکام شرع سے ناواقف دہقانوں سے میل جول رکھنا

سوال: (۹۰۲) اگر گروہ دہقانوں کا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے بعض ان میں سے ڈاڑھی نہیں رکھتے، اور بعض بچوں کے سر پر چوٹی رکھتے ہیں، بعض کی ختنہ بھی نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں پڑھتے، البتہ کوئی کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، مانتا سینا وغیرہ کو پوجتے اور ان کی منت مانتے ہیں، قرآن شریف کی نسبت یہ خیال ہے کہ اصلی نہیں ہے، ان کو مسلمان کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا اور دفن کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ان کے ساتھ کھانا پینا اور ماتم پرستی کرنا، اگر وہ تیجا چہلم وغیرہ میں بلاویں تو جانا چاہیے یا نہیں؟ میت والوں کو کھانا دینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۶-۳۵/۲۳۵ھ)

الجواب: ان کو مسلمان ہی سمجھنا اور کہنا چاہیے، اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دفن کرنا چاہیے، اور بیمار پرسی اور تعزیت کرنی چاہیے، اور میت کے گھر والوں کو کھانا دینا سنت ہے (۱) لیکن

(۱) عن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما قال : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ ==

رسوم سویم و دہم و چہلم میں شریک نہ ہو، اور رفتہ رفتہ ان سے بھی ایسے خلاف شرع رسوم کو چھڑانا چاہیے، وہ قوم جاہل ہے، مسائل شرعیہ اور احکام اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ابھی ان کے اسلام میں بہت نقص ہے، بہ تدریج ان کو مسائل اسلام بتلانا اور سمجھانا لازم ہے، درحقیقت ایسے لوگوں کو ہدایت پر لانا اور گمراہی سے نکالنا اور صحیح صحیح مسائل اسلام کے موافق مذہب اہل سنت و جماعت کے ان کو تعلیم کرنا بہت ضروری ہے اور نہایت اجر و ثواب کا کام ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی! اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرمادے تو تمہارے لیے حُمْرِ نَعَم (سرخ اونٹوں) سے بہتر ہے (۱) حُمْرِ نَعَم یعنی شتر سرخ (سرخ اونٹ) اہل عرب کے نزدیک نہایت محبوب مال تھا، پس جب کہ ایک شخص کی ہدایت پانے میں ذریعہ ہدایت کے لیے یہ بشارت ہے تو ایک قوم کو ہدایت کرنے میں کیا کچھ بشارت اور ثواب ہوگا؟!

## جو امام سرکاری ہدایت کی خلاف ورزی کرنے

### والوں کی مخبری کرتا ہے اس سے میل جول رکھنا

سوال: (۹۰۳) ہمارا قصبہ ایک ہندو کی ریاست میں ہے، چند سال سے یہاں کے رئیس ہندو کی جانب سے تمام ریاست میں یہ ہدایت جاری ہوئی ہے کہ کوئی درس گاہ علمی بلا اجازت سرکار قائم نہ کی جائے، لیکن چند معلم اپنا فرض منصبی سمجھ کر یا (سرکاری) ہدایت سے واقف نہ ہونے کی وجہ

== صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصنعوا لأهل جعفر طعاماً ، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم (جامع

الترمذي: ۱/۱۹۵، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت)

وفي الشامي: قوله: (وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأبعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلخ (الشامي: ۳/۱۳۸، كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - مطلب في الثواب على المصيبة)

(۱) عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يفتح على يديه ..... فقال أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه فأمر فدُعي له .....

فواللّٰهُ لأن يُهْدَى بك رجل واحد خير لك من حُمْرِ النّعَم (صحيح البخاري: ۱/۴۱۳، كتاب

الجهاد، باب دعاء النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الإسلام إلخ)

سے اب تک قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے، اور سرکار کی طرف سے ان کے تعلیم دینے کی کوئی ممانعت بھی نہیں کی گئی، لیکن ان معلمین کی تعلیم کے متعلق ایک شخص نے جو مولوی کہلاتا ہے اور مدرسہ اسلامیہ کا مہتمم بھی ہے، اور امام جمعہ بھی ہے سرکار میں مخبری کی کہ فلاں فلاں شخص بلا اجازت سرکار تعلیم دے رہے ہیں ان کی بندش کی جائے، چنانچہ معلمین کو عدالت میں طلب کیا گیا، جو شخص قرآن شریف کی تعلیم کو غیر مذہب کے ذریعہ سے بند کرانے کی کوشش کرے ایسے شخص سے شرعاً میل جول رکھنا یا اس سے امامت کرانا اور اس کی تعظیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۷۸ھ)

الجواب: اگر اس شخص نے واقعی رئیس کو خبر کی ہے تو اس سے وجہ اس کی دریافت کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر اس نے واقعی خبر کی ہے تو اس کو کوئی وجہ خاص اس اطلاع کی پیش آئی ہو، اور ان معلمین کو یہ لازم تھا کہ جب کہ اس رئیس نے یہ حکم جاری کیا تھا تو وہ اطلاع کر کے اور اجازت لے کر مکاتب جاری کرتے، کیونکہ ایسے امور مخفی نہیں رہتے اور مخفی رکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ رئیس اجازت لینے پر اجازت دے دیتا، اور اجازت نہ لینے میں معلموں کو سزا یا جرمانہ ہو جانے کا خوف ہے، اور حدیث شریف میں ہے: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (۱)** یعنی مدار اعمال کا نیت پر ہے، اور نیت کا حال علام الغیوب کو ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ پس مسلمانوں کو اس امر میں کوشش کرنی چاہیے کہ رئیس سے کہیں کہ تعلیم قرآن و مسائل دین ہمارا مذہبی حکم ہے اس کو جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے، اور جس قدر مکتبوں کی ضرورت ہے ان کو جاری کرنے کی اجازت لے لیں، تاکہ پھر کوئی خدشہ اور خطرہ نہ رہے، اور اگر اس مخبر نے بری نیت سے ایسا کیا ہے تو اس کا مواخذہ اس پر ہے، آپ لوگ اس سے کچھ تعرض نہ کریں اور اپنا کام پکا کر لیں اور اجازت لے کر مکتب جاری کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### دھوکے باز سے میل جول رکھنا

سوال: (۹۰۴) اگر کوئی شخص کسی کا روپیہ خورد برد کرے اور اس کا کام پورا نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ اور اس سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۱۲۵۰ھ)

(۱) صحیح البخاری: ۲/۱، باب کیف کان بدؤ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.



الجواب: دھوکا دینا کسی مسلمان کو اور ظلم کسی کا مال حرام طریق سے لے لینا حرام اور ناجائز ہے، ایسے لوگوں سے میل جول اچھا نہیں ہے۔

جس شخص کو جماعت سے خارج کر دیا ہے اس کو مسجد سے روکنا درست نہیں

سوال: (۹۰۵) اگر کسی مسلمان کو کسی مذہبی قصور کی وجہ سے کسی انجمن نے خارج از جماعت کر دیا ہو، آیا یہ خارج کیا جانا اور جماعت نماز و داخلہ مسجد سے منع کیا جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟  
(۵۰۷/۱۳۳۸ھ)

الجواب: مسجد سے اس کو روکنا اور نماز باجماعت پڑھنے سے اس کو منع کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۱۴) اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو مسجدوں میں آنے اور اللہ کا نام لینے سے کسی کو منع کرے۔ فقط

جو شخص بچے کو مسجد میں لایا اس کو شیطان کہہ کر مسجد سے نکال دینا

سوال: (۹۰۶) ایک شخص اپنے بچہ کو لے کر مسجد میں جمعہ کی نماز کو گیا، اثنائے نماز میں بچہ رونے لگا، بعد نماز کے ایک شخص نے یہ کہا کہ نماز میں خلل ڈالنا اور رونا شیطان کا کام ہے، اور جو شخص اس بچہ کو لے کر آیا وہ خود شیطان ہے، اس شیطان کو مسجد سے باہر کرو، چنانچہ اس کو مع بچہ کے مسجد سے باہر نکال دیا، اور نماز جمعہ دوبارہ پڑھوائی، اس صورت میں بچہ کو لانے والے پر کچھ کفارہ ہے یا نہیں؟ اور جس نے اس کو شیطان کہا اور مسجد سے نکلوا یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اعادہ نماز جمعہ کا صحیح ہوایا نہیں؟ (۳۳۸/۱۳۴۵ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: جَنَّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيَكُمْ (۱) یعنی

(۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنَّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيَكُمْ وَشُرَاءَ كُمْ الْحَدِيثِ (سنن ابن ماجه: ص: ۵۴، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد)

لڑکوں اور دیوانوں کو مسجد سے علیحدہ رکھو، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بچہ کا مسجد میں لے جانا بعض صورتوں میں مکروہ ہے (۱) لیکن یہ جو اس صاحب نے بعد نماز کے اعلان کیا کہ جو شخص اس بچہ کو لے کر آیا وہ شیطان ہے اور نماز جمعہ کے اعادہ کا حکم دیا یہ غلط ہے، نماز جمعہ صحیح ہوگئی تھی اور اعادہ کی ضرورت نہ تھی، اور بچہ کو لانے والے کو مسجد سے نکلوانا اور اس کو شیطان کہنا یہ سب حرام اور ناجائز ہے، اس صورت میں بچہ کے لانے والے پر کچھ کفارہ نہیں ہے، اس کو صرف اس قدر نصیحت کر دینا کافی ہے کہ جب تک وہ بچہ زیادہ چھوٹا ہے اور اس کو تمیز نہیں ہے اس وقت تک اس کو مسجد میں نہ لاوے، اور جس نے نکلوایا اور شیطان کہا وہ گنہ گار ہوا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے خطا معاف کرانی چاہیے جس کو مسجد سے نکالا اور شیطان کہا۔ فقط

جو شخص اپنی بہنوں کا نکاح کرنے سے انکار کرتا ہے اس سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۹۰۷) ایک شخص کی کئی بہنیں ہوں جن کی عمر ۳۰، ۳۶، ۳۸ سال کی ہو، ان کا نکاح دیدہ و دانستہ نہ کرے، نکاح کرنے سے انکار کرے، اپنی شادی کر لیوے، اپنی زوجہ کے ساتھ شب کو سامنے ہم بستر ہو، ان کے دل کو صدمہ پہنچے، اس شخص کے ساتھ ملنا جلنا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۸ھ/۱۹۶۲ء)

الجواب: اگر باوجود کفو ملنے کے وہ اپنی بہنوں کا باوجود اس قدر عمر ہو جانے کے نکاح نہ کرے تو وہ بے شک خطا پر ہے اور عاصی ہے، اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے اگر نہ مانے تو اس سے اگر تنبیہ قطع تعلق بھی کر دیا جاوے تو بے جا نہ ہوگا۔ فقط

پچھلی باتوں کا خیال کر کے متارکت کرنا درست نہیں

سوال: (۹۰۸) ایک عورت بدچلن تھی اسی وجہ سے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، پھر ایک

(۱) و یحرم إدخال صبیان و مجانین حیث غلب تنجیسہم ، وإلا فیکرہ ، وفي الشامي: قوله : (وإلا فیکرہ) أي تنزیہاً (الدر المختار ورد المحتار: ۳۷۱/۲ ، کتاب الصلاة ، باب ما یفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا ، مطلب فی احکام المسجد)

شخص کے ساتھ وہ بھاگ کر چلی گئی، آخر اس کے باپ بھائیوں نے اس کو وہاں سے لا کر دوسری جگہ نکاح کر دیا، اب بعض آدمی اس کے باپ بھائیوں سے ملتے ہیں اور بعض نہیں ملتے، ان سے ملنا چاہیے یا متارکت کر دینی چاہیے؟ (۳۹۰/۳۹۷ھ)

الجواب: اب جب کہ لڑکی کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو اب پچھلی باتوں کی طرف لوگوں کو کچھ خیال نہ کرنا چاہیے اور متارکت نہ کرنی چاہیے۔ فقط

### فاسق معطن سے کنارہ کشی بہتر ہے

سوال: (۹۰۹) اگر زید یہ کہے کہ ہم تورنڈی باز و لونڈے باز ہیں تو شرعاً زید سے کیا معاملہ رکھنا چاہیے؟ (۱۱۰۳/۱۳۳۹ھ)

الجواب: ایسے فاسق معطن سے کنارہ کشی بہتر اور مناسب ہے۔

### لوگوں کی حق تلفی کرنے والے سے میل جول رکھنا

سوال: (۹۱۰) جو کسی کی حق تلفی کرے اور اس کا حق کھاوے اس سے خلا ملا کہاں تک رکھنا چاہیے؟ (۱۶۷۳/۱۳۴۰ھ)

الجواب: اس سے محبت اور اختلاط رکھنا ناجائز ہے، ایسے شخص سے مقاطعت اور علیحدگی کی جاوے۔ فقط

### عاشق نے معشوقہ کی لڑکی کو جو جائداد دی ہے وہ حلال ہے

### اور اس کی شادی غمی میں شرکت کرنا جائز ہے

سوال: (۹۱۱) ایک عورت مسلمہ کا ناجائز تعلق ایک ہندو کے ساتھ تھا، اس وجہ سے ہندو مذکور نے عورت مذکورہ کی لڑکی کے نام اپنی تمام جائداد سرکاری کاغذات میں کرا دی، پس ازیں یہ ہردو فوت ہو گئے، اور لڑکی کو حسب تحریر جائداد مل گئی، آیا جو اس قسم کی جائداد سے مال حاصل کیا گیا ہو، مسلمانوں کو اس کی شادی غمی میں شرکت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۸۵/۱۳۴۰ھ)

الجواب: اس لڑکی کے لیے وہ مال حلال ہے، اور اس کی شادی غمی میں شرکت جائز ہے۔ فقط

جو پورپین طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے

وہ انجمن اسلامیہ کا صدر ہو سکتا ہے؟

سوال: (۹۱۲) جو شخص مسلمان اپنی زندگی پورپین طریقہ سے بسر کرتا ہو حتیٰ کہ صوم و صلاۃ کا بھی پابند نہ ہو، اور پورپین کے ناچ میں شریک ہوتا اور ناچتا ہو، کیا ایسا شخص ایک انجمن اسلامیہ کا صدر شرعاً ہو سکتا ہے؟ (۱۶۹/۱۳۴۰ھ)

الجواب: اگر مقرر کر دیا جاوے گا تو ہو جاوے گا، لیکن مقرر کرنا ایسے شخص کو ایسے کام پر مناسب و لائق نہیں ہے۔

جو اپنے استاذ کو گالیاں دیتا ہے اس سے میل جول رکھنا

سوال: (۹۱۳) زید نے عمر سے کلام مجید پڑھا ہے، اب کسی دنیاوی لالچ کے باعث زید عمر کا دشمن بن گیا ہے، اور اپنے استاذ عمر کو گالیاں دیتا اور بے عزتی کرتا ہے، کلام مجید پڑھانے سے عمر زید کا استاذ ہوا یا نہیں؟ اور اس قسم کی گستاخی اور دشنام دہی سے استاذ کا عاق ہوا یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ میل جول کا کیا حکم ہے؟ (۱۶۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: بے شک عمر زید کا استاذ ہے، اور سب دشتم کرنا اول تو ہر ایک بھائی مسلمان کو گناہ کبیرہ ہے (۱) خصوصاً استاذ کے ساتھ ایسی گستاخی کرنا نہایت قبیح ہے، زید اس فعل کی وجہ سے فاسق ہے اور عاق ہو گیا، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے استاذ سے قصور معاف نہ کرائے تو متارکت اس سے درست ہے۔ فقط

(۱) عن عبد اللہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سباب المسلم فسوق الحدیث (صحیح البخاری: ۱۲/۱، کتاب الإیمان - خوف المؤمن من أن يحبط عمله الخ، وفيه أيضًا: ۸۹۳/۲، کتاب الأدب - باب ما ينهی عن السباب واللّعن، و أيضًا: ۱۰۴۸/۲، کتاب الفتن - باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا)

جو شخص پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس سے مقاطعت کرنا

سوال: (۹۱۴) زید نے ایک پاک دامن عورت جو اس کے گھر کے پاس رہتی ہے اس کو مجلس عام میں بدیں الفاظ کہا کہ تو زانی ہے، اور تیری اولاد حرامی ہے، عورت مذکورہ نے اپنے نزدیکوں سے کہا کہ فلاں شخص مجھ کو تہمت زنا لگاتا ہے، جب مجلس معہ قاضی کے قائم ہوئی اور اس سے دریافت کیا تو زید نے اقرار کیا کہ واقعی جو میں نے کہا یہ سچ ہے، جب زید سے گواہ طلب کیے تو زید کوئی گواہ پیش نہ کر سکا۔ ایسے شخص سے ملنا چھوڑ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۵ھ/۷۳-۷۴)

الجواب: کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے (۱) اور اگر دارالاسلام ہوتا تو تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جاتی، یعنی اسی (۸۰) کوڑے لگائے جاتے، مگر چونکہ یہ ملک دارالاسلام نہیں ہے، اس لیے حد جاری نہیں ہو سکتی، لیکن وہ شخص تہمت لگانے والا فاسق ہے تو بہ کرے اور معاف کراوے، اور اگر توبہ نہ کرے اور معاف نہ کراوے تو اس سے ملنا چھوڑ دیا جاوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### نابالغ کا حقہ پانی بند کرنا ظلم ہے

سوال: (۹۱۵) ایک لڑکے نابالغ نے غلطی سے ایک چمار کے گھر کھانا کھالیا، یا اس کے یہاں پانی پی لیا، اہل دیہات نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا، کیا یہ اس کا فعل درست ہے؟ اگر کوئی شخص کسی چماری سے زنا کرے یا بھنگی وغیرہ سے یا بے نکاحی عورت کو اپنے پاس رکھے، تو اس کے ساتھ

(۱) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (سورہ نور، آیت: ۲۳)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: (۱) الشرك بالله. (۲) والسحر. (۳) وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. (۴) وأكل الربا. (۵) وأكل مال اليتيم. (۶) والتولي يوم الرّحف. (۷) وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (صحيح البخاري: ۱۰۱۳/۲، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب رمي المحصنات)

کیا برتاؤ کیا جاوے؟ (۱۲۱۶/۴۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: نابالغ کو شریعت سے بھی تکلیف نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے: رفع القلم عن ثلاثة الحديث (۱) پس اس نابالغ لڑکے کا حقہ پانی بند کر دینا اس وجہ سے کہ اس نے غلطی سے چمار کے گھر کھانا کھالیا یا پانی پی لیا جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔

اور جو مسلمان کسی عورت سے زنا کرے خواہ وہ چماری ہو یا بھنگی یا مسلمان یا کافر وہ فاسق ہے۔ اسی طرح بے نکاحی عورت کو رکھنے والا فاسق ہے، یہ لوگ اگر توبہ نہ کریں تو ان کا حقہ پانی بند کر دیا جاوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### خوفِ ضرر کی وجہ سے قطع تعلق کرنا

سوال: (۹۱۶) جس مسلمان سے ضرر پہنچنے کا خیال ہو اس سے قطع تعلق کرنا کیسا ہے؟

(۱۳۳۵/۱۹۷۶ھ)

الجواب: کسی مسلمان سے بے وجہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں، لیکن خوفِ ضرر اگر تعلق سے مانع ہو تو اپنے کو علیحدہ رکھے اور خود اس کی ایذا رسانی کی فکر نہ کرے، کیوں کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جو لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں مگر مسلمانوں سے سخت

نفرت رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۹۱۷) جو قوم بہ وقت نکاح کلمہ وصفت ایمان قاضی کے پڑھانے سے پڑھتے ہیں

(۱) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (سنن أبي داود، ص: ۶۰۵، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا)

(۲) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث (صحيح البخاري: ۶/۱، كتاب الإيمان - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)

اور احکام نماز سے کچھ واقفیت نہیں رکھتے، اور جنازہ کی نماز مسلمانوں سے پڑھواتے ہیں، اور اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، مگر مسلمانوں سے کچھ میل و جول و خور و نوش وغیرہ سے سخت نفرت رکھتے ہیں، ان کی ظاہری معاشرت ہندوؤں کی سی ہے جیسے بتوں کا پوجنا اور کان چھدوانا اور نام ہنود کے رکھنا اور جو مسلمانوں کے ساتھ خور و نوش کرے اس کو اپنے سے خارج کر دیتے ہیں، یہ قوم مسلمان ہے یا کافر؟ اور ان کا گوشت کھانا اور اس قوم کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷ھ/۱۳۳۹ھ)

الجواب: جب کہ ایسی قوم قاضی کے کلمہ پڑھانے سے کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر پہلے رسوم شرکیہ بھی کی تھیں تو کلمہ ایمانی کے پڑھنے سے وہ سب کفر و معاصی کی معصیت اور گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ الوسع ایسے لوگوں کی ہدایت میں سعی بلیغ کی جائے اور ان سے رسوم شرک و کفر چھڑائی جائیں، ان کو مسلمان کیا جائے اور احکام اسلام بتائے جائیں، اور بعد کلمہ پڑھ لینے کے ان کی عورتوں سے نکاح درست ہے، ایسے لوگوں سے خوب میل جول اور ربط و ضبط کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی اہل اسلام سے انس حاصل ہو، اور رفتہ رفتہ رسوم کفر و شرک کو وہ چھوڑ دیں، اور ان کی تالیف قلب کرنی چاہیے، اگر مسلمانوں کے مدارات اور اختلاط سے اس قوم کو ہدایت ہوگئی تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، بہ تدریج اور بہ نرمی و بہ حکمت ان کو احکام اسلام بتلانے چاہئیں۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۱۲۵) وَاللَّهُ الْمُؤَفَّقُ. فقط

جس نے گناہ سے توبہ کر لی اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے

سوال: (۹۱۸) زید اور ہندہ میں ناجائز تعلق رہا، معلوم ہونے پر برادری نے زید کو علیحدہ کر دیا اور اس کے ساتھ خور و نوش بند کر دی، ہندہ نے فوراً خالد سے عقد کر لیا، اب زید نے صدق دل سے توبہ کر لی ہے، لیکن اب تک چند آدمی نے اس سے میل ملاپ نہیں کیا، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳ھ/۸۹۲ھ)

الجواب: اس گناہ کی سزا اس وقت یہی ہے کہ زید صدق دل سے توبہ کرے اور پھر کبھی مرتکب اس فعل کا نہ ہو، پس جب کہ زید نے توبہ نصوح کر لی تو اس کے ساتھ میل ملاپ اور کھانا پینا سب

جائز ہے، اب اس سے احتراز نہ کرنا چاہیے، جو لوگ اب تک اس سے علیحدہ رہے اور میل ملاپ نہیں کیا ان کو بھی چاہیے کہ اس سے میل ملاپ کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے: **التائب من الذنب كمن لا ذنب له (۱) فقط**

سوال: (۹۱۹) مسماۃ نصیین نے اپنی بیمار لڑکی کو جس کی عمر پانچ چھ یوم کی تھی بہ غرض صحت پانے کے دوسروں کے کہنے سے لے جا کر سور کے باڑے میں ڈال دیا تا کہ صحت ہو جائے، مگر وہ اسی روز مرگئی، معلوم ہونے پر مسلمانوں نے اس سے قطع تعلق کر دیا، اب مسماۃ توبہ کرتی ہے، اب اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، توبہ کے بعد کچھ کفارہ بھی ادا کرے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۳۳ھ)

الجواب: مسماۃ مذکورہ جب کہ توبہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں، اول تو اس نے لاعلمی کی حالت میں یہ فعل کیا تھا، پھر خصوصاً جب کہ توبہ بھی کرتی ہے تو التائب من الذنب كمن لا ذنب له (۱) کی فہرست میں داخل ہوگئی۔

### بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کا مطلب

سوال: (۹۲۰) بغض فی اللہ اور حب فی اللہ رکھنے کا حکم کس سے ہے؟ اور فاسق معلن نے اگر دو چار روز سے فسق نہ کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳-۳۳/۷۸ھ)

الجواب: صلحاء اور نیک لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت رکھنا حب فی اللہ ہے، اور ظالموں فاسقوں سے بہ سبب ان کے ظلم و معصیت کے دل میں بغض رکھنا بغض فی اللہ ہے، افرادِ ناس میں اسی کے موافق یہ حکم جاری ہوگا جب تک کوئی فاسق معلن اپنے فسق سے توبہ نہ کرے اور آثار توبہ ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک اس سے اس فعلِ معصیت کی وجہ سے بغض رکھے، جس وقت توبہ اس کی ظاہر ہو اور آثار توبہ معلوم ہوں اس وقت بغض نہ رکھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (مشکاۃ المصابیح، ص: ۲۰۶، کتاب أسماء اللہ تعالیٰ، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث)



## جن ذاتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے اُن سے میل جول رکھنے کا بیان

ذاتیں اور خاندان محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں

سوال: (۹۲۱) ذات میں کیوں فرق ڈالا گیا؟ مثلاً شیخ، سید، مغل، پٹھان، کنجڑا، قصاب۔

(۱۳۳۰/۱۳۳۳ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّفَاقُكُمْ﴾ (سورہ حجرات: آیت: ۱۳) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انساب کا اختلاف اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور تعارف اقوام اختلاف قبائل سے ظاہر ہوتا ہے۔

مسلمان دھوبی کو کمتر سمجھ کر امتیازی معاملہ کرنا

سوال: (۹۲۲) ملک بنگال خصوصاً اس دیار کے عام مسلمان لوگ بہ سبب بے علمی قرآن شریف وحدیث کے ہماری قوم اسلام حواری عرف دھوبی کے ساتھ جو کہ پابند شریعت ہیں ٹھٹھا و بہ نظر حقارت دیکھتے ہیں، مسجد میں بھی ہمارے ساتھ حقارت سے پیش آتے ہیں، اگر مسجد میں کوئی چیز از قسم طعام آجائے تو ہم لوگوں کو علیحدہ بٹھلا کر حقارت کے ساتھ دیتے ہیں، گویا ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۱۸۹۸ھ)

الجواب: مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا چاہیے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں جیسا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: المسلم أخو المسلم الحديث (۱) پس چاہیے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرے اور اس کو کمتر اور ذلیل اور ذلیل نہ سمجھے، یہ بہت برا ہے اور اس کا مواخذہ شدید ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق نیک عطا فرمائے اور باہم اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ فقط

سوال: (۹۲۳) شہر بہرائچ میں بعض مسلمان دھویوں کے ساتھ صرف اس بناء پر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیشہ آبائی اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پاکی اور صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور بہت سے دھوبی نماز روزہ کے بھی پابند ہیں، ایسی حالت میں اس قوم سے پرہیز اور علیحدہ رہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور چھوت چھات ان سے برتنا کیسا ہے؟ (۱۳۴۳/۴۸۵ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) پس جب کہ معلوم ہوا کہ جملہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کسی قوم کو کم قوم سمجھ کر ان سے متارکت کرنا اخوت و ہمدردی اسلام کے خلاف ہے، پس دھویوں کی قوم جن کا ذکر سوال میں ہے، ان سے علیحدگی کرنا اور کھانے پینے وغیرہ میں ان سے علیحدگی کرنا اور چھوت چھات کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور جو مسلمان ان سے چھوت چھات کریں اور ان سے کراہت کریں باوجود ان کے نمازی اور پاک و صاف ہونے کے وہ گنہگار ہیں۔ فقط

### جاگیرداروں کا دوسری قوموں پر فخر کرنا

سوال: (۹۲۴)..... (الف) قوم ملکی (جاگیردار) کو دوسری قوموں درزی جولاہا پر فخر کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) کیا قوم ملکی کو اولاد آدم پر امتیاز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۵/۷۴ھ)

(۱) عن عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلَمُهُ الحديث (صحيح البخاري: ۳۳۰/۱، أبواب المظالم والقصاص، باب لا يظلم المسلم المسلم، ولا يسلمه)

الجواب: (الف) نسب پر فخر کرنا کسی کو جائز نہیں ہے اور دوسری قوموں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۳) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں بزرگ تر اور بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پس قوم ملکی کو درزی، جولہا پر فخر کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔

(ب) تمام بنی آدم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، امتیاز اور فخر تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے ہے (۱)

### مسلمان بھنگی سے نفرت کرنا

سوال: (۹۲۵) ایک مہتر یعنی بھنگی مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے پیشہ کو نہیں چھوڑا، اس وجہ سے اکثر مسلمان اس کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے اور نفرت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو برادری کی عار آتی ہے، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۳۵/۵۴۰-۱۳۳۶ھ)

الجواب: جب کہ وہ مہتر مسلمان ہو گیا تو اس کے ساتھ کھانے پینے سے احتراز نہ کرنا چاہیے، رہا اس کا اپنے پیشہ کو نہ چھوڑنا تو شرعاً اس میں کچھ حرج نہیں ہے، عرب میں اور حرمین شریفین میں یہ پیشہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اور جب کہ وہ نہادھو کر صاف ہو جائیں تو پھر ان سے احتراز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دنیاوی عار کا کچھ خیال نہ کرنا چاہیے، چونکہ ان بلاد میں اس کی عادت نہیں ہے اور بھنگی مسلمان کمتر ہوتے ہیں، اور یہ پیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے اس لیے اس قدر تشفُّر اُن سے ہے، ورنہ مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی وجہ شرعاً ان سے احتراز کرنے کی نہیں ہے۔ فقط

### جونو مسلمہ شرک کی باتیں کرتی ہو اس کا حقہ پانی بند کرنا

سوال: (۹۲۶) ایک چماری نو مسلمہ جب سے مسلمان ہوئی ہے کبھی نماز روزہ نہیں کیا اور

(۱) وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : أنسابکم هذه لیست بمسبۃ علی أحد، کلکم بنو آدم طفّ الصّاع بالصّاع لم تملؤہ ، لیس لأحد علی أحد فضل إلا بدین وتقوی، کفی بالرجل أن یكون بذیا فاحشا بخيلا (مشکاۃ المصابیح: ص: ۴۱۷-۴۱۸، کتاب الأدب، باب المفاخرة والعصیة، الفصل الثانی والثالث)

شرک کی باتیں کرتی ہے، اس وجہ سے بستی والوں نے حقہ نہیں دیا، اب ایک مولوی صاحب نے کچھ روپیہ لیا ہے اور حقہ دینے کو کہتے ہیں، اس بارے میں حکم شریعت کا کیا ہے؟ (۳۶/۱۷۷-۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس صورت میں وہ عورت مسلمان ہے اس کو شرک کی باتوں سے روکنا چاہیے، اور نماز روزہ سکھانا چاہیے نرمی کے ساتھ، سختی نہ کرنی چاہیے، چونکہ وہ احکام اسلام سے ناواقف ہے اس لیے اس کو سمجھا کر نماز روزہ کی تعلیم دینی چاہیے، اور حقہ بھی دینا چاہیے، یہی مطلب ان مولوی صاحب کا ہوگا جو اس کو حقہ دینے کے لیے فرماتے ہیں۔ فقط

اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا رسوم جاہلیت سے ہے

سوال: (۹۲۷) کوئی شخص پڑھا لکھا اور حافظ قرآن ہو کر دوسرے شخصوں کو جو پیشہ جولاہا، نداف (دُھنیا) تیلی وغیرہ کا کرتے ہیں، کسی گنتی میں شمار نہ کرے، اور اگر کہیں ان لوگوں کا اچھا ذکر بھی ہو تو فوراً یہ جواب دے کہ نہیں وہ تو جولاہا ہے، وہ کیا ہم سے بات یا خط و کتابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ شرع میں یہ بات جائز نہیں، تو جواب دے کہ تم ہر بات میں شرع کو کیوں لیتے ہو؟ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۳۹۲/۱۳۳۷ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۳) یعنی بے شک بزرگ تر تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، پس فخر بالانساب اور اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا رسوم جاہلیت سے اور مذموم و قبیح ہے، اس کی مذمت شرع میں وارد ہے (۱) اور اسی طرح شریعت کے احکام کو سن کر یہ کہنا کہ تم ہر بات میں شرع کو کیوں لیتے ہو، سخت

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ..... إن الله قد أذهب عنكم عُيبَةَ الجاهلية و فخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى، الناس كلهم بنو آدم، و آدم من تراب.


و عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد، كلکم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملؤه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى، كفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا (مشكاة المصابيح، ص: ۴۱۷-۴۱۸، كتاب الأدب، باب المفاخرة والعصية، الفصل الثاني والثالث)

خوفناک امر ہے اور بڑی معصیت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ فقط

### بے نمازی سید سے نمازی غیر سید افضل ہے

سوال: (۹۲۸) دو شخص ہیں ایک اپنے کو سید کہتا ہے، لیکن شرابی زانی و بے نمازی ہے، ایک شخص ادنیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن نمازی پابند شریعت ہے، کون دونوں میں سے افضل ہے؟  
(۳۳۲۹/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: ان دونوں میں جو شخص نمازی پر ہیزگار پابند شریعت ہے وہ افضل ہے ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم



## نومسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کا بیان

### نومسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۹۲۹) ایک برہمن ایک مسماۃ خا کروہ سے تعلق ناجائز پیدا کر کے بھگالے گیا، اب وہ زن و مرد چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوں اور سب مسلمانوں کے ساتھ خورد و نوش رکھیں، تو وہ کس طریق سے مسلمان کیے جائیں؟ اور اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اور مٹی کے برتن وغیرہ ان کے چھوئے ہوئے قابل استعمال ہیں یا نہیں؟ اور ان کو عالم کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان مسلمان کر سکتا ہے یا نہیں؟ آیا عورت کے بال منڈوانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور وہ مرد بلا ختنہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا بعد مسلمان ہونے کے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۸/۵۹۴ھ)

الجواب: ان دونوں کو ہر ایک مسلمان واقف کلمہ اسلام کا پڑھا سکتا ہے اور مسلمان کر سکتا ہے، دونوں کو مسلمان کر لیا جائے اور بعد مسلمان ہونے کے ان سے کچھ احتراز نہ کیا جائے، خورد و نوش ان کے ساتھ درست ہے اور ان کے چھوئے ہوئے مٹی کے برتن پاک ہیں، غرض بعد اسلام کے وہ بالکل دوسرے مسلمانوں کے مانند ہیں، بلکہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ اسے اچھے ہیں، اور عورت کے بال نہ منڈوائے جائیں اور مرد کی ختنہ بعد اسلام کے کرادی جائے، مسلمان پہلے ہی کر لیا جائے۔ فقط

### نومسلم کو حقیر و ذلیل سمجھنا اور اس کا بائیکاٹ کرنا

سوال: (۹۳۰) سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسٹمی دین محمد مع اہل و عیال کے مسلمان ہو گیا اور نکاح بھی ہوا، اور مرید بھی ہو گیا، بعض مسلمانوں نے باقی اکثر مسلمان کو بہکا کر بائیکاٹ کر دیا، نہ

اس کے یہاں کھانے میں شریک ہونا چاہتے ہیں نہ اپنے یہاں اس کو کھانے میں شریک کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے کنویں پر پانی بھرنے دیتے ہیں اور مساجد میں آنے سے روکتے ہیں، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ آیا دین محمدؐ نو مسلم کے ہمراہ ایسا معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۱۵/۱۳۴۳ھ)

الجواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) اور حدیث شریف میں ہے: المسلم أخو المسلم الحدیث (۱) پس جو شخص مسلمان ہوا، اور اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، وہ تمام گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا بھائی ہو گیا بہ موجب نص مذکور کے۔

لہذا اس کو حقیر و ذلیل سمجھنا یا اس کا بائیکاٹ کرنا یا کھانے پینے میں اس کو شریک نہ کرنا یا اس کے کھانے میں شریک نہ ہونا اس کو حقیر و ذلیل سمجھ کر یہ سخت گناہ اور بڑی معصیت ہے، مسلمانوں کو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس سے نفرت کریں یہ سخت جہالت ہے، اس کو مساجد سے اور مسلمانوں کے کنویں سے پانی بھرنے سے نہ روکا جائے، اور اس کی عزت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورہ منافقون، آیت: ۸) یعنی عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافقین اس کو نہیں جانتے، پس جس کو اللہ نے عزت دی اس کو ذلیل سمجھنا کس قدر جہالت ہے؟! الحاصل نو مسلم دین محمد کے ساتھ تمام مسلمانوں کو ہمدردی اور محبت کرنی چاہیے، اور اس کو علیحدہ اپنی جماعت سے نہ کرنا چاہیے، اور اس کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنا چاہیے، اور جس کنویں سے وہ پانی بھرے اس کو بھرنے دینا چاہیے، اور تمام امور میں اس کو مثل دیگر مسلمانوں کے سمجھنا چاہیے، کسی امر میں اس سے احتراز اور علیحدگی نہ کرنی چاہیے۔ فقط

سوال: (۹۳۱) جو کافر مسلمان ہو گیا اس نو مسلم کا حق اور مسلمانوں کے برابر ہے یا کچھ کم و

بیش؟ کہ اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ (۱۰۰۶/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: جب کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو مؤمنین کی جماعت میں داخل ہو گیا، اور ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) کے حکم میں شامل ہو گیا، اور مثل تمام مسلمانوں کے

ہو گیا، بلکہ بہتر ہو گیا (۱) اس کو حقارت سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔

### نو مسلم کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے

سوال: (۹۳۲) ایک شخص قوم نٹ کا مسلمان ہوا اور روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ایک مسجد بنوائی ہے، اس میں نماز پنج گانہ ادا کرتا ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، ایسے نو مسلم کے ساتھ کھانا پینا اور جھوٹا کھانا پینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو جو لوگ ایسے نو مسلم کے ساتھ کھانے والوں پر سختی کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں ان کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۰۴/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس نو مسلم کے ساتھ کھانا پینا اور اس کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے، جو لوگ احتراز کرتے ہیں اور ساتھ کھانے والوں پر طعن کرتے ہیں گنہ گار اور فاسق ہوتے ہیں، توبہ کریں۔ فقط

### چهار وغیرہ چھوٹی قوم مسلمان ہو جائے

#### تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۹۳۳)..... (الف) اگر کوئی چھوٹی قوم مثلاً چهار وغیرہ مسلمان ہو جائیں، اور اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیں، تو ان کو اپنے ساتھ کھانا پلانا اور ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا اور ان کا مسجد کے ڈول رسی لوٹنا وغیرہ کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳/۷۸۳ھ)

(ب) جو لوگ اقوام مذکورہ سے کسی قسم کا پرہیز نہ رکھیں ان کا یہ فعل کیسا ہے وہ لوگ مستحق اجر ہوں گے یا نہ؟

(ج) جو لوگ اقوام مذکورہ کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ میں پرہیز کریں اور مسجد میں وضو وغیرہ سے منع کریں وہ لوگ مستحق عذاب ہوں گے یا نہیں؟

(د) مساوات اسلامی اور ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اس کے خلاف کریں اور اپنے رسم و رواج سے مساوات اسلامی کو توڑنا چاہیں

(۱) کیوں کہ اسلام کی وجہ سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (الصّٰحِيح لِمُسْلِم: ۱/۷۶، کتاب الایمان، باب کون الإسلام يهدم ما قبله)



ان کے لیے کیا حکم ہے؟

(ھ) اسلام کے احکام کے آگے رواج کو ترک کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو لوگ ترک کرنے والوں کو منع کریں اور نہ ماننے پر اس کے ساتھ ترک موالات کر کے رسم و رواج کا پابند کرنا چاہیں تو وہ مستحق عذاب ہوں گے یا نہیں؟ (۸۳/۱۳۴۳ھ)

الجواب: (الف) اسلام لانے کے بعد جملہ اقوام ایک رشتہ اتحاد میں منسلک ہو جاتے ہیں، اور بہ حکم آیت کریمہ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) اور حدیث شریف: المسلم أخو المسلم (۱) سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، کسی قسم کا پرہیز رکھنا ان سے جائز نہیں رہتا، اور ان کے ساتھ کھانا پینا اور اختلاط رکھنا سب جائز اور درست ہو جاتا ہے، اور ان کا مسجدوں میں وضو کرنا اور لوٹا وغیرہ کو ہاتھ لگانا اور ڈول سے پانی بھرنا اور مسجدوں میں شریک جماعت ہو کر نماز پڑھنا سب جائز ہے۔

(ب) ان کا یہ فعل موافق تعلیم اسلام اور حکم خدا تعالیٰ اور حکم رسول اللہ کے ہے اور سلف صالحین کے طریق کے موافق ہے اور وہ مستحق اجر و ثواب ہیں۔

(ج) وہ لوگ عاصی ہیں اور حکم خدا تعالیٰ و حکم رسول اللہ کے مخالف ہیں۔

(د) اوپر اس کی تفصیل معلوم ہو چکی ہے کہ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۰) کے حکم میں جملہ مسلمانان داخل ہیں، بلکہ نومسلم لوگ اکثر قدیم الاسلام لوگوں سے زیادہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام لانے سے ان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور سب نجاتیں زائل ہو گئیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ اسلام لانا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے (۲) لہذا وہ لوگ جو مسلمان ہوئے زیادہ تر مستحق تعظیم و اکرام ہیں۔

(ھ) شریعت کے حکم کے سامنے رواج کچھ چیز نہیں ہے، رواج کی پابندی بہ مقابلہ حکم شریعت

(۱) اس حدیث کی تخریج سوال (۹۲۱) کے جواب میں گزر چکی۔ ۱۲

(۲) عن ابن شماس المہری قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سبابة الموت يبيكي طويلاً..... قال: أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحديث (الصحيح لمسلم: ۷/۱، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة)

جائز نہیں ہے قطعاً حرام ہے، پس تارک رواج بہ مقابلہ حکم شرعی عین صواب پر ہے اور حق پر ہے، اس سے اس وجہ سے متارکت کرنا کہ اس نے رواج کو ترک کیا اور حکم شریعت پر عمل کیا ناجائز اور حرام ہے۔

### نومسلمہ سے شادی کرنے پر جرمانہ مقرر کرنا

سوال: (۹۳۴) زید نے ایک نومسلمہ عورت سے نکاح کیا، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، اب اس لڑکی کی شادی ہے، زید کے اہل برادری کہتے ہیں کہ جب تک زید اپنی برادری کو دعوت بہ طور جرمانہ اس جرم میں کہ اس نے نومسلمہ سے نکاح کیا ہے نہ دے گا، وہ شریک شادی نہ ہوں گے، شرعاً برادری کو اس کا حق ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۰/۱۵۸۶ھ)

الجواب: شرعاً کوئی حق برادری کا زید سے بہ وجہ مذکورہ دعوت لینے کا اور زید پر کچھ جبر دینے کا نہیں ہے، باقی زید اگر اتفاق باہمی قائم رکھنے کی وجہ سے اپنی خوشی سے ان کی دعوت کر دے تو اس میں کچھ حرج بھی نہیں ہے اور کچھ ممانعت نہیں ہے۔ فقط

### رذیل قوم کے قبول اسلام پر اظہار نفرت کرنا

سوال: (۹۳۵) اگر کوئی شخص کسی رذیل قوم کے قبول اسلام پر اظہار نفرت کرے اور منع کرے کہ چمار خا کروہ وغیرہ رذیل اقوام کو زمرہ اسلام میں داخل نہ کرنا چاہیے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۱۷۹ھ)

الجواب: ایسا شخص عاصی و فاسق ہے۔

### چماری کو مسلمان کر کے اس سے نکاح

### کرنے والے کو برادری سے خارج کرنا

سوال: (۹۳۶) میں نے ایک چماری کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا، برادری نے مجھ کو علیحدہ کر دیا، اور شامل برادری نہیں کرتے، جو حکم شرعی ہو مطلع فرمائے۔ (۱۳۳۰/۲۳۶۱ھ)

الجواب: اس صورت میں سائل کو برادری سے خارج کرنا جائز نہیں ہے، سائل نے کوئی گناہ نہیں

کیا، برادری والوں کو لازم ہے کہ سائل کو برادری سے علیحدہ نہ رکھیں، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ فقط  
سوال: (۹۳۷) ہندہ مہترانی نے مسلمان ہو کر زید مسلمان سے نکاح کر لیا، تو کیا زید دائرۃ  
اسلام سے باہر ہو گیا؟ اگر برادری اس کو علیحدہ کرے تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۳/۱۵۷۹ھ)

الجواب: مہترانی جب کہ مسلمان ہو گئی تو وہ بالکل پاک و صاف کیوم ولدتها أمہا ہو گئی (۱)  
اور جیسے دوسرے مرد اور عورتیں مسلمان باہم بھائی بہنیں ہیں۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  
إِخْوَةٌ﴾ (سورۃ حجرات: آیت: ۱۰) اسی طرح وہ مہترانی نومسلمہ بھی اہل اسلام کی برادری میں داخل  
ہو گئی، پس اگر زید مسلمان نے اس نومسلمہ مہترانی سے نکاح کر لیا، تو زید پر کچھ طعن شرعاً نہیں ہے، نہ وہ  
اسلام سے باہر ہوا اور نہ برادری سے خارج ہوا، اس کو برادری سے خارج کرنا اور اس سے متارکت  
کرنا اور اس کا حقہ پانی بند کرنا جائز نہیں ہے اور جو لوگ ایسا کریں وہ فاسق و عاصی و ظالم ہیں۔ فقط

جس نے نصرانیہ کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا ہے

اس سے میل جول ترک کرنا درست نہیں

سوال: (۹۳۸) زید نے نصرانیہ کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا ہے، اب زید کی برادری کہتی ہے  
کہ تو اس عورت کو طلاق دے کر نکال دے، ورنہ ہم تجھ سے کچھ میل جول نہیں رکھیں گے۔ زید کی  
برادری کو یہ دباؤ دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۶۲۳ھ)

الجواب: اگر وہ نصرانیہ شوہر والی تھی تو بعد اسلام لانے کے تین حیض آجانے کے بعد اس سے  
کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اس سے پہلے نکاح درست نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی شوہر پہلے نہ تھا  
تو اسلام لانے کے بعد فوراً اس سے کسی مسلمان کا نکاح درست ہے، پس اگر وہ نکاح جو زید مسلمان  
نے اس نصرانیہ نومسلمہ سے کیا بہ قاعدہ شرعیہ مذکورہ ہوا تو مسلمانوں کو اس کو مجبور کرنا طلاق دینے پر اور  
ایسا دباؤ الناس پر جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن ابن شماسۃ المہری قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة  
الموت يركي طويلاً ..... قال: أَمَا عَلِمْتُ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ  
الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ الْحَدِيثُ (الصَّحِيحُ لِمُسْلِمٍ: ۱/۷۶،  
كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة)

## میاں بیوی کے حقوق و احکام

### عورتوں کی ناشکری اور کفرانِ نعمت

سوال: (۹۳۹) دو سال ہوئے کہ مجھ میں اور زوجہ میں رنج ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اولاد پر جان دیتی ہے اور ایمان کے مقابلہ میں اولاد کو ترجیح دیتی ہے، چنانچہ میں نے اپنی ملازمت میں سیکڑوں ہزاروں روپیہ پیدا کر کے عورت کو دئے، اب صاف الفاظ میں مجھ کو اور میرے بزرگوں کو کستی اور گالیاں دیتی اور برا کہتی ہے کہ اس کم بخت گھر میں کبھی کچھ نہیں ہوا، ہمیشہ مزدوری کر کے اولاد کی پرورش کی، چنانچہ دو سال سے اپنے لڑکے پٹواری کے پاس ہے اور چار لڑکے نابالغ اس کے پاس موجود ہیں، میں نے زوجہ کے آگے ہاتھ جوڑے پیروں میں ٹوپی ڈالی کہ مجھ سے قصور ہوا، معاف کر دے چونکہ حمایت اور بھروسہ اولاد پر ہے، اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی اور مقابلہ سے پیش آتی ہے؟ (۱۳۳۹/۱۸۰۸ھ)

الجواب: عورتوں کی اس قسم کی ناشکری اور کفرانِ نعمت احادیث میں ذکر ہوا ہے اور آنحضرت ﷺ نے عورتوں کی زیادہ تعداد داخلِ نار ہونے کی یہ وجہ ارشاد فرمائی ہے کہ عورتیں بہت احسان فراموش ہوتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اگر ہمیشہ ان کی طرف احسان اور سلوک کیا جاوے اور کسی وقت کچھ کمی ہو جاوے تو صاف یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس گھر میں کبھی کوئی آرام نہیں پایا، یہ مضمون حدیث شریف کا ہے (۱) پس ظاہر ہے کہ اس میں تخلف کب ہو سکتا ہے؟ اکثر عورتیں ہمیشہ

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أیکفرن بالله؟ قال: یکفرن العشير ویکفرن ==

سے اس وصف کے ساتھ متصف رہیں، اور متصف رہیں گی، اور عورتوں کے لیے یہ سخت تنبیہ اور خوف کا مقام ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور جو کچھ ملے اس پر شکر کریں، اور شکوہ و شکایت جو ان کی جبلی خصلت ہے، حتیٰ الوسع اس میں اصلاح کی کوشش کریں، اولاد کے ساتھ ان کے درجہ کے موافق محبت اور سلوک کریں، اور خاوند کے ساتھ ان کے درجہ کے موافق اطاعت و فرمانبرداری۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (سورہ نساء، آیت: ۳۴) اور فرمایا: ﴿وَلِلنِّسَاءِ جِالٌ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَةٌ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲۸) اور احادیث اس بارے میں کثرت سے ہیں (۱) اور اولاد میں سے اگر کوئی اپنی والدہ کا خرچ اٹھاوے یا بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کرے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے یہ اچھا ہے، اور باپ پر اس وجہ سے کچھ مواخذہ نہیں ہے اور جب کہ زوجہ اس کے پاس نہیں رہتی اور نافرمان ہے تو اس کا خرچ خاوند کے ذمے نہیں رہتا۔

نابالغ اولاد کا خرچ اور پرورش اور تعلیم اور شادی وغیرہ کا خرچ بے شک باپ کے ذمے ہے، لیکن جب کہ وہ بیٹا پٹواری ان اخراجات کو اٹھاتا ہے تو باپ کے ذمے سے یہ حق ساقط ہے۔ اگر کسی

== الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط (صحیح البخاری: ۹/۱، کتاب الإیمان، باب کفران العشر و کفر دون کفر)  
(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية (مشكاة المصابيح، ص: ۲۸۱، کتاب النکاح، باب عشرة النساء، الفصل الثاني)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنتُ أمرُ أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها (جامع الترمذی: ۲۱۹/۱، أبواب الرضاع والطلاق، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة)

وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... لو كنتُ أمرُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ النساءَ أن يسجدنَ لأزواجهنّ لما جعل الله لهنّ عليهنّ من الحقّ (سنن أبي داود، ص: ۲۹۱، کتاب النکاح، باب في حق الزوج على المرأة)

کار خیر کے لیے وصیت کرنے کا ارادہ ہے تو ایک تہائی تک وصیت کر سکتا ہے، باقی دو تہائی وارثوں اولاد اور زوجہ کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر بلا کسی وجہ اور عذر شرعی کے عورت اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی اور بد اخلاقی سے پیش آوے اور جن امور میں خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے ان میں اس کی اطاعت نہ کرے تو وبال اس کا اس عورت پر ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناخوش ہے اس پر لعنت اللہ کی ہوتی رہتی ہے (۱) اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عورت پر بہ مقابلہ اولاد کے: حق شوہر زیادہ ہے۔ فقط

### عورت پر شوہر کی اطاعت تمام رشتہ داروں کی اطاعت سے مقدم ہے

سوال: (۹۴۰) کسی شخص کی بیوی دنیاوی معاملات میں اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، اور اپنے بھائی کی خوشنودی کو بہ نسبت اپنے خاوند کے حکم کے اچھا سمجھے تو وہ بیوی نکاح میں رہی یا نہیں؟  
(۱۳۴۰/۸۳۱ھ)

الجواب: عورت پر اپنے خاوند کی اطاعت ضروری ہے، اور والدین اور جملہ اقرباء کی اطاعت سے مقدم ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے (۲) بہر حال یہ اس کی سخت غلطی ہے کہ اپنے بھائی کی خوشنودی کو اپنے خاوند کی خوشنودی و اطاعت پر مقدم سمجھتی ہے، لیکن نکاح میں کچھ فرق نہیں آیا، اس عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے۔ فقط

### میاں بیوی کے حقوق اور گناہ کے کاموں میں شوہر کی اطاعت نہ کرنا

سوال: (۹۴۱) شوہر کے زوجہ پر کیا حقوق ہیں؟ اور زوجہ کے شوہر پر کیا؟ اگر مرد عورت سے

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتبه، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح (الصحيح لمسلم: ۴۶۴/۱، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها)

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أمر أحدًا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (جامع الترمذي: ۲۱۹/۱، أبواب الرضاع والطلاق، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة)

کہے کہ تو بے نقاب اور بے برقع باہر پھرتو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۲۹۳)۔  
**الجواب:** وہ حقوق جو مرد کے عورت پر ہیں اور عورت کے مرد پر ہیں اللہ تعالیٰ نے مجملًا اس آیت میں بیان فرمادیئے ہیں: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲۸) یعنی جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، شریعت کے موافق ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، مثلاً مرد کے ذمے یہ ہے کہ وہ زوجہ کو کھانا، کپڑا، مکان رہنے کو دے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کو بے وجہ تکلیفیں نہ پہنچائے، اور خلاف شریعت کوئی حکم نہ کرے، اور عورت کے ذمے یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے، لیکن گناہ کے کاموں میں اس کی اطاعت نہ کرے، پس اگر شوہر اپنی زوجہ کو بے پردہ باہر پھرنے کو کہے تو اس میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، بلکہ اس میں شوہر کا حکم ماننا گناہ اور معصیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (الحديث) (۱) اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقط

### عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو عند اللہ ماخوذ ہوگی

**سوال:** (۹۴۲) مرد پر عورت کے اور عورت پر مرد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ جب کہ عورت مرد کو اپنے سے غریب جان کر ذلیل سمجھے، اس کے گھر نہ جاوے تو عند اللہ ماخوذ ہوگی یا نہیں؟  
 (۱۳۴۰/۴۴۰)

**الجواب:** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِصْفِهِمْ مِثْلُ مَا عَلَىٰ النِّسْفِ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲۸) یعنی مردوں پر عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہیں، جیسے عورتوں پر مردوں کے ہیں، اور مردوں کے لیے عورتوں پر بڑائی ہے اور درجہ ان کا زیادہ ہے، غرض یہ کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا ادا کرنا لازم ہے اور عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا اور فرماں برداری و اطاعت کرنا لازم ہے اور عورت بہ صورت نافرمانی شوہر عند اللہ ماخوذ ہوگی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ (مشكاة المصابيح، ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني)

جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی

سوال: (۹۴۳) اس عورت کے نماز روزہ کا کیا حکم ہے جو شوہر کو رنج پہنچاتے ہوئے باپ کے گھر رہتی ہے؟ (۱۳۴۰/۱۷۸۴ھ)

الجواب: روایت بخاری و مسلم کی جو کہ صحیح ہے یہ ہے: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانًا، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ اور ایک روایت بخاری و مسلم کی یہ ہے: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (۱) اور بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جس عورت پر اس کا شوہر غصہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور کوئی نیکی اس کی آسمان پر نہیں چڑھتی یعنی قبول نہیں ہوتی (۲)۔

دیانتہ عورت پر امور خانہ داری کا انتظام لازم ہے

سوال: (۹۴۴) ایک عورت امور خانہ داری کرنے سے انکار کرتی ہے، شوہر اس سے جبراً کر سکتا ہے یا نہیں؟ جب کہ وہ غریب آدمی ہو۔ (۱۳۴۳/۶۳۱ھ)

الجواب: اس کا شوہر اس پر اس بارے میں جبر نہیں کر سکتا، لیکن عورت کو چاہیے کہ گھر کے کاروبار کا انتظام کرے، خصوصاً جب کہ اس کا شوہر غریب ہو کیونکہ درمختار میں لکھا ہے کہ اگرچہ قاضی و حاکم عورت کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن دیانتہ عورت پر امور خانہ داری کا انتظام لازم ہے۔ درمختار

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْحَدِيثَ (مَشَاكَاةُ الْمَصَابِيحِ، ص: ۲۸۰-۲۸۱، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ عَشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَقُوقِ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ. صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: ۴۵۹/۱، كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ، بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ.

وَالصَّحِيحُ لِمُسْلِمٍ: ۴۶۴/۱، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا)

(۲) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطَةُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكَرَانُ حَتَّى يَصْحَوْ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (مَشَاكَاةُ الْمَصَابِيحِ ص: ۲۸۳، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ عَشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَقُوقِ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ)



کی عبارت یہ ہے: ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لو جوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين . بحر (۱)

### فاجرہ عورت کو طلاق دینا شوہر پر واجب نہیں

سوال: (۹۴۵) زوجین میں اگر ناچاقی ہو جائے تو زوجہ دوسرے سے ناجائز تعلق کر لیتی ہے، اور شوہر نہ اس کو بلاتا ہے اور نہ طلاق دیتا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۲/۲۹۱۷ھ)

الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شوہر طلاق نہ دے اس وقت تک اس کی عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور درمختار میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاجرہ عورت کو طلاق دینا شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے (۲) بلکہ عورت اگر فاسق و فجور کرے تو اس کا وبال اس پر ہے۔ دیوث وہ ہوتا ہے جو اپنی زوجہ وغیرہ کو زنا کا امر کرے یا اس کے اس فعل سے راضی ہو اور اس کو منع نہ کرے، یا روپیہ کے لالچ سے ایسا کرے (۳) اور جب کہ شوہر نے ایسا نہیں کیا تو وہ شرعاً دیوث نہ کہلائے گا، اور عورت کے فعل بد کا گناہ عورت پر ہوگا۔ فقط

### جو عورت شوہر کا کہنا نہیں مانتی اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۹۴۶) اگر کوئی عورت بلا اجازت شوہر کے والدین کے یہاں یا کسی دوسرے اجنبی

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۲۳۱/۵، کتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لا تجب علی الأب نفقة زوجة ابنه الصغير .

(۲) لا يجب علی الزوج تطليق الفاجرة (الدر) وفي الشامي: ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس أن يتفرقا (الدر والرد: ۵۲۴/۹، کتاب الحظر والإباحة فصل في البيع)

(۳) الدیوث: هو الذي لا غیرة له ممن یدخل علی امرأته، قال أبو حنیفة رحمه الله تعالى: امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو دیوث، کذا فی دستور العلماء (قواعد الفقه، ص: ۲۹۷، الرسالة الرابعة: التعريفات الفقهية)

یارشتہ دار کے گھر چلی جائے اور باوجود منع کرنے کے شوہر کا کہنا نہ مانے اور زبان درازی اور نافرمانی شوہر کی کرے اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۱۷۹ھ)

الجواب: زوجہ کو اپنے شوہر کی فرماں برداری لازم ہے، اور نافرمانی کرنا اور حکم برداری موافق شریعت کے نہ کرنا سخت معصیت ہے، اور جو لوگ اس کے معین و مددگار اس بارے میں ہیں وہ بھی عاصی و ظالم ہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (سورہ نساء، آیت: ۳۴) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الْآيَةُ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲۸) ترجمہ: اور نیک عورتیں اپنے خاوند کی مطیع ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے مال وغیرہ کی حفاظت اللہ کے حکم کے موافق کرتی ہیں الخ اور جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں اسی طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اور مردوں کو فضیلت ہے کہ عورتوں پر ان کی اطاعت فرض ہے۔ فقط

### فاحشہ اور آوارہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۹۴۷) ایک عورت نہایت فاحشہ اور آوارہ ہے، جب چاہتی ہے خاوند کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، بیس، پچیس یوم کے بعد پھر آ جاتی ہے، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۶۵ھ)

الجواب: فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایسی فاسقہ فاجرہ عورت کو طلاق دینا شرعاً واجب نہیں ہے (۱) پس اگر شوہر اس کو رکھے تو رکھ سکتا ہے، عند اللہ گنہ گار نہ ہوگا اور اگر بہ وجہ حیا و عار اس کو نہ رکھے اور طلاق دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقط

### بدچلن بیوی کو قتل کر دینا ناقابلِ عفو جرم ہے

سوال: (۹۴۸) زید و عمر کی بیبیاں بدکار اور بے شرم ہیں، زید نے اپنی بی بی کو قتل کر ڈالا، اور عمر

(۱) لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة (الدرّ) وفي الشّامي: ولا علیها تسریح الفاجر إلا إذا خاف أن لا یقیما حدود اللّٰه، فلا بأس أن یتفرقا (الدرّ والرّد: ۵۲۴/۹، کتاب الحظر والإباحة فصل فی البیع)

نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی، اس صورت میں زید کا فعل درست ہے یا عمر کا؟ (۱۳۸۳/۱۳۳۳ھ)  
**الجواب:** زید کو اس کے قتل کا شرعاً کوئی اختیار نہ تھا، مسلمان کا نفس اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، زید کا یہ جرم عند الشریعہ ناقابلِ عفو ہے، اور عمر نے جو کچھ کیا عین شریعہ کے مطابق اور تجربہ پر مبنی ہے، ایسی حالت میں مرد کو اسی کا اختیار ہے جس پر عمر نے عمل کیا ہے۔ فقط

### شرابی شوہر کو اس کی جائیداد سے بے دخل کرنا

**سوال:** (۹۴۹) ایک عورت نے جو نمازی و تہجد گزار ہے، اور شوہر اس کا نمازی نہیں اور نشہ خوار ہے، اس سے علیحدگی کر لی ہے، اور شوہر کے مکان و اراضی کاشت پر بہ ذریعہ فوج داری قبضہ کر کے شوہر کو بے دخل کر کے مکان سے نکال دیا ہے، اور شوہر اس کا مجبوراً دوسرے موضع میں رہ کر مزدوری کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اگر کبھی اولاد بیوی کی محبت سے آتا ہے تو عورت نہ شوہر سے ملتی ہے، نہ اولاد کو باپ سے ملنے دیتی ہے، ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ اور قبضہ بیوی کا شوہر کے مال پر اور اس کی آمدنی کھانا جائز ہے یا حکمِ غضب رکھتا ہے؟ (۱۳۳۷/۱۰۴۴ھ)

**الجواب:** اگر شوہر معاصی میں اور شراب خواری وغیرہ میں مال ضائع کرتا تھا، اور اس وجہ سے حکام نے اس کو تصرفات سے اس کے اموال میں روک دیا ہے کہ اس کی زوجہ اور اولاد کے حقوق ضائع نہ ہوں، تو ایسے حجر کو صاحبین نے جائز رکھا ہے، اور اہل ترجیح نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ پس اس حالت میں عورت کا قبضہ جو حکام کی طرف سے اس کو بہ غرض حفاظتِ اموال و جائیداد و عدمِ اضرار دیا گیا ہے مالکانہ و غاصبانہ نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ سوائے نفقاتِ ضروریہ کے اس میں تصرف نہ کرے، اور اگر حکام نے اس عورت کو بعض دین مہر وہ تمام جائیداد اس کو دلوادی ہے بہ شرطیکہ وہ اسی قدر ہو، تو وہ مالک ہوگئی، اس صورت میں اس کے تصرفات اس میں درست ہیں، اور عورت کے ذمے شوہر کی اطاعت لازم ہے، لیکن اگر شوہر حکمِ معصیت کا کرے اور خلافِ شریعت کام کر دے تو اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لٰنہ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱) شامی کتاب الحج میں ہے: قوله: وعندهما يحجر على الحر بالسفہ والغفلة وبه أي بقولهما يفتی

(۱) مشكاة المصابيح، ص: ۳۲۱، كتاب الإمامة والقضاء، الفصل الثاني .

صيانة لِمَالِهِ الخ أي العاقل البالغ ، قال في الجوهرة: ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف: لا يحجر عليه إلا يحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه وقال محمد: فسادہ في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه الخ (۱) (شامی) فقط

### بیوی کو کہاں رکھنا چاہیے؟

سوال: (۹۵۰) زید جو اصل باشندہ خطہ اودھ کا ہے بہ وجہ ملازمت خطہ وسط ہند میں فی الحال موجود ہے، زید نے اپنی جائے ملازمت جا کر ہندہ کے ساتھ نکاح بہ مقام حیدر آباد دکن کیا، ہندہ کے باپ بھائی بھی خطہ اودھ کے باشندے ہیں، اور حیدر آباد دکن میں بہ وجہ ملازمت موجود ہیں، ایسی صورت میں زید پر تعمیل حکم الحاکمین ﴿وَاسْكُنْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ (سورہ طلاق، آیت: ۶) ہندہ کو یہاں رکھنا لازم ہے؟ اور شرعاً محل نکاح ہی زید کی جائے سکونت قرار پائے گا یا نہیں؟ صاحب ہدایہ کی اس دلیل سے جو باب حضانت کی آخری فصل میں بہ طور قاعدہ کلیہ کے بیان ہوئی ہے، جس جگہ عقد واقع ہو وہیں اس کے احکام کا استیفاء متعلق ہوگا الخ۔ اس صورت میں شوہر کو یہ لازم ہے کہ زوجہ کو جائے سکونت میں اس کے والدین کے رکھے یا کیا مطلب ہے؟

(۱۳۳۳ھ - ۱۹۱۷ء)

الجواب: آیت کریمہ کا حاصل تو یہ ہے کہ شوہروں کو خطاب فرمایا ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو وہاں اپنی زوجات کو رکھو، زوجہ کے باپ کے گھر رکھنے کا اس میں حکم نہیں ہے، پس اگر بالفرض حیدر آباد زوجہ کے والدین کی قیام گاہ مثل وطن ہو گیا ہو، تو شوہر اس امر کا مخاطب نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کے والدین کی قیام گاہ میں رکھے، بلکہ جہاں خود رہے وہاں رکھے۔

اور ہدایہ کے باب الحضانة کا مسئلہ مطلقہ کے بارے میں ہے کہ اولاد صغیرہ کو مطلقہ ان کے والد سے جدا کر کے اپنی جائے سکونت میں رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں جائے نکاح کے مسئلہ کو نقل فرمایا ہے، پھر بعد میں ترجیح قول اول کو دی کہ وطن میں لے جاسکتی ہے نہ غیر وطن میں جہاں تزوج ہوا ہے اور اسی کو اصح فرمایا۔ حیث قال: وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً

للمكث فيه عرفاً وهذا أصح الخ (۱) فقط

جو عورت اپنے ماں باپ کے یہاں ہے وہ شوہر کی اجازت

کے بغیر کسی رشتہ دار کے یہاں جاسکتی ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۵۱) عورت منکوحہ اپنے والدین کے یہاں موجود ہو وہ بلا اجازت شوہر کے کسی

اقارب کے یہاں جاسکتی ہے یا نہیں؟ (۱۸۲۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: کوئی ضرورت شدید ہو تو جانا درست ہے ورنہ بلا اذن شوہر جانا اچھا نہیں ہے، لیکن

شوہر کو خود چاہیے کہ زیادہ تشدد نہ کرے کبھی کبھی اجازت دے دیا کرے۔ فقط

شوہر کی اجازت کے بغیر بھائی کی شادی میں جانا

سوال: (۹۵۲) زید اپنی ملازمت پر تھا، زید کا سالازید کے مکان پر آیا اور اپنی ہمیشہ (بہن)

سے کہا کہ میری شادی ہے چل کر شریک ہو، اور ابھی چلی چلو، کیونکہ بہنوئی صاحب شام کو مکان پر

آئیں گے، میں اس قدر انتظار نہیں کر سکتا، زید کی بیوی بغیر اجازت اپنے شوہر کے اپنے بھائی کی

شادی میں چلی گئی، تو کیا اس صورت میں مرتکب گناہ ہوئی یا نہیں؟ (۱۸۲۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: زید کی زوجہ اس صورت میں گنہ گار نہیں ہوئی کہ صلہ رحمی کے طور سے ملنا اور بھائی

کے گھر جانا ممنوع نہیں۔ فقط

(۱) و إذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك ، لما فيه من الإضرار

بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنها، وقد كان الزوج تزوجها فيه ، لأنه التزم المقام فيه عرفاً

وشرعاً، قال عليه السلام: من تأهل ببلدة فهو منهم، ولهذا يصير الحربي به ذمياً، وإن أرادت

الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه، أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك

..... وجه الأول أن التزوج الخ (الهداية: ۲/۴۳۶، كتاب الطلاق، باب حضانة الولد ومن

أحق به)

### شوہر، بیوی کو اپنے وطن لے جاسکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۵۳) زید نے ایک لڑکی سے بلا کسی شرط کے نکاح کیا، لڑکی رخصت ہو کر مکان آگئی، کچھ روز کے بعد پھر لڑکی والد کے یہاں چلی گئی، اب اس کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ زید زوجہ کو اس کے والدین کے پاس اسی شہر میں رکھے اپنے وطن میں نہ لے جاوے، آیا زید اپنی زوجہ کو اپنے ہمراہ وطن لے جاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۶۵۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: و یسافر بها بعد أداء کلّہ مؤجلاً ومعجلاً إذا کان مأموناً علیہ و إلا یؤد کلّہ أو لم یکن مأموناً لایسافر بها وبہ یفتی الخ (۱) اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی زوجہ کو ادائے تمام مہر کے بعد، سفر میں لے جاسکتا ہے، جب کہ عورت کو کچھ اندیشہ ایذا دہی وغیرہ کا شوہر کی طرف سے نہ ہو، اور اگر مہر ادا نہیں کیا یا اطمینان نہیں تو نہیں لے جاسکتا۔ فقط

### منع کرنے کے باوجود عورت کا کسی تقریب میں شریک ہونا

سوال: (۹۵۴) جو عورت شوہر کی ممانعت کرنے پر کسی تقریب میں شریک ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۲۰۹۹/۱۳۳۹ھ)

الجواب: عورت کو خلاف مرضی و اجازت شوہر کے ایسی جرئت نہ کرنی چاہیے، اور خاص کر خلاف شرع مجامع میں شرکت نہ کرنی چاہیے، لیکن اگر عورت نے ایسا کیا تو نکاح میں کچھ فرق نہیں آیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### عورت کو کتنی مدت کے بعد میکے جانا اور واپس آنا چاہیے؟

سوال: (۹۵۵) عورت کو کتنی مدت بعد سرال سے میکے جانا اور واپس آنا واجب ہے؟ (۲۲۱۴/۱۳۳۸ھ)

الجواب: یہ امور باہمی رضامندی سے طے ہو سکتے ہیں، اور حسب ضرورت اس میں طرفین

(۱) الدرّ مع الردّ: ۲/۲۱۸، کتاب النکاح، باب المہر، مطلب فی السفر بالزوجة.

سے مسابہت اور نرمی ہونی چاہیے، اور روایات اس میں مختلف ہیں، درمختار میں ہے کہ ہفتہ میں ایک بار جاسکتی ہے، لیکن شامی میں ہے کہ عرف کے موافق اس میں عمل در آمد ہونا چاہیے، اور فتنہ و فساد کی صورت میں جو کچھ مصلحت ہو ویسا کرے (۱)

### فتنہ کا اندیشہ ہو تو زوجہ کو میکے نہ بھیجنا جائز ہے

سوال: (۹۵۶) اگر عورت کے والدین، میکے والے بد خصال ہوں اور فساد ہی ہوں اپنی لڑکی کو روک کر بٹھالیں یا دوسری جگہ کرنے کا ارادہ بد نیتی سے کر لیں تو اگر عورت کا شوہر عورت کو میکے نہ بھیجے تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۲۲۱۳ھ)

الجواب: ایسی حالت میں اگر شوہر اپنی زوجہ کو بہ وجہ اندیشہ فساد و فتنہ اس کے والدین کے گھر نہ بھیجے تو درست ہے۔ فقط

### بیوی کو اس کے والدین سے ملنے کے لیے نہ جانے دینا

سوال: (۹۵۷) ایک شخص اور اس کا والد اپنی زوجہ کو اس کے والدین کے گھر نہیں بھیجتے اور رحم مادری کو قطع کر کے ملنا جلنا میکے والوں سے بند کر رہے ہیں، شرعاً اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۰/۲۰۷ھ)

(۱) ولہا السّفر والخروج من بیت زوجها للحاجة ولہا زیارة أهلها بلا إذنہ ما لم تقبضہ أي المعجل، فلا تخرج إلا لحق لها أو علیها أول زیارة أبویہا کل جمعة مرة أو المحارم کل سنة (الدرّ) وفي الشّامي: قوله: (أول زیارة أبویہا) سیأتی فی باب النّفقات عن الاختیار تقييده بما إذا لم يقدر علی إتيانها، وفي الفتح، أنه الحق. قال: وإن لم یكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها فی زیارتها فی الحین بعد الحین علی قدر متعارف، أمّا فی کل جمعة فهو بعيد، فإن فی كثرة الخروج فتح باب الفتنه خصوصاً إن كانت شابة والرجل من ذوی الهيئات (الدرّ والردّ: ۲۱۷-۲۱۸، کتاب النکاح، باب المهر، مطلب فی منع الزّوجة نفسها لقبض المهر)

ولا یمنعها من الخروج إلى الوالدین فی کل جمعة إن لم يقدر علی إتيانها علی ما اختاره فی "الاختیار" (الدرّ مع الردّ: ۵/۲۵۷، کتاب الطّلاق، باب النّفقة، مطلب فی الکلام علی المؤنسة)

الجواب: شوہر کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کے والدین سے نہ ملنے دے اور قطع رحم کر دے، اگر شوہر نے ایسا کیا تو وہ ظالم اور عاصی ہے، جیسا کہ درمختار اور شامی میں ہے: فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبيها كل جمعة مرة وهكذا في الشامي (۱) فقط

سوال: (۹۵۸) عبد الحمید اپنی زوجہ کو والدین سے ملنے کے لیے نہیں جانے دیتا، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳/۱۲۱۸ھ)

الجواب: شامی نے درمختار کے اس قول پر (فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبيها كل جمعة مرة إلخ) یہ لکھا ہے: سیأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بما إذا لم يقدرا على إتيانها، وفي الفتح: أنه الحق، قال: وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنه خصوصاً إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات (۲) (شامی) اس عبارت سے ظاہر ہے کہ اول تو یہ ہے کہ اگر والدین اس کے پاس آسکتے ہیں تو وہ خود آکر مل جایا کریں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کبھی کبھی شوہر عورت کو والدین سے ملنے کے لیے بھیج دیا کرے، ہفتہ عشرہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جب کبھی موقع ہو اور شوہر مناسب سمجھے حسب ضرورت بھیج دے، پس یہ صورت مذکورہ عبد الحمید پر کوئی مواخذہ اور حکم شریعت کے خلاف کرنے کا الزام عاید نہیں ہو سکتا۔ فقط سوال: (۹۵۹)..... (الف) شوہر اپنی منکوحہ کو اس کے والدین کے یہاں جانے کے واسطے صرف دن بھر کی اجازت دیتا ہے، اور ہدایت کرتا ہے کہ شب کو والدین کے یہاں نہ ٹھہرو، واپس آ جاؤ۔

(ب) شوہر اپنی منکوحہ کو اپنے اور اس کے عزیز واقارب میں قطعی نہیں جانے دیتا، آیا یہ تاکید اس کی درست ہے؟

(ج) شوہر اپنی منکوحہ کو اپنے اور اس کے عزیز واقارب سے اپنے خاص مکان پر ملنے دیتا ہے، اور ان کے مکان پر نہیں جانے دیتا۔ (۱۳۳۳-۳۲/۱۸۲۶ھ)

(۱) الدرّ والرّد: ۲/۲۱۸، کتاب النکاح، مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر.

(۲) الدرّ المختار وردّ المحتار: ۴/۲۱۸، کتاب النکاح، مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر.



الجواب: (الف) اگر شوہر ایسا کہے زوجہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔  
 (ب) قطعی ممانعت صحیح نہیں ہے، البتہ زیادہ نہ جانے دے کبھی کبھی اجازت دینا چاہیے، اور بلا اجازت بھی کبھی کبھی جانا درست ہے، لیکن اگر وہ خود آکر شوہر کے مکان پر ملیں تو یہ اچھا ہے۔  
 (ج) یہ اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کبھی کبھی وہاں جانے کی بھی اجازت دینا چاہیے افراط و تفریط امر مذموم ہے۔

عورت کا شوہر سے لڑکر میکے چلا جانا اور باپ کا اپنی بیٹی کو سہارا دینا  
 سوال: (۹۶۰)..... (الف) اگر عورت شوہر سے لڑکر باپ کے گھر چلی آوے اور جب کہ قصور عورت کا ہو اور باپ اس کو گھر رہنے کی اجازت دیوے، تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟  
 (ب) عورت خاوند سے ناراض ہو کر باپ کے گھر علیحدہ ہو کر رہتی ہے اور اس کا سبب اس کا یعنی لڑکی کا باپ ہے، تو وہ بھی مستحق لعنت کا ہے یا نہیں؟ (۱۷۸۴/۱۳۴۰ھ)  
 الجواب: (الف) بے شک باپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے اور باپ نے اگر ایسا کیا تو وہ گنہ گار ہوگا۔  
 (ب) یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو کوئی معین ہو معصیت پر وہ بھی عاصی ہے، اس قاعدہ سے اگر باپ لڑکی کی نافرمانی شوہر میں اس کا معین ہوگا تو وہ بھی عاصی ہوگا۔ فقط

عورت میکے میں پردہ نہ کرتی ہو تو شوہر بیوی

کو وہاں جانے سے روک سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۶۱)..... (الف) ایک مسلمان کی زوجہ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، ہندوؤں کی طرح وہاں کی لڑکیاں میکے کے کسی مرد سے پردہ نہیں کرتیں، اب اس شخص کو اپنی زوجہ کو والدین کے گھر بھیجنا چاہیے یا نہیں؟  
 (ب) اگر زوجہ بلا رضامندی شوہر اپنے میکے چلی جائے تو اس شخص کو زوجہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۳/۶۰۰ھ)

الجواب: (الف - ب) اس صورت میں اس کو اس کے والدین کے گھر جانے اور ملنے سے نہ روکا جائے، باقی جس قدر حکم شرعی ہے وہ پورا کر دے، یعنی جس وقت اس کو بھیجے اس کو سمجھا دے کہ خلاف شریعت بے پردگی نہ کرے، اس پر اگر وہ نہ مانے تو وہ جانے شوہر پر مواخذہ نہیں ہے، اور اس کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کو ناخوش کر کے نہ جائے، اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر مواخذہ ہے، شوہر پر مواخذہ نہیں ہے۔

شوہر کے کہنے کے باوجود بیوی پردہ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۹۶۲) اگر بیوی خاوند کی مرضی کے خلاف کسی غیر مرد سے پردہ نہیں کرتی ہے تو شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۱/۲۵۳۴ھ)

الجواب: مرد کا کام کہہ دینے کا ہے اور نصیحت کا ہے اگر وہ نہ مانے تو گناہ اس کو ہے۔ فقط

بیوی کو اس کے خالو سے پردہ کرنے کا حکم دینا

سوال: (۹۶۳) اگر بکر اپنی زوجہ کو کہے کہ تو اپنے خالو سے پردہ کر تو بکر کو اس کا حق ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۵۹۵ھ)

الجواب: بکر کو اس فعل کے کرنے کا حق حاصل ہے (کیونکہ خالو محرم نہیں ہے) فقط

لحاف وغیرہ میں ننگا سونا اور حالت جماع میں باتیں کرنا

سوال: (۹۶۴) لحاف وغیرہ میں ننگا سونا اور حالت جماع میں کلام کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۱۲۲۸ھ)

الجواب: جائز ہے، مگر اچھا نہیں ہے۔ فقط

زوجین کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا

سوال: (۹۶۵) زوجین ایک دوسری کی شرمگاہ کو عداً دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۴۱/۲۶۰۷ھ)

الجواب: اچھا نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۹۶۶) ایک مکان میں غسل خانہ پردے کا ہے یعنی چو طرف دیوار اوپر سے چھت اور ایک دروازہ ہے، ایسے محفوظ غسل خانہ میں عورت خاوندوں ایک ساتھ برہنہ غسل کریں تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ خاوند کو اپنی منکوحہ کی فرج کا دیکھنا اور ہاتھ لگانا اور مساس کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۲/۲۷۰۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: و ينظر الرجل إلخ من عرسه وأمته إلخ إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه لأنه يورث النسيان إلخ. وفي الشامي قوله: (والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه السلام إذا أتى أحدكم أهله، فليستمر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير إلخ وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليهما، هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر. ذخيرة (۱) پس معلوم ہوا کہ دونوں کا برہنہ ایک جگہ غسل کرنا اور فرج کو دیکھنا جائز ہے مگر اچھا نہیں ہے۔ اور حدیث: ولا يتجردان إلخ نہی تنزیہی پر محمول ہے اور مس فرج وغیرہ جائز ہے بلکہ موجب اجر ہے۔ کما قال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. فقط

### حاملہ عورت سے وطی کرنا

سوال: (۹۶۷) بچہ پیدا ہونے سے پیشتر کتنے روز پہلے زوجہ کے پاس جانا ترک کیا جاوے

اور کتنے روز بعد تک؟ (۱۳۳۵/۱۳۶۱ھ)

الجواب: شرعاً حاملہ سے وطی وضع حمل سے پہلے پہلے درست ہے، کچھ مدت ممانعت کی اس کے لیے نہیں ہے، البتہ جس وقت وطی کو حمل کے لیے مضر سمجھے اس کو اختیار ہے کہ ترک کر دے، اور

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۴۴۳/۹-۴۴۷ کتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس.

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستمر، ولا يتجرد تجرد العيرين (سنن ابن ماجه، ص: ۱۳۸، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع)

بعد میں نفاس کی مدت (۱) ختم ہونے تک صحبت حرام ہے۔ فقط

### بے نمازی بیوی سے صحبت کرنا

سوال: (۹۶۸) اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو اور اس کا خاوند نیک دین دار ہو، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے شوہر گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ (۱۵۰۶/۱۳۳۵ھ)  
الجواب: نہیں۔ فقط

### شوہر کو ”مولوی صاحب“ یا ”ملا جی“ کہہ کر پکارنا

سوال: (۹۶۹) بیوی خاوند کو ملا جی، مولوی صاحب کہہ کر اگر پکارے تو درست ہے یا نہیں؟  
(۱۶۹۲/۳۲-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: درست ہے۔ فقط

### بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا

سوال: (۹۷۰) عورت بغیر اذن شوہر کوئی چیز صدقہ یا ہبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۹۶۶/۳۲-۱۳۳۳ھ)  
الجواب: روٹی وغیرہ محتاجوں کو دے سکتی ہے۔ فقط

### شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز دینا

سوال: (۹۷۱)..... (الف) زوجہ بلا اجازت شوہر کے اگر کوئی چیز کسی کو دیدے تو زوجہ حرامی ہوتی ہے یا نہیں؟

(ب) خاوند کی کس قدر چیز پر عورت کا اختیار ہوتا ہے؟

(ج) اپنے لڑکے کو بلا اجازت شوہر کے کوئی چیز دے سکتی ہے یا نہیں؟ جب کہ خاوند منع

(۱) یہاں نفاس کی اکثر مدت مراد نہیں، بلکہ نفاس کے بند ہونے کی مدت مراد ہے، جو ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے، چالیس روز سے پہلے نفاس بند ہو جائے تو غسل کے بعد شوہر وطی کر سکتا ہے۔ ۱۲ محمد امین پالن پوری

کرے۔ (۱۳۳۹/۷۸۸ھ)

الجواب: (الف) حرامی کہنا اس وجہ سے غلط ہے، مگر عورت کو نہیں چاہیے کہ بلا اجازت خاوند کے کسی کو کوئی چیز دے کہ یہ خیانت ہے۔ فقط

(ب) بلا اجازت کچھ اختیار نہیں ہے اور عرفاً جس قدر اجازت ہوتی ہے وہ بھی اجازت ہے۔

(ج) نہیں چاہیے۔ فقط

### دو بیویوں کے درمیان زیورات میں عدل و انصاف کرنے کی وضاحت

سوال: (۹۷۲) کسی نے اپنی عورت کو اپنے گھر کے سب زیورات کی یہ اجازت دے دی کہ اس میں سے جو پہنتی رہو تجھے اختیار ہے، اب دوسری عورت سے نکاح کیا تو اب اس مرد کو اختیار ہے کہ ان زیورات میں سے نصف زوجہ ثانیہ کو پہننے کے واسطے دے دیوے؟ اگر ثانی عورت کے واسطے دوسرا زیور بنواتا ہے تو ویسا زیور قدیمہ عورت کے لیے بھی بنوانا لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر قدیمہ عورت کے پاس ویسا زیور پہلے زیورات میں موجود ہو؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۷۷ھ)

الجواب: صرف پہننے کی اجازت دینے سے ظاہر ہے کہ وہ ملک اس زوجہ کی نہیں ہوا، بلکہ ملک شوہر ہے، پس چاہیے کہ دوسری زوجہ کو اس کے مناسب اس میں سے دیوے یا دوسرا زیور بنا دیوے، اور زوجہ اولیٰ کے پاس وہی پہلا زیور رہے، اس کے لیے دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### میاں بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: (۹۷۳) خاوند عورت کا نام لے کر یا عورت خاوند کا نام لے کر پکارے تو لوگ اس کو معیوب جانتے ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۱۲۸ھ)

الجواب: اگر خاوند عورت کا نام لے کر پکارے یا عورت خاوند کا نام لے کر پکارے تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ عیب نہیں ہے، البتہ چونکہ نام لے کر آواز دینے میں ایک قسم کی شان خلاف ادب پائی جاتی ہے، اس لیے زوجہ کے لیے مکروہ ہے کہ اپنے خاوند کا نام لے کر اس کو آواز دے یا بیٹا

اپنے باپ کو محض نام لے کر آواز دے (۱) فقط

### شوہر کو اس کے گھر میں آنے سے روکنا

سوال: (۹۷۴) اگر زوجہ اپنے شوہر کو خدا کا واسطہ دے کر یہ کہے کہ تو میرے پاس مت آ، یا اس گھر میں مت آ، حالانکہ گھر اس کے شوہر کا ہو تو ایسی حالت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۶۷۱/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: زوجہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اس کے گھر میں آنے سے روکے اور منع کرے، اور نہ شوہر کو اس میں عورت کا کہنا ماننا ضروری ہے عورت کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کا واسطہ دے کر ایسا کہے اور اس کو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ فقط

### بیوی کو زنا پر مجبور کرنا

سوال: (۹۷۵) ایک شخص اپنی بیوی کو دوسرے شخص سے ہم بستری کرانا چاہتا ہے اور وہ عورت کرنا نہیں چاہتی، اس لیے مرد اس کو جان سے مارنے کو تیار ہے، عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ (۲۶۹۳/۱۳۳۷ھ)

الجواب: عورت کو اس بارے میں شوہر کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے، اور عورت جس طرح سے ہو اس فعل سے بچے، اگر خوف ہو کہ شوہر مجبور کرے گا یا مارے گا تو اگر وہاں سے نکل سکے تو نکلنا درست ہے۔ فقط

### آخرت میں بیوی آخری شوہر کو ملے گی

سوال: (۹۷۶) اگر ایک مسلمان کو دنیا میں اپنی بی بی سے ایسی محبت ہو جو درجہ عشق تک پہنچ گئی ہو، اور اس کی بی بی بہ حکم الہی قضا کر گئی، تو کیا اس کا شوہر اس کا یقین اپنے دل میں رکھ سکتا ہے کہ وہ بعد اپنی موت کے بہ مقام آخرت اللہ میاں کے حکم سے اپنی اس بی بی سے ملا دیا جائے گا، اور وہ ایک

(۱) ویکرہ أن يدعو الرجل أباه و أن تدعو المرأة زوجها باسمه (الترمذی الشامی: ۵۱۳/۹)

کتاب الحظر و الإحاة، فصل فی البیع )

دوسرے کو پہچان لیں گے۔ (۱۳۳۸/۲۳۵ھ)

الجواب: یہ ہر دو امرا حدیث اور روایات فقہ سے ثابت ہیں، یعنی آپس میں ارواحِ مؤمنین کا ملنا اور پہچانا بھی وارد ہوا ہے، اور یہ کہ عورت نے جس شوہر کے عقد نکاح میں رہتے ہوئے انتقال کیا وہ جنت میں اسی کو ملے گی، پہلے امر کی دلیل ایک حدیث شریف کا یہ جملہ ہے: وَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدٍ كَمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْتَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ الْحَدِيثُ (۱)

اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ روحِ مؤمن کو بعد وفات مؤمن کے رحمت کے فرشتے ارواحِ مؤمنین کے پاس لے جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کسی کا رشتہ دار یا دوست جو غائب تھا وہ سفر سے آجائے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے، پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے؟ اور فلاں کیسا ہے؟ الخ۔

اور دوسرے امر کی دلیل یہ روایت ہے جس کو شامی میں نقل کیا ہے: وَلِأَنَّهُ صَحَّ الْخَبَرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لِأَخْرِ أَزْوَاجِهَا: أَيِ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي عَصْمَتِهِ الْخ (۲) اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت پچھلے شوہر کو ملے گی، یعنی جس کے نکاح میں وقت موت تک رہی۔ فقط

## شوہر کی اجازت سے منکوحہ عورت زچہ کی خدمت کر سکتی ہے

سوال: (۹۷۷) منکوحہ عورت دایہ کا کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی بچہ جنا کر زچہ کی خدمت دس روز تک کر سکتی ہے یا صرف بچہ جنا سکتی ہے؟ (۱۳۳۸/۹۲۶ھ)

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بِيضَاءَ، فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً عَنْكَ إِلَى رُوحِ اللَّهِ وَرِيحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانِ، فَتُخْرِجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيَنَاولُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذَا الرِّيحَ الَّتِي جَاءَ تَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَدِيثُ (سنن النسائي: ۲۰۳/۱، كتاب الجنائز، باب ما يلقي به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه)

(۲) الشَّامِي: ۱۰۴/۳، كتاب الصَّلَاةِ، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصَّبِيِّ .

الجواب: جو عورتیں اس کام کو کرتی ہیں اور جانتی ہیں ان کے لیے کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے، اور منکوحہ عورت بھی بہ اجازت شوہر خود اس کام کو کر سکتی ہے، اور زچہ کی خدمت کرنا معاوضہ پر جیسا کہ معروف ہے درست ہے۔ فقط

تنبیہ کے لیے چند دن صحبت ترک کرنا جائز ہے

سوال: (۹۷۸) اگر زوجہ گھر کا کام نہ کرے تو زوجہ سے صحبت ترک کرنا چاہیے؟ یا مارنا چاہیے؟ یا کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۹/۱۲۸۳ھ)

الجواب: کچھ دنوں صحبت وغیرہ ترک کر دینا تنبیہ کے لیے جائز ہے۔ فقط

بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے شوہر زنا کرے تو گناہ کس پر ہوگا؟

سوال: (۹۷۹) اگر ہندہ کی نافرمانی کی وجہ سے زید دوسرا نکاح کر لے، یا زنا وغیرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاوے تو شرعاً معذور ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۴۴۰ھ)

الجواب: اس صورت میں زید عند اللہ معذور نہ ہوگا، اور اس گناہ کا مواخذہ اسی پر ہوگا، اور ہندہ شوہر کی نافرمانی کے گناہ میں مأخوذ ہوگی۔ فقط

غیر کے ساتھ بھاگی ہوئی عورت کو شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۹۸۰) ہندہ منکوحہ زید بکر سے ناجائز تعلق پیدا کر کے بھاگ گئی، تلاش کے بعد گرفتار ہوئی اور زید کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو زید اس کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۱۱۲۶ھ)

الجواب: زید کا نکاح ہندہ سے فسخ نہیں ہوا، پس زید اس کو رکھ سکتا ہے، ہندہ کو چاہیے کہ توبہ کر کے بہ دستور زید کے پاس رہے۔ فقط

روشنی کر کے بیوی سے صحبت کرنا

سوال: (۹۸۱) رات کے وقت روشنی کر کے بیوی سے صحبت کی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۱۲۶۴ھ)



الجواب: درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### شوہر کی نافرمانی کرنے پر بیوی کو سزا دینا

سوال: (۹۸۲) بکر نے اپنی زوجہ ہندہ کو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ بھیجا، جب لینے گیا تو ہندہ نے بکر کے ساتھ آنے سے اور ملنے سے انکار کر دیا، اور بکر کے گھر نہیں آتی تو بکر ہندہ کو کیا سزا دے سکتا ہے؟ (۱۳۴۱/۹۷۶ھ)

الجواب: بکر سے اگر ہو سکے تو جبراً ہندہ کو اپنے گھر لے آوے، اور زید کے پاس اس کو نہ رہنے دے، یہ حق بکر کو حاصل ہے کہ وہ جبراً ہندہ کو لے آوے اور ہندہ اپنے شوہر بکر کی نافرمانی کی وجہ سے سخت گنہگار ہے اور سزا کو جو پوچھا ہے تو بکر سزا کچھ نہیں دے سکتا کیوں کہ وہ حاکم نہیں ہے کہ سزا جاری کرے۔ فقط

### دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی کے حقوق ساقط نہیں ہوتے

سوال: (۹۸۳) دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی پر کچھ حق ہے یا نہیں؟ پہلی بیوی کے وارث کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ حق پہلی بیوی پر نہیں ہے، اور اس کے کہنے سے پردہ مت کرو، شرعاً کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۱/۹۹۲ھ)

الجواب: دوسری شادی کرنے سے پہلی زوجہ کے ذمے جو حقوق شوہر ہیں وہ ساقط نہیں ہوئے، اور شوہر کے ذمے بھی جو حقوق زوجہ ہیں وہ بھی ساقط نہیں ہوئے، شوہر کو درمیان ہر دو زوجہ کے عدل اور مساوات چاہیے، اور ہر ایک زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور پردہ کرے۔ فقط

### اپنی بیوی کا زیور چھین لینا درست نہیں

سوال: (۹۸۴) زید نے اپنی زوجہ کو جب کہ وہ اس کے گھر سے نکل کر والدین کے گھر آ رہی تھی، ایک غیر سے جبراً اٹھوا کر زیور اتروالیا، یہ فعل کیسا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۲۷۳ھ)

الجواب: یہ فعل بھی زید کا برا ہے اور زوجہ کو برہنہ (بے پردہ) کرنے کے گناہ میں زید بھی

شریک ہے، اور جو زیور اپنی عورت کا چھین لیا وہ بھی غصب ہے، اس لیے کہ زیور منکوحہ کی ملک ہے خواہ زید ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو۔

### سسرال میں رہنے کی شرط پر نکاح کرنا اور شرط کو پورا نہ کرنا

سوال: (۹۸۵) ایک لڑکا سسرال میں گھر داماد رکھا گیا، اس شرط پر کہ لڑکی ماں باپ کے گھر سے دوسری جگہ نہ جاوے گی، نکاح ہو گیا اور لڑکے کے حصہ کی زمین مہر میں لکھ دی گئی، اب وہ لڑکا سسرال میں رہنا نہیں چاہتا تو شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۶۳۹ھ)

الجواب: اگر وہ لڑکا سسرال میں نہ رہے تو شرعاً اس پر کچھ جبر نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ عذر اور دشواری نہیں ہے تو حتی الوسع وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے، لیکن اگر اس شرط کو پورا نہ کر سکے تو اس پر کچھ جبر نہیں ہے، اور نکاح میں کچھ فرق نہیں آیا۔ فقط

سوال: (۹۸۶) بکر نے اپنی بہن خالدہ کا نکاح زید سے اس شرط پر کیا کہ زید کو ہمارے مکان پر رہنا ہوگا، زید بکر کے مکان پر تین سال تک رہا، اس کے بعد وہ اپنی زوجہ خالدہ کو راضی کر کے اپنے ہمراہ اپنے مکان پر لے آیا، بعد ایک سال کے اپنے بھائی کے یہاں گئی، جب زید اس کو لینے کے لیے گیا تو بکر بھیجنے پر راضی نہ ہوا، اس لیے بکر کی بلامرضی خالدہ زید کے ساتھ نہیں آئی، آیا زید پر شرط کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ زید اس شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گنہ گار ہوا یا نہیں؟ اور شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے خالدہ کا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ جب کہ بیوی شوہر کے ہمراہ نہیں گئی تو وہ گنہ گار ہوئی یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۸۳۳ھ)

الجواب: اس شرط کو پورا کرنا زید کے ذمے لازم نہیں ہے اور زید گنہ گار نہیں ہے، اور اس شرط کے پورا نہ ہونے سے خالدہ کا نکاح نہیں ٹوٹا، اور زید کی زوجہ زید کی مرضی کے خلاف بھائی کے گھر رہنے اور زید کے ہمراہ نہ جانے سے گنہ گار ہوئی، اس پر اپنے شوہر زید کی اطاعت لازم ہے۔

### بیوی کو باپ کے ترکہ میں سے اپنا حصہ لانے پر مجبور کرنا

سوال: (۹۸۷) ایک عورت کو اس کے والد کے ترکہ میں سے کچھ جائداد وغیرہ پہنچی، لیکن وہ

اس وقت اس ترکہ میں سے اپنے برادر وغیرہ سے تقسیم کرانا نہیں چاہتی بہ وجہ کسی مصلحت کے، مگر اس کا شوہر اس کو بہت زد و کوب کرتا ہے اور تکالیف ناقابل تحمل دیتا ہے کہ وہ اپنا حصہ اس ترکہ میں سے لے کر اس کو یعنی اپنے شوہر کے حوالہ کر دے، تو اس شوہر کا عورت پر اس ناجائز طریق سے دباؤ دے کر مال حاصل کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۶/۴۴-۱۳۳۵ھ)

الجواب: شوہر کو یہ دباؤ دینا حرام ہے، اور اس کو کچھ حق نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو ایسا دباؤ دے، اور اس پر اس کو زد و کوب کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو عاصی و ظالم و فاسق ہوگا۔ فقط

### میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر پکارنا

سوال: (۹۸۸) ہندہ اپنے شوہر زید کو بھائی یا میاں بھائی کہہ کر پکارتی ہے اور زید اپنی زوجہ ہندہ کو کبھی بہن کہہ لیتا ہے یہ شرعاً کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس سے طلاق نہیں ہوئی مگر ایسا کہنا مکروہ ہے۔ درمختار (۱) فقط


### بیوی شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو بیوی کی ماں روک نہیں سکتی

سوال: (۹۸۹) ایک عورت بالغہ جس کی شادی ہو گئی ہے اپنے شوہر کے پاس رہنے کے واسطے راضی ہے، لیکن اس کی والدہ اجازت نہیں دیتی، ہمیشہ اپنے مکان پر رکھنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ اگر میری دختر کو مجھ سے جدا کرو گے تو مجھ بیوہ پر ظلم ہوگا، اس صورت میں شوہر کو اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھنے کا حکم اور حق ہے یا نہیں؟ (۱۳۵۰/۴۶-۱۳۴۷ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (سورۃ نساء، آیت: ۳۴) اس آیت سے ظاہر ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور ان کو فضیلت حاصل ہے، اور عورتیں ان کی محکوم ہیں اور ان کی محتاج ہیں، اور چونکہ مردوں کے ذمے عورتوں کا مہر اور نفقہ

(۱) ویکرہ قولہ: أنت أمی و یا ابنتی و یا أختی و نحوه (الدرالمختار مع رد المحتار: ۱۰۳/۵، کتاب الطلاق، باب الظہار، مطلب: بلاغات محمد رحمہ اللہ مسندہ)

ہے اس لیے عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرماں برداری لازم ہے اور ان کے مال و آبرو کی حفاظت واجب ہے، اور زوجہ کی والدہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کے شوہر کے پاس جانے سے روکے، اور اگر شوہر اپنی جائے ملازمت میں لے جانا چاہے اور زوجہ راضی ہو تو اس کی والدہ کو اس کے روکنے کا کچھ حق نہیں ہے، اور یہ کہنا اس کی والدہ کا کہ ”اگر اس کو مجھ سے جدا کرو گے تو یہ مجھ پر ظلم ہے“ غلط ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عدل ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اس بارے میں لڑکی کو اپنی والدہ کی اطاعت جائز نہیں ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شوہر کے گھر اور شوہر کے پاس نہ جائے، کیونکہ فرماں برداری شوہر کی اس بارے میں واجب ہے اور موافقت و اتفاق باہمی ضروری ہے اور تفریق و مخالفت حرام ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم



## ماں باپ اور اولاد کے حقوق و احکام

### باپ کی بیوی حقیقی ماں نہیں

سوال: (۹۹۰) ایک شخص کہتا ہے کہ والدہ وہی ہوتی ہے جس کے شکم سے انسان پیدا ہو، اور منکوحۃ الأب صرف تادیباً و تعظیماً و حکماً والدہ ہوتی ہے اصل والدہ نہیں؛ یہ قول اس کا صحیح ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۸۵ھ)

الجواب: یہ قول اس کا صحیح ہے اور موافق نص قرآنی کے ہے: ﴿إِنْ أُمَّهُتُھُمْ إِلَّا النِّسْبُ وَلَدَنَّهُمْ الْآیَةُ﴾ (سورۃ مجادلہ، آیت: ۲)

### دُنیا کے کاموں میں بھی والدین کی اطاعت فرض ہے

سوال: (۹۹۱) اولاد پر والدین کی اطاعت کہاں تک ضروری ہے؟ اگر والدین اپنے لڑکے کو گورنمنٹی کونسلوں اور میونسپلٹی کی ممبری میں ووٹ دینے دلانے سے اور کوشش کرنے سے منع کریں؛ تو لڑکے پر والدین کا یہ حکم ماننا شرعاً ضروری ہے یا نہیں؟ اور جو شخص عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے والدین کو یہ جواب دے کہ والدین کی خدمت فرض ہے اطاعت فرض نہیں؛ یہ جواب صحیح ہے یا نہیں؟ اس جواب سے لڑکا شرعاً گنہگار ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۹۴۵ھ)

الجواب: حکم شرعی بہ طریق قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اولاد پر والدین کی اطاعت ہر ایک اس امر میں جو معصیت نہ ہو ضروری ہے اور فرض ہے، البتہ اگر والدین معصیت کا حکم کریں تو ان کی اطاعت نہ کی جاوے، جیسا کہ آیت: ﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطْعُمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا الْآيَةُ ﴿﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۱۵) سے واضح ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں قید ﴿عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي الْآيَةُ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک و معصیت کے سوا جملہ امور مباحہ میں اطاعت والدین ضروری ہے، یہاں تک کہ علامہ شامی نے نقل فرمایا ہے کہ حج نفل سے اطاعت والدین اولیٰ ہے۔ اَمَّا حَجَّ النَّفْلِ فَطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ اُولٰٓئِ مَاطْلَقًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَلْتَقَط (۱) اور احادیث صحیحہ کثیرہ میں عقوق والدین کو کبائر میں سے اور بر والدین کو فرض فرمایا ہے، چنانچہ صحیحین کی حدیث میں ہے: الْكِبَاثِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْحَدِيثُ (۲) اور ترمذی کی حدیث میں ہے: رَضَا الرَّبِّ فِي رَضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (۳) یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی باپ کی رضا اور خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے، الغرض ووٹ مذکور دینا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور والدین کے حکم کے مقابلہ میں ہرگز ووٹ نہ دینا چاہیے، اور نہ اس میں کوشش کرنی چاہیے، والدین کی جیسے خدمت فرض ہے اسی طرح اطاعت بھی فرض ہے، بلکہ خدمت تو اسی وقت فرض ہوتی ہے جس وقت ان کو ضرورت خدمت کی ہو اور کوئی دوسرا خدمت گزار موجود نہ ہو، اور اطاعت والدین ہر حال میں اور ہر وقت میں فرض اور ضروری ہے سوائے معصیت کی صورت کے کہ اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ کما ورد: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (۴) پس یہ قول اس مدعی علم کا مطلقاً کہ ”والدین کی خدمت فرض ہے اطاعت فرض نہیں ہے“ غلط ہے، جیسا کہ تفصیل اس کی اوپر معلوم ہوئی، الغرض شخص مذکور اس صورت میں باپ کا حکم نہ ماننے سے عاصی و گنہ گار ہوگا، اور عجب نہیں کہ یہ معصیت اور باپ کے حکم کا خلاف کرنا اس کا حد عقوق میں داخل ہو جاوے جس کو آنحضرت ﷺ نے کبائر میں اشراک باللہ کے بعد

(۱) رد المحتار: ۴۰۲/۳، کتاب الحجّ - مطلب فيمن حج بمال حرام .

(۲) عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين

الحديث (صحيح البخاري: ۸۸۴/۲، كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر)

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رَضَا الرَّبِّ

الحديث (جامع الترمذي: ۱۲/۲، أبواب البر والصلة - باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين)

(۴) مشكاة المصابيح، ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني .

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۱۶ ۵۰۱ ماں باپ اور اولاد کے حقوق و احکام  
ذکر فرمایا ہے۔ کما مر فی حدیث الصّحیحین .

## ماں باپ اور اولاد کے حقوق کیا ہیں؟

سوال: (۹۹۲) ماں باپ کے ذمے کیا کیا فرض اولاد کے ہیں؟ اور اولاد کے ذمے ماں باپ کے کون کون حق فرض ہیں؟ (۱۳۸۶/۲۳۸۶ھ)  
الجواب: اولاد کے ذمے والدین کی اطاعت و فرماں برداری اور ہر قسم کی خدمت و خبر گیری ہے، اور والدین کے ذمے اولاد کا نفقہ اور تعلیم و تربیت کا انتظام اور ہر قسم کی خیر خواہی ہے جس کی تفصیل معلوم و معروف ہے۔ فقط

## ماں باپ کے حقوق بیٹا اور بیٹی پر یکساں واجب ہیں

سوال: (۹۹۳) حقوق والدین لڑکے و دختر دونوں کے ذمے برابر ہیں یا کم و بیش؟  
(۱۳۳۶-۳۵/۲۹۳ھ)

الجواب: دونوں کے ذمے برابر ہیں۔ لعموم النصوص الواردة في هذا الباب (۱)

## ماں باپ کے ساتھ ادنیٰ گستاخی اور بے ادبی بھی روا نہیں

سوال: (۹۹۴) ایک مولوی نے وعظ میں یہ کہا کہ ماں باپ کا حق کچھ اولاد پر نہیں ہے، بلکہ

(۱) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳-۲۴) اور ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ (سورہ احقاف، آیت: ۱۵)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (الصّحيح لمسلم: ۳۱۴/۲، كتاب البرّ والصّلة والأدب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه (سنن أبي داود، ص: ۶۹۹، كتاب الأدب— باب في برّ الوالدين)

اس نے اپنے ماں باپ کو جو تمار کر اور گالی گلوچ کر کے سب اسباب و سامان وغیرہ جبراً چھین لیا، اور گھر سے نکال دیا، اس مسئلہ میں کیا حکم شرعی ہے؟ (۱۳۳۷/۳۵)

الجواب: ماں باپ کا اولاد پر بہت کچھ حق ہے، اور نہایت تعظیم اور محبت ان سے لازم ہے، اور ادنیٰ گستاخی اور بے ادبی بھی ان کے ساتھ روا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا الْآيَةُ﴾ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳-۲۴) ترجمہ: یہ ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے تعظیم کی بات کہو، اور اس کے آگے یہ فرمایا کہ ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤ اور پستی اختیار کرو، اور حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا دوزخ (۱) یعنی اگر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے اور ان کو خوش رکھو گے تو جنت ملے گی، اور اگر ان کو ناخوش کرو گے اور ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ فقط

### جو بیٹے باپ کو مارتے اور گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۹۹۵) زید ایک بسوادر شخص (یعنی زرعی اراضی کا مالک) ہے، اور اس کے دو فرزند بھی اس کے گھر میں رہتے ہیں، اتفاق سے زید اور اس کے بیٹوں میں اس درجہ مخالفت ہو گئی ہے کہ زید کو ناشائستہ الفاظ اور سب و شتم کے علاوہ زد و کوب بھی کر چکے ہیں، زید کے کاشتکاروں کو بہکا کر باقی کاروپہ وصول نہیں ہونے دیتے، ہر صورت سے زید کو تنگ اور مجبور کرتے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ زید کو اس کی جائداد سے بہ ذریعہ عدالت علیحدہ کر کے خود منتظم ہو جائیں، یہ فعل لڑکوں کا جائز ہے یا نہیں؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور کیا زید کے ذمے اس کے نافرمان بیٹوں کا نفقہ واجب ہے؟

(۱۳۳۷-۳۶/۳۳۱۰)

الجواب: جب کہ مالک جائداد کا زید ہے، تو اس کے بیٹوں کے لیے شرعاً کوئی چیز نہیں ہے (یعنی بیٹے باپ کی جائداد کے مالک نہیں)، اور بدون اجازت باپ کے بیٹے کوئی تصرف اور انتظام

(۱) عن أبي أمية رضي الله عنه قال: أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما حق الوالدین علی ولدھما؟ قال: هما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ (مشکاۃ المصابیح، ص: ۴۲۱، کتاب الآداب، باب البرّ والصّلة - الفصل الثالث)



متعلق باپ کی جائداد کے نہیں کر سکتے، اگر وہ دونوں زید کی جائداد میں کوئی تصرف کریں گے وصول لگان وغیرہ کا تو وہ تصرف شرعاً نافذ نہ ہوگا، کیونکہ کسی کی ملک میں دوسرے شخص کو اختیار تصرف کرنے کا شرعاً و قانوناً حاصل نہیں ہے، لہذا زید کے بیٹے زید کو انتظام جائداد سے برطرف نہیں کر سکتے، اور خود منتظم نہیں ہو سکتے، اور انتظام جائداد کا نہیں کر سکتے، اور جب کہ زید کے دونوں بیٹے بہادر تندرست کمانے پر قادر ہیں جیسا کہ باپ کو زد و کوب کرنے اور سب و شتم کرنے سے ظاہر ہے، تو نفقہ ان کا زید کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا جوان بیٹا عاجز ہو، کمانے پر قادر نہ ہو، معذور ہو، اس کا نفقہ باپ کے ذمے واجب ہے۔ درمختار میں ہے: وَكَذَا تَجِبُ لَوْلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ الْخ (۱) اور زید کے دونوں بیٹے بوجہ تکالیف دینے زید کے سخت گنہگار اور فاسق و فاجر ہیں، اور ظالم ہیں، اگر وہ اپنے گناہ اور ظلم سے توبہ نہ کریں اور باپ سے قصور معاف نہ کرائیں اور باپ کی اطاعت و فرماں برداری نہ کریں تو ان کو برادری سے خارج کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو ان سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، باری تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کی اطاعت و فرماں برداری اور ان کو خوش رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، بلکہ ان کو اُف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے: كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا الْآيَةُ﴾ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳) فقط

### ماں باپ کو گالی دینا اور مارنا حرام ہے

سوال: (۹۹۶) زید کے دو بیٹے ہیں خالد اور ولید، زید کو بلا عذر شرعی سب و شتم اور زد و کوب کرتے ہیں، عندالشرع خالد اور ولید معقوق ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۴۴۰ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳) یعنی ماں باپ کو اُف بھی نہ کہو، پس سب و شتم کرنا اور زد و کوب کرنا ان کو قطعاً حرام ہے، اور ایسی اولاد معقوق والدین کے سخت جرم میں گرفتار ہے، اس سے توبہ کرنا اور معاف کرنا لازم ہے۔ فقط

(۱) الدرّ مع الردّ: ۵/۲۷۰، کتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: الكلام على نفقة الأقارب.

## محتاج والدین کا نفقہ اولاد پر واجب ہے

سوال: (۹۹۷) اپنی کمائی میں سے والدین کو کچھ مل سکتا ہے یا نہیں؟ اگر والدین فقیر ہوں تو اولاد مقدم ہے یا والدین؟ (۳۲/۲۶-۱۳۳۳ھ)

الجواب: والدین اس کے اگر محتاج ہیں ان کا خرچ اور نفقہ بیٹے پر واجب ہے، و نیز عیال و اطفال کو بھی دیوے اور والدین کو بھی دیوے، سب کا نفقہ اس پر لازم ہے۔ و تجب علی موسر الخ النفقة لأصوله..... الفقراء ولو قادرین علی الکسب الخ (۱) (در مختار) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
سوال: (۹۹۸) بیٹے کی کمائی سے والدین کے کیا حقوق ہونے چاہئیں؟ (۴۴/۹۵۵-۱۳۳۵ھ)  
الجواب: حدیث شریف میں ہے: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (۲) پس والدین اگر محتاج ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ لازم ہے، اور ان کی خدمت واجب ہے۔ فقط

## باپ کی امداد نفل عبادت سے افضل ہے

سوال: (۹۹۹) زید کے ذمے قرض بہت ہے، اس کا ایک لڑکا بڑا متقی، عابد، زاہد شخص ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے قرضہ کا کچھ خیال نہیں کرتا، اگر اسے نوکری وغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں گا، اور ہمیشہ نوافل اور روزہ وغیرہ میں اوقات بسر کرتا ہے، باپ کی حالت نہایت نازک ہے، اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ آیا ایسے وقت میں اس کو اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے یا نوافل وغیرہ میں اوقات بسر کرے؟ اور اس کا اپنے والد کو یہ دھمکی دینا کس حد تک درست ہے؟ (۴۴/۹۱۶-۱۳۳۵ھ)

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۲۸۰-۲۷۸/۵، کتاب الطلاق - باب النفقة - مطلب فی نفقة الأصول.

(۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي اجتاحت مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم (سنن ابن ماجه، ص: ۱۶۶، أبواب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده)

**الجواب:** والدین کے حقوق لا تعدّ ولا تحصى (بے شمار) ہیں، ان کا لحاظ ہر اولاد کے لیے از حد ضروری ہے، زید پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے باپ کی اطاعت کرے، خصوصاً جب کہ باپ صاحب حاجت و کثیر العیال ہے تو ضروری ہے کہ ہر مشکل میں اس کا ہاتھ بٹایا جاوے، اس کے لیے باپ کی خدمت اور اطاعت افضل ترین عبادت ہے، فرائض اسلامی کا تعلق جس طرح صلاۃ و صوم سے ہے اسی طرح اطاعت والدین سے بھی ہے۔ پس عبادت ضروری کے سوا باپ کے ساتھ ہر کام میں اس کی امداد کرنی چاہیے، یہ نماز و روزہ بھی جب ہی کارآمد ہے کہ حقوق العباد سے غفلت نہ ہو، الحاصل زید پر اپنے باپ کی اطاعت اور اعانت اور ہر مشکل میں اس کا ہاتھ بٹانا ضروری ہے۔

برّ الوالدین أفضل ممّا تلقی اللہ بہ بعد التوحید وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم :  
 برّ الوالدین أفضل من الصّلاة والصّوم والحجّ والعمرة والجهاد فی سبیل اللہ یعنی النوافل  
 ذکرہ الإمام رحمہ اللہ (۱) (شرعة الاسلام) اسی طرح باپ کے ساتھ سخت کلامی یا ترش روئی سے  
 پیش آنا یا دھمکی دینا معصیت ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا بِالْآیَةِ ﴾  
 (سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳) فقط

## باپ جس کام کا حکم دیتا ہے ماں اس سے منع

### کرتی ہے تو اولاد کس کی اطاعت کرے؟

سوال: (۱۰۰۰) زید کے باپ نے زید کی والدہ کو طلاق دے دی ہے، بعد عدت کے اس کی والدہ نے دوسرا شوہر کر لیا ہے، زید کا والد زید کو جس کام کا امر کرتا ہے اس کی والدہ اس کے کرنے سے منع کرتی ہے یا برعکس اس کے، اگر زید ایک کی فرمانبرداری کرتا ہے تو دوسرے کی نافرمانی ہوتی ہے، آیا زید کس کے حکم کی نافرمانی کرے اور کس کی فرماں برداری؟ (۱۲/۱۳۳۵ھ)

**الجواب:** اطاعت والدین کی معصیت میں نہیں ہے۔ جیسا کہ وارد ہے: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق (۲) پس جب کہ باپ نے یا ماں نے اول کسی امر کا حکم کیا جو موافق شرع کے

(۱) شرح شرعة الإسلام، ص: ۴۷۹، فصل فی حقوق الوالدین والسنة فی إقامتها. المطبوعة:  
 دار الطباعة العامرة. (۲) مشکاة المصابیح، ص: ۳۲۱، کتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثانی

ہے، اور اس میں کچھ معصیت نہیں ہے تو اس کے خلاف جو دوسرے نے ضد سے حکم کیا وہ مبنی ضد اور نفسانیت پر ہے اور معصیت ہے، لہذا اس دوسرے کی اطاعت نہ کرنی چاہیے، یا یوں فیصلہ کیا جاوے کہ جس کا حکم ان دونوں میں موافق شرع کے ہو اس کو کرے اور جس کا حکم خلاف شرع ہے اس کو نہ کرے، اور حق الوسع ایک کے حکم کی دوسرے کو خبر نہ کیا کرے جب کہ ان میں خلاف اور عداوت ہے۔ فقط

**باپ سے میل جول رکھنے پر ماں ناراض ہوتی ہے تو بیٹا کیا کرے؟**

سوال: (۱۰۰۱) بکر نے زوجہ کو طلاق دے دی، اس سے ایک لڑکا تھا عمر، وہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا، جب جوان ہوا تو والد سے میل جول رکھتا ہے، والدہ ناراض ہوتی ہے، آیا وہ اپنی والدہ کے فرمانے کو مقدم رکھے یا والد بکر سے میل جول رکھے؟ (۱۳۳۷/۲۶۷۶)

الجواب: وہ اپنے باپ سے ضرور ملے اور اس کی اطاعت کرے، اور اس بارے میں والدہ کے کہنے کا خیال نہ کرے، کیونکہ حدیث میں ہے: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (۱) فقط

**باپ جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے بیٹا**

**اس کے کرنے سے عاجز ہے تو کیا کرے؟**

سوال: (۱۰۰۲) اگر باپ اپنے لڑکے سے کسی ایسی بات کے کرنے کی ضد کرے جس کے کرنے پر لڑکا قادر نہ ہو، اسی وجہ سے باپ اس سے رنجیدہ ہو جائے تو اس صورت میں لڑکا گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۱۷۷۰)

الجواب: جس کام کے کرنے سے لڑکا عاجز ہے اس کے نہ کرنے سے گنہ گار نہ ہوگا، اور باپ کا نافرمان نہ سمجھا جائے گا اور اس پر کچھ مواخذہ اس وجہ سے نہ ہوگا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْآيَةُ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۶)

**باپ بیٹے کو تکلیف پہنچاتا ہے تب بھی باپ کی اطاعت کرنا چاہیے**

سوال: (۱۰۰۳) زید اپنے پسر عمر کو بہت تکلیف دیتا تھا، اس وجہ سے عمر اپنی نانی کے پاس

رہا، اور وہیں پرورش پائی، اب عمر کے پاس روپیہ ہے اور زید اس کو اب بھی تکلیف پہنچاتا ہے، پس اس صورت میں عمر اپنی نانی کو خرچ دے یا اپنے باپ زید کو؟ زید عمر کا نکاح کرنے سے انکار کرتا ہے۔

(۱۳۳۳ھ/۹۰۹-۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: عمر کو باپ کی اطاعت کرنا چاہیے اگرچہ باپ تکلیف پہنچائے، باقی خرچ کی بابت یہ حکم ہے کہ اگر باپ کو خرچ کی ضرورت نہ ہو اس کے پاس آمدنی کافی ہو اور عمر کو ضرورت خرچ کی ہو، اور اس کی نانی بھی محتاج ہو، تو عمر اپنا اور نانی کا خرچ اٹھائے، اور اپنے نکاح کا بندوبست کرے، زید کو جب کہ ضرورت خرچ کی نہیں ہے تو اس کو خرچ نہ دینے سے عمر گنہ گار نہ ہوگا، لیکن ویسے عمر کو لازم ہے کہ زید کی اطاعت کرے، اس کا خلاف اور مقابلہ نہ کرے (۱) فقط

### ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا استاذ کا؟

سوال: (۱۰۰۴) خدمت میں ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا استاذ کا؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۶۹۲ھ)

الجواب: ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔

سوال: (۱۰۰۵) شریعت میں والدین کا حق زیادہ ہے یا استاذ کا؟ (۱۳۳۷-۳۶/۱۰۹ھ)

الجواب: شامی جلد خامس میں ہے: وقال الزندوسی: حق العالم علی الجاهل وحق الأستاذ علی التلميذ واحد علی السواء إلخ وحق الزوج علی الزوجة أكثر من هذا إلخ (۲) اس کا حاصل یہ ہے کہ عالم کا حق جاہل پر اور استاذ کا حق شاگرد پر برابر ہے، اور شوہر کا حق زوجہ پر اس سے زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین کا حق اس سے زیادہ ہے، پس معلوم ہوا کہ والدین کا حق اس حیثیت سے زیادہ ہے اگرچہ بعض حیثیت سے استاذ کا حق زیادہ ہو۔ فقط

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فواحدًا ومن أصبح عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحداً فواحدًا، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۱، كتاب الآداب - باب البر والصلة الفصل الثالث)

(۲) الشامي: ۴۰۵/۱۰، كتاب الخنثى، مسائل شتى، قبيل كتاب الفرائض .

## ماں باپ کی خدمت مقدم ہے یا استاذ و پیر کی؟

سوال: (۱۰۰۶) خدمت میں والدین کا رتبہ زیادہ ہے یا استاذ اور پیر کا؟ (۱۳۳۳ھ/۲۱۷۵-۳۲/۱۳۳۳ھ)  
الجواب: خدمت والدین کو خدمت پیر و استاذ پر ترجیح ہے، مگر احترام ان کا بھی لازم ہے۔  
وهو أن لا يفتح الكلام قبله، ولا يجلس مكانه وإن غاب، ولا يرد عليه كلامه، ولا يتقدم عليه في مشيه الخ (۱) (شامی) فقط

## کیا پیر کے حقوق والدین سے زیادہ ہیں؟

سوال: (۱۰۰۷) کیا پیر کے حقوق والدین سے زیادہ ہیں؟ اگر والدین اولاد کو ایسا حکم دیں جو منافی شرع نہ ہو تو کیا اولاد پر واجب ہے کہ وہ حکم والدین کو پیر کے کہنے سے مسترد کرے؟  
(۱۳۳۰ھ/۱۳۰۴)

الجواب: والدین کے حقوق زیادہ ہیں، پس والدین کا جو حکم خلاف شریعت نہ ہو اس کو پیر کے کہنے سے مسترد نہ کرنا چاہیے۔ فقط

## بھائی بہن سے ماں باپ کا درجہ بلند ہے

سوال: (۱۰۰۸) ماں باپ کا درجہ بزرگی میں اعلیٰ ہے یا بھائی بہن کا؟ (۱۳۳۳ھ/۱۶۱۷)  
الجواب: سب سے اعلیٰ درجہ ماں باپ ہی کا ہے اور سب کا درجہ علیٰ فرق المراتب ماں باپ سے کم ہی ہے۔ فقط

## جو بیٹا ماں کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو

## ایذا دیتا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا

سوال: (۱۰۰۹) میرا فرزند نور عالم مجھ کو ایذا دیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے

(۱) رد المحتار: ۴۰۵/۱۰، کتاب الخنثی - مسائل شتی - قبیل کتاب الفرائض .

کیا حکم ہے؟ (۳۱۱/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: والدہ کی اطاعت ان امور میں جو معصیت نہ ہوں لازم ہے، اور فرزند پر والدین کی تعظیم و ادب واجب ہے، جو شخص والدہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو ایذا دیتا ہے وہ فاسق و عاصی ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳) اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور والدہ سے قصور معاف کرائے حدیث شریف میں ہے کہ والدہ کی خدمت اور اطاعت سے جنت ملتی ہے، اور جو شخص والدین کا نافرمان اور عاق ہے وہ جنت میں نہ جائے گا (۱) اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اولاد کو توفیق اطاعت والدین کی دیوے۔

جنت کہ رضائے مادران است ❁ اندر تہ پائے مادران است (۲)

### بیٹے نے باپ پر زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: (۱۰۱۰) بکر اپنے باپ کے ساتھ لڑا، اور باپ پر زیادتی کی اور گستاخی کی، تو اس صورت میں بکر پر کیا تاوان ہے؟ (۲۱/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس صورت میں بکر کے ذمے اور کچھ تاوان نہیں ہے توبہ کرے اور اپنے باپ سے قصور معاف کراوے، یہ کافی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فواحدًا، ومن أصبح عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحداً فواحدًا، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه (مشكاة المصابيح: ص ۴۲۱، كتاب الآداب، باب البر والصلة، الفصل الثالث)

(۲) ترجمہ: جنت کہ ہماری خوشی اس میں ہے ❁ وہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے

عن معاوية بن جَاهِمَةَ السَّلَمِي رضي الله عنه أن جَاهِمَةَ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئتُ استشيرُكَ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تحت رِجْلَيْهَا (سنن النسائي: ۴۴/۲، كتاب الجهاد، الرخصة في التَخَلُّف لمن له والدان)

### والدین ناراض فوت ہوئے ہوں تو معافی کی کیا صورت ہے؟

سوال: (۱۰۱۱) کسی شخص کے والدین ناراض فوت ہو گئے ہوں، بعد مرنے کے شرعاً کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۷۱۹ھ)

الجواب: ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور قرآن شریف پڑھ کر اور صدقہ خیرات سے ان کی ارواح کو ثواب پہنچا دے، اور اللہ سے توبہ کرے، امید ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور گناہ معاف ہوگا (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### والدہ سے دودھ بخشنا

سوال: (۱۰۱۲) والدہ کی وفات کے وقت جو اولاد دودھ بخشتی ہے؛ یہ حکم شرعی ہے یا رواجی؟ (۱۳۳۳/۶۳۱ھ)

الجواب: ماں کے حقوق اولاد پر بہت ہیں، اس لیے تمام حقوق معاف کرانے چاہئیں، اُس میں دودھ پلانے کا حق بھی ہے، غالباً اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، غرض یہ کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، آخرت کے لیے یہ اچھا ہے۔

### باپ بیٹے کا قصور معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے

سوال: (۱۰۱۳) زید نے اپنے لڑکے بکر کو بہ موجودگی چند لوگوں کے یہ کہا کہ میں نے تجھ کو عاق کر دیا، لڑکے نے کہا کہ میں والد کی چیزوں پر لا حول بھیجتا ہوں، اب اگر زید بکر کے قصور کو معاف کر دے تو یہ معافی صحیح ہوگی یا نہیں؟ اور زید کو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ اور بعد معافی بکر سے مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۸۴۳ھ)

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبدَ ليموتُ والداهُ أو أحدهما و أنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله باراً (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۱، كتاب الآداب، أبواب البرِّ والصلة، الفصل الثالث)



الجواب: زید پر اس صورت میں کچھ کفارہ نہیں ہے، زید نے یہ اچھا کیا کہ اپنے فرزند بکر کا قصور معاف کر دیا یہ معافی صحیح ہوگئی، اب بکر کو یہ چاہیے کہ اپنی خطا پر نادم ہو اور اپنے والد کی اطاعت کرے اور ان کی خدمت گزاری کو موجب فلاح دارین سمجھے۔ حدیث شریف میں ہے: رضا الربّ فی رضا الوالد (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ فقط

### شادی کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق باقی رہتے ہیں

سوال: (۱۰۱۴) دختر کی شادی کے بعد والدین کا کچھ حق اس پر ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۹۰۹ھ)

الجواب: اولاد کے ذمے والدین کے حقوق جو قبل از شادی کے تھے بعد شادی کے بھی باقی ہیں مثلاً اطاعت والدین اولاد کے ذمے ضروری ہے اور نافرمانی اور بدسلوکی والدین کے ساتھ کرنا حرام ہے بر والدین (ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا) فرض اسلامی ہے، اسی طرح حقوق والدین (ماں باپ کی نافرمانی) پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### شادی کے بعد عورت ماں باپ کی اطاعت کرے یا شوہر کی؟

سوال: (۱۰۱۵) بیٹی پر شادی کے بعد والدین کا حکم ماننا فرض ہے یا وہ خاوند کے زیر حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۵۳۳ھ)

(۱) عن عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : رضا الربّ الحديث (جامع الترمذي: ۱۲/۲، أبواب البرّ والصلة - باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدین)

(۲) عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله ! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدین الحديث (صحيح البخاري: ۸۸۴/۲، كتاب الأدب - باب عقوق الوالدین من الكبائر)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة منان ولا عاق الحديث، رواه النسائي والدارمي (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۰، كتاب الآداب - باب البرّ والصلة، الفصل الثاني)

الجواب: اطاعت خاوند کی بھی واجب ہے اور والدین کی بھی، دونوں کو راضی رکھے (۱) فقط

### خلاف شرع امور میں کسی کی اطاعت جائز نہیں

سوال: (۱۰۱۶) جو امور خلاف شریعت ہیں، اگر ان کے لیے ماں باپ مرشد وغیرہ مجبور کریں تو انحراف جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۳۵۵ھ)

الجواب: امور خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ وارد ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۲) استاد ہو یا پیر، والدین ہوں یا کوئی اور؛ امر خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ فقط

### باپ زانی ہو پھر بھی جائز امور میں اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے

سوال: (۱۰۱۷) زید کا باپ حافظ قرآن ہے، مگر زانی بھی ہے، ایسے باپ کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۹۱۹ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۲) یعنی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، پس سوائے معاصی کے اور امور میں والدین کی اطاعت فرض ہے۔ فقط

### فاسق باپ کے ساتھ اولاد کو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۱۸) ایک شخص کی زوجہ مرگئی، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، اور اس زوجہ کے کہنے سے اثاث البیت وغیرہ میں سے اولاد کو کچھ نہیں دیا، اور نیز یہ شخص طوائف کے یہاں جا کر ان کی حرام کمائی کا کھانا کھاتا ہے، اور اجرت ماہواری پر ان کو کتب لہو و لعب پڑھاتا ہے، اس کی اولاد تعلیم یافتہ اس کو منع کرتی ہے مگر باز نہیں آتا، اور اگر اس کی اولاد میں سے کوئی بہ ارادۂ حج بیت اللہ جانا (۱) لیکن اگر دونوں کو راضی رکھنا ممکن نہ ہو تو شوہر کی اطاعت کرے، کیونکہ عورت پر شوہر کی اطاعت والدین اور جملہ اقرباء کی اطاعت سے مقدم ہے۔

(۲) مشکاة المصابیح، ص: ۳۲۱، کتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثانی .

چاہے تو کہتا ہے کہ بلا میری اجازت حج قبول نہ ہوگا؛ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایسے باپ کے ساتھ اولاد کو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ (۱۹۰۴/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: یہ افعال باپ کے برے ہیں، اولاد کو اس کے افعال میں شریک ہونا نہ چاہیے، لیکن حتی الوسع اس کی فرمانبرداری دیگر امور میں کرتے رہیں، اور معاملہ بھلائی کا اور سلوک ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (سورہ لقمان، آیت: ۱۵) والدین کے باوجود مشرک ہونے کے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دنیا میں کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ باقی حج اگر فرض ہے تو جانا ہی چاہیے اگرچہ باپ ناخوش ہو، اور اگر نفل ہے تو اس کی اجازت سے جاوے۔ کذا فی الشامی (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

باپ نے بیٹے کی پرورش نہ کی ہو تب بھی باپ کی اطاعت فرض ہے

سوال: (۱۰۱۹) زید نے اپنے لڑکے کو جو کہ شیر خوار تھا، اپنی زوجہ سے چھین کر ناںھیال پہنچا دیا، عمر نے نانی کا دودھ پی کر پرورش پائی، بالغ ہونے تک ماں سے علیحدہ رہا، اور نہ باپ نے اس کو لکھایا پڑھایا، ایسی صورت اور حالت میں عمر پرزید کی خدمت واجب ہے یا نہیں؟ (۸۹۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: عمر پرزید کی خدمت لازم ہے، اور اطاعت باپ کی فرض ہے۔ فقط

ماں نماز نہ پڑھتی ہو تب بھی خدمت کرنا ضروری ہے

سوال: (۱۰۲۰) والدہ نماز نہیں پڑھتی، اگر بیٹا اس سے علیحدہ ہو جاوے اور کوئی خدمت نہ

(۱) وَقَدْ يَتَّصِفُ بِالْحَرَمَةِ كَالْحَجِّ بِمَالٍ حَرَامٍ، وَبِالْكَرَاهَةِ كَالْحَجِّ بِإِذْنِ مَنْ يَجِبُ اسْتِثْنَانُهُ وَفِي الشَّامِيِّ: قَوْلُهُ: (مَنْ يَجِبُ اسْتِثْنَانُهُ) كَأَحَدِ أَبَوَيْهِ الْمُحْتَاجِ إِلَى خِدْمَتِهِ، وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ كَالْأَبَوَيْنِ عِنْدَ فَقْدِهِمَا ..... فَيَكْرَهُ خُرُوجَهُ بِإِذْنِهِمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَلِذَا عَبَّرَ الشَّارِحُ بِالْوُجُوبِ ..... قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهَذَا كَلَهُ فِي حَجِّ الْفَرَضِ، أَمَّا حَجُّ النَّفْلِ فَطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ أُولَى مَطْلَقًا (الدَّرَالْمَخْتَارُ وَرَدُّ الْمَحْتَارِ: ۴۰۲/۳، كِتَابُ الْحَجِّ - مُطْلَبُ فِيمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ)

کرے تو عند اللہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ یا ہر حال خدمت کرنا ضروری ہے؟ بینوا تو جروا (۱۳۳۵ھ/۱۲۳۳ھ)

الجواب: والدین کی خدمت بہر کیف واجب ہے، خدمت و اطاعت بہ علاقہ اُبوّت و بتوت (باپ ہونے اور بیٹا ہونے کی وجہ سے) ہے، والدہ اگر نماز نہیں پڑھتی اس کی وہ ذمہ دار ہے، بیٹے کا فرض ہے کہ وہ بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا رہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### باپ کی خوشنودی کے لیے رافضی سے میل جول رکھنا جائز نہیں

سوال: (۱۰۲۱) رافضی تہرائی سے میل رکھنا کیسا ہے؟ عمر کا باپ ناراض ہے معافی اس شرط پر دیتا ہے کہ پہلے رافضی سے معافی مانگے، چونکہ وہ رافضی کو اپنے مکان پر رکھنا نہیں چاہتا ہے تو عمر پر باپ کی اطاعت فرض ہے یا نہیں؟ (۲۰۹۷/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: رافضی سے میل جول رکھنا مناسب نہیں ہے، اور نہ اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، البتہ اپنے باپ کو حتی الوسع خوش رکھنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے۔ فقط

### ماں باپ: نانا، نانی یا خالو سے قطع تعلق پر مجبور کریں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۲۲) کیا والدین کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نانا، نانی یا خالو سے کسی وجہ سے ترک تعلق پر مجبور کریں؟ اور اولاد اس قسم کے اوامر میں کس درجہ اطاعت کی شرعاً مامور ہے؟ (۲۸/۳۶-۱۳۳۷ھ)

الجواب: والدین کو ایسا حکم کرنا بدون کسی وجہ شرعی کے درست نہیں ہے، اور اولاد کو ایسے خلاف شرع امور میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ کما ورد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱) فقط

### ماں باپ اور بڑا بھائی زکاۃ ادا کرنے سے روکیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۲۳) لڑکے عاقل بالغ کو فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں والدین کی

رضامندی کا لحاظ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ مثلاً مال ہوتے ہوئے والدین کی ناراضی اور غصہ کے خوف سے زکاۃ ادا نہ کرے اور والدین اور بڑا بھائی بہ سبب تنگ دلی اور بخل کے خود بھی زکاۃ نہ دیں، اور لڑکے کو بھی ادا نہ کرنے دیں تو مواخذہ کس پر ہوگا؟ (۱۳۳۵/۶۱۳)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱) یعنی حق تعالیٰ شانہ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خواہ والدین ہوں یا بھائی وغیرہ، پس زکاۃ مفروضہ نکالنا اس پر واجب ہے، اگرچہ والدین ناراض ہوں، اور اگر وہ والدین وغیرہما کے خوف سے زکاۃ نہ دے گا تو ترک فرض کا گناہ اور مواخذہ اس پر ہوگا اور مانعین پر منع کرنے کا گناہ اور مواخذہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ماں نے بڑے بیٹے کو مکان سے نکال دیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۲۴) دو بیٹے اپنی والدہ حقیقی کے ہمراہ رہتے تھے، اور والد مرحوم نے مکان لڑکوں کی والدہ کے نام کر دیا تھا، والدہ نے بد مزاج ہونے کی وجہ سے بڑے بیٹے کو مکان سے نکال دیا، اور سب اسباب گھر کا والدہ اور چھوٹے بھائی نے دبا لیا ہے، اور اب بڑا بیٹا ایک مسجد میں امامت کر کے اپنا گذر کرتا ہے، ایک مخالف نے ایسا سوال قائم کیا ہے کہ اس سے اس کی امامت ناجائز ہوتی ہے؟ یہ باتیں جائز ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۴۷۷)

الجواب: اس صورت میں قصور بڑے بیٹے کا کچھ نہیں ہے، زیادتی اور حق تلفی والدہ اور چھوٹے بھائی کی طرف سے ہے، اور قطع رحمی کا مواخذہ ان پر ہے، جو مکان والد مرحوم کا خرید تھا، اور کسی مصلحت سے والدہ کے نام کر دیا تھا وہ ملک والد کی ہے، اس میں والدہ اور دونوں پسر شریک اور حصہ دار ہیں اور مالک ہیں، والدہ کو یہ اختیار نہ تھا کہ اس مکان میں سے بڑے بیٹے کو نکالے اور ترکہ والد مرحوم اثاث الیبت، پارچہ، کتب وغیرہ سے اس کو کچھ حق نہ دے، یہ سخت حق تلفی بڑے بیٹے کی ہے، الحاصل نماز اس بڑے بیٹے کے پیچھے درست ہے، اور امامت اس کی بلاکراہت جائز ہے، وہ نافرمان والدہ کا نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱) اور

جس شخص نے فتنہ قائم کرنے کو ایسا سوال قائم کیا جس سے اس مظلوم بڑے بیٹے کی امامت کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے، اور افترا و بہتان و حق تلفی سے کام لیا، وہ سخت گنہگار و فاسق ہے۔ فقط

## بیٹے کا باپ کی اطاعت و خدمت سے انحراف کرنا

### اور باپ کا بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا

سوال: (۱۰۲۵) زید ہر امر میں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور باوجود قدرت کے زید اپنے معذور باپ کی خدمت و اطاعت سے ہمیشہ منحرف رہتا ہے، اس صورت میں زید کس گناہ کا مرتکب ہوا؟ زید کا باپ بہ وجہ ناخوشی کے اپنی تمام حقیقت (ملکیت) اپنے دوسرے ورثہ ذوی الفروض و عصباء کو ہبہ یا وصیت کے ذریعہ سے دیدے، اور زید کو کچھ نہ دیوے تو عند اللہ زید کا باپ ماخوذ ہوگا یا نہیں؟ زید اس حقیقت موہوبہ و موصی میں سے اپنا حصہ پاسکتا ہے یا نہیں؟ (۷۷۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: ایسی حالت میں زید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، عقوق والدین گناہ کبیرہ ہے (۱) لیکن زید کے باپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ زید کو کچھ نہ دیوے اور دوسرے ورثہ کو دے دیوے یہ ظلم ہے (۲) اس فعل سے زید کا باپ ظالم و عاصی ہوگا، اور وصیت وارث کے لیے صحیح نہیں ہوتی، اور ہبہ اگر مشاع کا ہے تو وہ باطل ہے، ان ہر دو حالت میں زید وارث ہوگا۔ فقط

## اولاد کو عاق کرنا درست نہیں

سوال: (۱۰۲۶) ماں باپ اپنی اولاد کو کن فعلوں سے عاق کر سکتے ہیں؟ (۱۶۲۹/۱۳۳۲ھ)

(۱) عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراف بالله وعقوق الوالدين الحديث (صحيح البخاري: ۸۸۴/۲، كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر)

(۲) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواہ؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على جور (الصحيح لمسلم: ۳۷/۲، كتاب الهبات، باب كراهة التفضيل بعض الأولاد في الهبة)

الجواب: عاق والدین عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے، اور ان کی نافرمانی کرے، اور بجائے بروا احسان کے ان کے ساتھ بدسلوکی کرے اور گستاخی کرے، پس جو شخص ایسا کرے وہ عاق ہے اور سخت گنہ گار اور فاسق ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عقوق والدین اولاد کا فعل ہے جو اولاد ایسی ہو وہ عاق ہے، باقی رہا عاق کرنا والدین کا اپنی اولاد کو بایں معنی کہ ان کو میراث سے محروم کیا جائے یہ شریعت میں درست نہیں ہے، اولاد کیسی ہی ہو ان کی میراث قطع کرنا نہ چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے: **من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة يوم القيامة (۱)** فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جو اولاد ماں باپ سے کلام ترک کر دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۲۷) اگر کوئی اولاد نافرمان والدین ہو، اور والدین سے کلام ترک کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۳۳۸/۳۴۲-۱۳۳۵ھ)

الجواب: ایسی اولاد نافرمان عند اللہ بہت گنہ گار اور عاصی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: **رضا الربّ في رضا الوالد وسخط الربّ في سخط الوالد (۲)** یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ باپ کے غصہ میں ہے۔

اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہ داخل ہوگا (۳) یعنی دخول اُولی جنت میں اس کو نصیب نہ ہوگا، بہر حال نافرمانی والدین کی گناہ کبیرہ ہے اس سے بچنا

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع الحديث

(مشكاة المصابيح، ص: ۲۶۶، باب الوصايا، الفصل الثالث، قبيل كتاب النكاح)

(۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رضا

الربّ الحديث (جامع الترمذي: ۱۲/۲، أبواب البرّ والصلة - باب ما جاء من الفضل في رضا

الوالدين)

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل

الجنة منان ولا عاق، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ (سنن النسائي: ۲۸۲/۲، كتاب الأشربة - الرواية في

المدمنين في الخمر)

چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرماں برداری میں رہے اور ان کو راضی رکھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## نافرمان اولاد کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟

سوال: (۱۰۲۸) والدین اولاد کو شرعاً کن صورتوں میں عاق کر سکتے ہیں؟ اور عاق شدہ اولاد کے لیے شرعاً کیا وعیدیں ہیں؟ (۱۳۴۵/۹۴۶ھ)

الجواب: عاق کے معنی قاطع کے ہیں، پس جو شخص قطع رحم کرے اور والدین کے ساتھ برو احسان و سلوک نہ کرے، اور والدین کی نافرمانی کرے ان امور میں جن میں اطاعت والدین فرض ہے وہ عاق ہے، خواہ والدین اس کو عاق کریں یا نہ کریں، اور عاق کہیں یا نہ کہیں وہ خود عاق ہے، اولاد کا عاق ہونا والدین کے عاق کرنے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے والدین کے عاق کرنے پر کوئی حکم شرعی عدم توریت وغیرہ کا مرتب نہیں ہوتا، البتہ جو اولاد عاق والدین ہے وہ عاصی و فاسق ہے، اور ایسی اولاد پر وعید عدم دخول جنت کی وارد ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: لا یدخل الجنة عاق کہ ماں باپ کا حقوق اور نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا (۱) اور دوسری حدیث میں والدین کے غصہ کو اللہ تعالیٰ کا غصہ فرمایا۔ کما ورد: رضا الربّ فی رضا الوالد و سخط الربّ فی سخط الوالد (۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا: ما حقّ الوالدین علی ولدھما؟ کیا حق ہے ماں باپ کا اولاد پر؟ قال: هما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ (۳) فرمایا: ماں باپ تیری جنت ہیں یا دوزخ ہیں یعنی اگر ان کی اطاعت کرے گا تو داخل

(۱) حوالہ سابقہ۔

(۲) عن عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم: قال: رضا الربّ الحدیث (جامع الترمذی: ۱۲/۲، أبواب البرّ والصلة) – باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین

(۳) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما حقّ الوالدین علی ولدھما؟ قال: هما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۱، کتاب الآداب، باب البرّ والصلة، الفصل الثالث)



جنت ہوگا اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو داخل دوزخ ہوگا۔ فقط

### نا فرمان اولاد سے قطع تعلق کرنا درست ہے

سوال: (۱۰۲۹) ایک لڑکا والدین کا نافرمان ہے، اور گالی گلوچ دیتا ہے، اور زد و کوب بھی کرتا ہے، اور والد کے ساتھ برے طور سے پیش آتا ہے، والدین اس سے سخت ناراض ہیں؛ ایسے لڑکے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۲/۱۱۱۱ھ)

الجواب: وہ لڑکا فاسق ہے اور سخت گنہ گار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لا یدخل الجنة عاق (۱) اور عقوق والدین یعنی نافرمانی والدین کو آنحضرت ﷺ نے کبار گناہوں میں سے شمار فرمایا ہے (۲) اگر وہ توبہ نہ کرے اور ماں باپ کو راضی نہ کرے اور ان سے قصور معاف نہ کرائے تو اس سے مقاطعت کرنا اور میل جول قطع کرنا درست ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْآیة﴾ (سورہ انعام: آیت: ۶۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### بیٹے کو گھر سے نکال دینا اور نان و نفقہ بند کر دینا

سوال: (۱۰۳۰) ایک شخص نے اپنے لڑکے کو گھر سے نکال دیا اور نان و نفقہ بند کر دیا، تو باپ کی حین حیات میں وہ لڑکا باپ کے ترکہ سے کچھ لے سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۳/۸۸۹ھ)

الجواب: باپ کی حیات میں بیٹے کو کچھ میراث ترکہ ہجدی و پدری سے نہیں مل سکتی، باقی اگر لڑکا نابالغ ہو یا بالغ محتاج ہو تو باپ کے ذمے ان کو نفقہ دینا ضروری ہے، اگر باپ ان کو نفقہ نہ دے گا

(۱) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنة منان ولا عاق الحدیث، رواہ النسائی والدارمی (مشکاۃ المصابیح، ص: ۴۲۰، کتاب الآداب - باب البر والصلة - الفصل الثانی)

(۲) عن عبد الرحمن بن أبی بکرۃ عن أبیہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ألا أنبئکم بأکبر الكبائر قلنا: بلی یا رسول اللہ! قال: الإشراک باللہ وعقوق الوالدین الحدیث (صحیح البخاری: ۸۸۴/۲، کتاب الأدب - باب عقوق الوالدین من الكبائر)

گنہگار ہوگا، اور اولاد بہ قدر نفقہ واجبہ باپ کے مال میں سے لے سکتی ہے (۱) فقط

والدین کو بالغ اولاد سے جبراً خدمت لینا درست ہے

سوال: (۱۰۳۱) والدین کو اولاد بالغ سے جبراً خدمت لینا درست ہے یا نہیں؟

(۱۳۳۲-۳۳/۲۶۵ھ)

الجواب: جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ماں باپ کے کہنے پر بے قصور بیوی کو طلاق دینا

سوال: (۱۰۳۲) اگر والدین پر سے کہیں کہ اپنی زوجہ کو طلاق دیدے اور زوجہ کا کوئی قصور

نہ ہو، اس صورت میں والدین کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں؟ اور حکم ماننے اور طلاق دینے میں کچھ گناہ تو

نہیں ہوگا؟ (۱۳۳۵-۳۶/۲۹۳ھ)

الجواب: اگر کوئی محذور اور حرج اس میں لازم نہ آوے اور ماں باپ کا امر کسی وجہ شرعی سے

ہو تو ان کی اطاعت کی وجہ سے طلاق دے دیوے (۲) لیکن اگر بہ وجہ اپنے مصالح کے طلاق نہ

(۱) نفقة الأولاد الصغار والأناث المعسرات على الأب، لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط

بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو

مرض فتكون نفقته على والده، ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة عاجز

لأن من لا يحسن العمل لا يستأجره الناس (الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية: ۱/۴۳۵،

كتاب النكاح، فصل في نفقة الأولاد)

(۲) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتاه، فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني

بطلاقها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أو سط

أبواب الجنة، فإن شئت فأضغ ذلك الباب أو أحفظه (جامع الترمذي: ۱۲/۲، أبواب البر

والصلة - باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتني امرأة وكنت أحبها، وكان عمر

يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها (سنن أبي داود، ص: ۶۹۹، كتاب الأدب ==

دیوے تو گنہ گار نہ ہوگا (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۱۰۳۳) اگر باپ اپنے فرزند کو ہدایت کرے کہ تو اپنی عورت کو طلاق دیدے، اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۸/۹۷۲)

الجواب: اگر عورت بے قصور ہے اور بیٹا مجبور ہے اپنی زوجہ کو علیحدہ نہیں کر سکتا تو بیٹے پر تعمیل واجب نہیں ہے (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

== باب فی برّ الوالدین، وجامع الترمذی: ۲۲۶/۱، أبواب الطلاق واللّعان، باب ما جاء فی الرجل یسأله أبوه أن یطلق امرأته

(۱): مسئلہ: والدین کی فرمانبرداری بعض صورتوں میں واجب ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب، اور بعض صورتوں میں ناجائز، گناہ کے کاموں میں والدین ہی کی نہیں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: ”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں“ صرف جائز کاموں میں والدین کی اطاعت واجب یا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے: ”اپنے پروردگار کی اور اپنے والدین کی اطاعت کر اگرچہ وہ تجھے ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کا حکم دیں۔“ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ان کو بیوی سے بہت محبت تھی، ان کے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دیدو، ابن عمرؓ نے (عملی) انکار کیا، اور آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے ابا کا کہا مانو“۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کا حکم تو نہیں دیا، مگر حدیث سنائی کہ ”باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے خواہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھ یا اس کی حفاظت کر“۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر حکم واجب الاطاعت نہیں، بعض واجب ہیں، بعض مستحب۔ چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ اگر کسی کو بیوی سے محبت ہو اور ماں یا باپ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں — اگرچہ وہ حکم عورت کی بدچلتی کی وجہ سے ہو — اور لڑکا اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق دیدے۔ (تحفة الالمعی شرح سنن الترمذی: ۲۳۹/۵،

أبواب البرّ والصّلة. اور یہ مضمون تفصیل سے تفسیر ہدایت القرآن: ۵/۵۷-۶۴، میں بھی ہے)

(۲): حضرت گنگوہی قدس سرہ نے الکوکب الدری میں فرمایا ہے کہ اگر والدین کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاعت واجب ہے، البتہ ناجائز اور گناہوں کے کاموں میں والدین کی کیا کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں (مشکاۃ، حدیث: ۴۹۱۶) اور والدین کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں (تحفة الالمعی شرح سنن الترمذی: ۸۴/۴)

ساس اور بہو میں نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۳۴) اگر بہو اور ساس کی نہ بنے تو لڑکے اور بیوی کو علیحدہ کرنا چاہیے یا کیا؟

(۱۳۳۸/۲۱۳۸ھ)

الجواب: ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فقط

نادار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب نہیں

سوال: (۱۰۳۵) ایک شخص اپنے چھ لڑکوں کو علیحدہ کر کے ہر ایک سے پانچ روپیہ ماہوار مانگتا ہے، پہلی زوجہ سے جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں دوسرے لڑکوں سے لو، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۴۱/۲۹۰۸ھ)

الجواب: جو لڑکا نادار اور غیر مستطیع ہے اس کے اوپر باقی اولاد اغنیاء کے برابر نفقہ کا بار ڈالنا شریعت میں نہیں ہے، بلکہ صرف اغنیاء کے ذمے ہے (۱) لہذا نادار لڑکے کا عذر شرعاً صحیح و مقبول ہے۔  
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۶) فقط

والدین اجازت نہ دیں تب بھی بہ قدر

ضرورت علم دین حاصل کرنا ضروری ہے

سوال: (۱۰۳۶) اگر والدین اجازت نہ دیں تو علم دین پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

(۱۳۳۴-۳۳/۱۷۲۵ھ)

الجواب: علم دین بہ قدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے، بلا اجازت والدین بھی اس کو

حاصل کرنا چاہیے۔ فقط

(۱) وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ الْمَوْسِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ الْمَعْسَرَيْنِ ..... الْيَسَارُ مَقْدَرٌ بِالنَّصَابِ فِيمَا رُئِيَ  
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى (الفتاوى الهندية: ۱/۵۶۴ كتاب الطلاق، الباب  
السابع عشر في النفقات، الفصل الخامس في نفقة ذوي الأرحام)

## ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی بچوں کے ضائع ہونے کی صورت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا

سوال: (۱۰۳۷) والدین اگر بڑھے ہوں اور ان کے پاس گذر معاش موجود ہو تو ان کو چھوڑ کر بدون اجازت سفر میں برائے طلب علم جانا کیسا ہے؟ اور عورت کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۷۵ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه الخ أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه الخ (۱) (شامی)

پس معلوم ہوا کہ بہ حالت مذکورہ نکلنا طلب علم کے لیے جائز ہے، اور زوجہ و عیال کے ضائع ہونے کی صورت میں طلب علم کے لیے نکلنا منع لکھا ہے۔ و لو خرج المتعلم وضيع عياله، يراعى حق العيال (۱) (شامی)

## باپ پر دعویٰ کرنا اور نالاش کرنا روا نہیں

سوال: (۱۰۳۸) میں نے اور میرے والد صاحب نے سنگاپور میں جا کر نوکری کی، میں نے جو کچھ روپیہ کمایا وہ سب والد صاحب کو دیتا رہا، بعد تین سال کے ہم دونوں سفر سے واپس آئے، اور جس قدر روپیہ کم کر لائے اس کی ایک زمین والد صاحب نے اپنے نام خریدی، چند روز بعد میں اکیلا سفر میں گیا، والد صاحب نے مجھ کو خط لکھا جو کچھ تم کماتے ہو مجھ کو بھیج دو، ایک پختہ مکان کی تجویز ہے، چنانچہ جو کچھ روپیہ بچتا تھا وہ بہ ذریعہ منی آرڈر والد صاحب کو بھیجتا رہا، اور اس روپیہ سے والد صاحب نے ایک پختہ مکان بنوایا، جب میں سفر سے واپس آیا تو والد صاحب نے لوگوں سے قرض لے کر میرا نکاح کیا، اس قرض کی ادائیگی کے لیے مجھ کو پھر سفر کرنا پڑا، اور میں نے اپنی کمائی سے یہ قرض ادا کر دیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم چار بچے موجود ہیں، بعد میں والد صاحب نے دوسرا نکاح کیا، اس سے دو بچے موجود ہیں، اور دوسری زوجہ بھی انتقال کر گئی، پھر والد صاحب نے تیسرا نکاح ایک کم سن لڑکی سے کیا، اور اس کے بہکانے کی وجہ سے ہم چھ بچوں سے منکر ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ تم

(۱) الدر المختار و رد المحتار: ۴۹۹/۹، کتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

نے ایک پیسہ مجھ کو نہیں دیا، اور زمین مذکورہ کے خریدنے اور مکان کے بنوانے میں تمہارا روپیہ نہیں صرف ہوا، اور زمین مذکورہ کو نصف قیمت پر فروخت کردی، اور کہتے ہیں کہ مکان بھی کسی کو دے دوں گا، لہذا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جتنا پیسہ والد صاحب کو دیا ہے اس کو دعویٰ کر کے لے سکتا ہوں یا نہ؟ میری شادی کرنا والد صاحب پر فرض ہے یا میں خود اپنی کمائی سے شادی کروں؟ اگر میری شادی کرنے کا حق والد صاحب پر ہو تو یہ جو شادی کا قرض جو میں نے خود ادا کیا ہے، اس روپیہ کا دعویٰ والد صاحب پر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور جو زمین والد صاحب نے فروخت کی ہے اس کو روک سکتا ہوں یا نہیں؟ اور مکان کے متعلق بھی میں دعویٰ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بینواتو جروا (۱۳۳۳-۳۳/۷۹۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: أنت ومالك لأبيك (۱) اور رد المحتار جلد ثالث میں ہے: ثم هذا في غير الابن مع أبيه لما في القنية: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معيناً له الخ (۲) پس بیٹے نے جو کچھ کم کر باپ کو دیا اور باپ نے خرچ کیا بیٹے کو اس کے مطالبہ کا حق باپ سے نہیں ہے، اور باپ اگر بیٹے کی شادی کا خرچ بیٹے کے کسب اور روپیہ سے کرے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں اور بیٹے کو باپ سے مطالبہ اس روپیہ کا روا نہیں اور دعویٰ کرنا باپ پر اور نالاش کرنا روا نہیں، اور روکنا اس کی بیع کو درست نہیں ہے، اور مکان کی بابت بھی بیٹے کو کوئی دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، یہ امر باپ کے ذمے ہے کہ وہ اولاد میں سے ایک دوسرے کو ترجیح نہ دے اور کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دے، بلکہ مساوات کرے اور ظلم نہ کرے ورنہ اس پر مواخذہ ہوگا (۳) لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کا

(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي مالاً وولداً، وإن أباي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك (سنن ابن ماجه، ص: ۱۶۵، أبواب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده)

(۲) رد المحتار: ۳۹۲/۶، كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة، مطلب اجتماع في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية .

(۳) لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده يسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى إلخ. شامی میں ہے: قوله: (وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف من أن التتصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد، رملى (الدرّ والردّ: ۴۳۴/۸، كتاب الهبة)

مقابلہ کرے اور اس کی نالاش کرے اور دعویٰ کرے۔ حدیث میں ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مَطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ (۱) (مشكاة) فقط

ہارے ہوئے مکان کو چھڑانے اور جوا کے لیے باپ کو روپیہ دینا

سوال: (۱۰۳۹) ایک شخص نے مکان وغیرہ جوئے میں سب ہار دیا، اب وہ اپنے لڑکوں سے کہتا ہے کہ روپیہ دوتا کہ میں مکان چھڑالوں، اور جوئے کے واسطے بھی طلب کرتا ہے؛ اب دریافت طلب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں روپیہ دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر روپیہ نہ دیں تو گنہ گار تو نہیں ہوں گے؟ اور نافرمانی کا گناہ تو نہ ہوگا؟ (۳۳/۲۱۵۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مکان کے چھڑانے میں روپیہ دینا درست ہے، اور جوئے کے لیے دینا درست نہیں، اور اس میں باپ کی نافرمانی نہ ہوگی، اور کچھ گناہ نہ ہوگا۔ فقط

ماں شادی سے ناراض ہو تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۴۰) ایک شخص کی والدہ بدمزاج ہے، اس کو اپنے بیٹے کی خانہ آبادی کی طرف توجہ نہیں، اور بیٹا خود اپنی خانہ آبادی کی طرف اس وجہ سے متوجہ نہیں ہوتا کہ مبادا میرا فعل والدہ کے خلاف مرضی ہونے کی صورت میں باعث تلخی عیش ہو، پس ایسی صورت میں بالخصوص جب کہ بیٹا جوان اور صاحب ضرورت بھی ہو اس کو اپنی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز در صورت جواز عقد اگر والدہ کا اصرار متارکت پر ہو تو بیٹے کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر بہ طور قیام اصلاح بیٹا اپنی بیوی کو اس کے میکے ہی میں یا علیحدہ کسی مقام پر رکھے اور والدہ کی خبر گیری میں بھی حسب مقدور فرو گذاشت نہ کرے تو اس پر بھی ناراضگی کی صورت میں بیٹے کو اپنی تہذیب نفس اور امر مسنون کی بجا آوری کے لیے کیا رویہ شرعاً

(۱) مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۱ کتاب الآداب - باب البرّ والصلة، الفصل الثالث .

اختیار کرنا چاہیے؟ آیا یہ ناراضگی جو محض والدہ کی طبیعت سے متعلق ہے بیٹے کی عُقبی (آخرت) کے لیے تو مضر نہ ہوگی؟ (۱۳۳۵ھ/۷۶۷)

الجواب: اس کو اپنی شادی و نکاح کرنا جائز ہے اور خلاف شرع امر میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے، پس وہ شخص اپنا نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کرے، اور حتی الوسع والدہ کی اطاعت کرے اور اُن کو ناخوش نہ کرے، خواہ مخواہ اپنی بد مزاجی سے اگر وہ ناخوش رہے یا متارکت زوجہ پر مجبور کرے تو اس شخص پر مواخذہ نہیں اور وہ متارکت پر مجبور نہیں ہے، یہ صورت بہتر ہے کہ بہ صورت خوفِ ناموافقت والدہ وہ شخص اپنی زوجہ کو اس کے والدین کے گھر رکھے اور والدہ کی خبر گیری کرتا رہے، اور اگر والدہ کو ضرورتِ خدمت کی ہو تو خود ان کی خدمت کرے یا کسی ملازمہ وغیرہ کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دے، الغرض والدہ کو تکلیف نہ پہنچا دے اور تکلیف نہ ہونے دے اور حکم شریعت بجالا دے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### کیا بہو پر ساس کی اطاعت اور خدمت فرض ہے؟

سوال: (۱۰۴۱)..... (الف) اگر ساس یہ ضد کرے کہ بہو اسی کے پاس رہے، اور بہو خاوند کے پاس رہے تو کیا کرنا چاہیے؟

(ب) کیا بہو پر ساس کی خدمت فرض ہے؟

(ج) چوں کہ بیٹے پر والدین کی اطاعت فرض ہے اور بیوی پر خاوند کی، تو کیا بہو پر ساس کی اطاعت فرض نہ ہوگی؟

(د) اگر ساس بہو میں رنجش ہو اور والدین نہ تو طلاق کو پسند کریں نہ یہ کہ بیوی خاوند کے پاس رہے تو کیا خاوند بیوی سے ترک کلام کر دے؟ (۱۳۳۸ھ/۲۱۳۸)

الجواب: (الف) عورت کو اس کے شوہر کے پاس ہی رکھنا چاہیے۔

(ب) مقدم شوہر کی خدمت ہے، ساس کے ساتھ بھی معاملہ ایسا رکھے جیسا کہ چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، مگر یہ نہیں کہ جو کچھ ساس کہے وہ اس کو ماننا ضروری ہو اگرچہ اس میں عورت کی حق تلفی ہو، ایسی اطاعت لازم نہیں ہے۔



(ج) خدمت کرے، لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر کے پاس رہنے کو وہ کہہ سکتی ہے اس میں وہ حق پر ہے، اور اس میں اس پر ساس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ فقط

(د) زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے رہے اور اپنے پاس رکھے اور ترک کلام نہ کرے اور والدین کو بہ نرمی سمجھا دیوے کہ اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔

### شوہر بیوی کو ساس کی خدمت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا

سوال: (۱۰۴۲) کیا خاوند بیوی کو ساس کی خدمت کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ (۱۳۳۸/۲۱۳۸ھ)

الجواب: مجبور نہیں کر سکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### برادری نے بلا وجہ ماں کو برادری سے

### علیحدہ کر دیا ہو تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۴۳) میری والدہ بیوہ نے ایک پشادری سے نکاح ثانی کر لیا، برادری نے ان کو علیحدہ کر دیا، کچھ دنوں بعد شخص مذکور نے میری والدہ کو طلاق دے دی، ہمارے سوا کوئی ان کا خبر گیراں نہیں ہے، سعادت دارین سمجھ کر میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، اس پر مجھ کو بھی برادری سے خارج کر دیا ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ (۱۳۳۱/۲۳۸۸ھ)

الجواب: سائل کی والدہ نے کچھ برا کام اور گناہ نہیں کیا، کیوں کہ نکاح کر لینا اچھا کام ہے اور سنت ہے، اس کو عیب جاننے والے گنہگار اور فاسق ہیں، اور سائل کو بہ حالت مذکورہ اپنی والدہ کی خدمت کرنا عین ثواب اور حق شرعی ہے، سائل مستحق اس کا نہیں ہے کہ برادری سے خارج کیا جاوے، اور گنہگار وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے سائل کو اور اس کی والدہ کو برادری سے خارج کریں۔ فقط

### ماں نے بیٹوں کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیا تو بیٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۴۴) ہم دو بھائی ہیں، ہماری والدہ بیوہ نے دونوں بھائیوں کے خلاف مرضی زید کے گھر جا کر نکاح کر لیا، ہم نے زید سے تعلقات قطع کر دیے، ایک سال کے بعد میں نے خیال

کیا کہ کونسا فعل برا ہو گیا ہے نکاح کرنا شرعی کام ہے، ایک دن میں نے زید کے گھر جا کر اپنی والدہ صاحبہ کو راضی کیا اور معافی مانگی؛ آیا یہ امر خطا ہے یا صواب؟ (۱۳۳۳/۲۶۶۹ھ)

الجواب: یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا اور اتباع شریعت و سنت رسول اللہ کے موافق کام کیا، یہ امر ان شاء اللہ تعالیٰ موجب رضائے الہی و خوشنودی آنحضرت ﷺ ہے۔ فقط

### جس شخص نے ایک بیوہ عورت سے عشق و محبت کی وجہ

سے نکاح کیا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۰۴۵) ایک شخص عالم باعمل و صوفی بے مثال متوکل و تارک الدنیا ہیں، ان کے لڑکے عالم و پابند صوم و صلاۃ ہیں، لیکن اتفاقاً صاحب زادہ صاحب نے ایک عورت بیوہ سے جو ان کے مکان میں چوڑی پہنانے آیا کرتی تھی، اس سے عشق و محبت کی وجہ سے نکاح کر لیا، اور بی بی منکوحہ اولی موجود ہے، لہذا ایسی حالت میں صاحب زادہ کو مطعون کرنا کیسا ہے؟ اور مرشد صاحب کو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۷/۲۰۹ھ)

الجواب: صاحب زادہ صاحب نے درحقیقت کوئی کام خلاف شریعت نہیں کیا، ان کو مطعون کرنا ناجائز ہے اور ان کے والدین یعنی مرشد صاحب کو ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ فقط

### باپ دینی تعلیم دینے اور تراویح میں قرآن

سنانے سے روکتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟

سوال: (۱۰۴۶) میرے والد چاہتے ہیں کہ میں دینی تعلیم نہ دوں، اور رمضان شریف میں قرآن نہ سناؤں، بلکہ ان کے ہمراہ فصل کٹوانے میں مصروف رہوں؛ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۲/۱۹۸۰ھ)

الجواب: عام طور سے تو یہ حکم ہے کہ باپ کی اطاعت بھی کریں اور حکم خداوندی بھی بجا لائیں، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی فرماں برداری نہیں ہے، پس اگر باپ کی خدمت میں رہتے

ہوئے فرائض ادا ہوتے رہیں تو باپ کی خدمت میں رہنا اور ان کے فرمانے کے موافق کرنا افضل ہے، اور اگر فرائض میں نقصان ہوتا ہو تو اس وقت اطاعت والدین نہیں ہے۔ فقط

### باپ مشترک تجارت میں کوئی کام خلاف شرع کرتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟

سوال: (۱۰۴۷) باپ اور بیٹے کی ایک تجارت ہے، کل اختیارات لین دین باپ کو ہیں لڑکے کو کچھ اختیار نہیں ہے، اگر باپ کوئی کام خلاف شرع کرتا ہے تو بیٹا اس میں لب کشائی نہیں کر سکتا اور نہ لڑکے کی کوئی بات چلتی ہے، اور جب کہ سودی لین دین بھی ہے اور زکاۃ بھی نہیں دیتے؛ تو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۳/۲۲۶ھ)

الجواب: جب کہ لڑکا مجبور ہے اور اس کی کوئی بات نہیں چلتی تو امید ہے کہ وہ مواخذہ سے بری ہو اور آئندہ کو یہ ارادہ رکھے کہ جس وقت اپنا اختیار ہوگا اس وقت موافق حکم شریعت کے معاملات کرے گا اور باپ کے اس فعل کو جو وہ خلاف شرع کرے دل سے برا سمجھتا رہے۔ فقط

### باپ کو بدون اجازت بیٹے کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں

سوال: (۱۰۴۸) باپ بیٹے کی زندگی میں بیٹے کی خود پیدا کردہ جائداد پر قبضہ کر کے اسے تصرف میں لاسکتا ہے؟ (۱۳۴۳/۲۰۰۷ھ)

الجواب: بیٹے کی مملوکہ جائداد میں باپ کو بدون اجازت بیٹے کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے اور اگر باپ کو ضرورت ہو تو اس سے کسی چیز کو انکار نہ کرے، اور اپنے مال کو باپ کی ہی دعا سے سمجھے، لیکن باپ کو چاہیے کہ جو کچھ تصرف بیٹے کے مال میں کرے بیٹے کی اجازت سے کرے۔ فقط

### باپ بیٹوں کا مکان جبراً نہیں لے سکتا

سوال: (۱۰۴۹) ایک شخص کے چار پانچ بیٹے ہیں، پہلے سب ایک جگہ رہتے تھے، پانچ برس

سے بیٹوں نے کھانا پینا علیحدہ کر لیا، اور مکانات بھی علیحدہ بنائے؛ تو باپ ان سے جبراً مکان لے سکتا ہے یا نہیں؟ (۳۶/۳۱۷-۱۳۴۷ھ)

الجواب: جب کہ بیٹوں نے اپنا اپنا مکان علیحدہ اپنے روپیہ سے بنالیا ہے، اور وہ سب علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں باپ کے شریک نہیں ہیں تو باپ ان سے ان کا مکان جبراً نہیں لے سکتا۔ فقط

والدین کا سودی قرض ادا کرنے کے لیے اولاد سے رقم طلب کرنا

سوال: (۱۰۵۰) اگر والدین کے ذمے سودی قرض ہو اور وہ اولاد سے روپیہ طلب کریں سودی قرض ادا کرنے کے لیے، تو روپیہ دیا جائے یا سود کی وجہ سے نہ دیا جائے؟ (۲۰۴۰/۱۳۴۳ھ)

الجواب: والدین کا قرض ادا کر دے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

سوال: (۱۰۵۱) اگر کوئی شخص حج کے لیے یا علم پڑھنے کے لیے بلا اجازت والدین چلا جاوے اور والدین اس کی خدمت کے محتاج بھی نہیں تو جائز ہے یا نہ؟ (۵۸۲/۳۳-۱۳۴۵ھ)

الجواب: اگر والدین اس کی خدمت کے محتاج نہ ہوں تو جائز ہے (۱) (شامی)

بھائی کی اولاد فرع نہیں ہے

سوال: (۱۰۵۲) کسی شخص کا حقیقی یا علاقائی برادر زادہ اس شخص کی فرع ہے یا کیا؟

(۶۲۳/۳۲-۱۳۳۳ھ)


الجواب: فرع اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد ہے بھائی کی اولاد فرع نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) وله الخروج لطلب العلم الشرعی بلا إذن والديه . وفي الشامي: وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكرها ذلك ، قالوا: إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس و إلا فلا يسعه الخروج ..... لأن مراعاة حَقِّهما فرض عين (الدرو الشامي: ۴۹۹/۹، كتاب الحظر والإباحة- فصل في البيع)

## بزرگوں کو قبلہ و کعبہ وغیرہ لکھنا

سوال: (۱۰۵۳) باپ دادا یا کسی بزرگ کو قبلہ و کعبہ یا قبلہ کونین و کعبہ دارین لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۲۶۷۲ھ)

الجواب: مجازاً اس قسم کے الفاظ لکھنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، لہذا اس قسم کے الفاظ لکھنے سے احتراز کرنا مناسب ہے اور بہتر ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم



(۱) فتاویٰ رشیدیہ میں ہے:

سوال: قبلہ و کعبہ یا قبلہ دارین و کعبہ کونین یا قبلہ آمال و حاجات یا قبلہ مرادات یا قبلہ صوری و کعبہ معنوی یا دیگر مثل ان الفاظ کے القاب آداب میں والد یا عموی کو یا اخوی کو یا اور کسی کو تحریر کرنے جائز ہیں یا نہیں؟ حرام ہے یا غیر حرام؟ مکروہ ہے تحریری یا تنزیہی؟ مع عبارت و دلائل تفصیلی ارقام فرمادیں۔

جواب: ایسے کلمات مدح کے کسی کی نسبت کہنے اور لکھنے مکروہ تحریری ہیں۔ لقولہ علیہ السلام: لا تُطَرُّوْنِی الْحَدِیْثُ (یعنی میرے لیے زیادہ بڑائی کے الفاظ استعمال نہ کرو) (صحیح البخاری: ۴۹۰/۱ کتاب الانبیاء، باب قول اللہ عزّ و جلّ ﴿وَإِذْ تُكْرَفِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ الْآيَةَ﴾، عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لَا تُطَرُّوْنِی الْحَدِیْثُ) جب زیادہ حدشان نبوی سے کلمات آپ کے واسطے ممنوع ہوئے تو کسی دوسرے کے واسطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۵۶۶، کتاب: جواز و حرمت کے مسائل، عنوان: بزرگوں کو قبلہ و کعبہ وغیرہ لکھنا)

## یتیموں کے حقوق و احکام

یتیم کس کو کہتے ہیں؟

سوال: (۱۰۵۴) بالغ کا باپ اگر انتقال کر جائے وہ یتیم کہلائے گا یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۳۱ھ)  
الجواب: بعد بلوغ کے یتیم نہیں کہلاتا (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

یتیم بچے کا نفقہ دادا کے ذمے ہے یا والدہ کے؟

سوال: (۱۰۵۵) ایک بچہ یتیم ہے، اس کے صرف دادا اور والدہ زندہ ہیں جو بہت قلیل معاش رکھتے ہیں، آیا نفقہ بچے کا دادا کے ذمے ہے یا والدہ کے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۷۹۴ھ)  
الجواب: اس صورت میں ایک ثلث نفقہ ماں کے ذمے ہے اور دو ثلث دادا کے ذمے۔  
إعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجدة على قدر ميراثهما أثلًا في ظاهر الرواية إلخ (۲) فقط

نابالغوں کے مال کا ولی کون ہے؟

سوال: (۱۰۵۶) مال نابالغ منقولہ و غیر منقولہ میں ولایت بھائی حقیقی کو ہے یا چچا حقیقی کو؟  
(۱۳۳۳-۳۲/۲۳۰۷ھ)

(۱) الیتیم: هو المنفرد عن الأب، لأن نفقته عليه، لا على الأم..... وفي المفردات: أُلْتِمَ انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه. وفي الحديث: لا يُتَمُّ بَعْدَ الْحُلْمِ إلخ (قواعد الفقه، ص: ۵۵۴، الرسالة الرابعة: التعريفات الفقية)

(۲) الشامي: ۵/۲۷۰، كتاب الطلاق - باب النفقة - مطلب: الكلام على نفقة الأقارب.

الجواب: فقہائے احناف کی یہ تصریح ہے کہ ولایت مال نابالغ صرف باپ، دادا یا ان کے وصی کو ہے یا قاضی یا اس کے نائب کو ہے، بھائی اور چچا کو یہ ولایت نہیں ہے۔ درمختار میں ہے: الولي في النكاح لا المال الخ (۱) شامی میں ہے: قوله: (لا المال) فبان الولي فيه الأب و وصيه والجد و وصيه والقاضي و نائبه فقط الخ (۱) پس جواب سوال مذکور کا یہ ہے کہ یہ ولایت نہ بھائی کو ہے نہ چچا کو، اگر باپ دادا نہیں تو حاکم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فقط

سوال: (۱۰۵۷) زید اپنی زوجہ جوان اور اولاد نابالغ اور بھائی اور جائداد و زر نقد چھوڑ کر مرا، تو اس صورت میں ولایت نابالغوں کے مال کی ان کی ماں کو ہے یا چچا کو یا ماں کے بھائیوں کو؟ چچا متمول آدمی ہے اور ماموں نہایت غریب ہیں، اگر ماں ولی ہو جائے تو ظن غالب یہ ہے کہ اس کے بھائی یعنی نابالغان کے ماموں متوفی کی جائداد اور زر نقد سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، لہذا نابالغوں کی جائداد اور زر نقد کس کی حفاظت میں رہنا چاہیے تا بلوغ؟ (۱۳۴۵/۱۱۵۰ھ)

الجواب: نابالغوں کے مال کی ولایت سوائے باپ دادا یا ان کے وصی کے کسی کو نہیں ہے، بھائی اور چچا اور ماں ان میں مساوی ہیں ان میں سے کسی کو ولایت نابالغ کے مال کی نہیں ہے۔ درمختار میں ہے: و وليه: أبوه ثم وصيه الخ ثم ..... جده الخ ثم وصيه ..... ثم الوالي ..... ثم القاضي الخ دون الأم أو وصيها هذا في المال، بخلاف النكاح كما مر في بابہ (۲) (در مختار ملخصاً) قال الزيلعي: وأما ما عدا الأصول من العصبة كالعم والأخ أو غيرهم كالأُم الخ لأنهم ليس لهم أن يتصرفوا في ماله تجارة، فكذا لا يملكون الإذن له فيها الخ (۲) (شامی) پس معلوم ہوا کہ باپ دادا وغیرہ کے نہ ہونے کی صورت میں ولایت مال نابالغ کی حاکم اور قاضی کو ہے، پس حاکم نابالغوں کا مال جس کو امانت دار سمجھے اس کی حفاظت میں دیدے، اور پھر بالغ ہونے پر ان کا مال ان کے حوالے کرادے۔ فقط

(۱) الدر المختار والشامی: ۱۳۸/۴، کتاب النکاح - باب الولي - مطلب في فرق النكاح .

(۲) الدر المختار والشامی: ۲۰۹/۹-۲۱۰، کتاب المأذون - مبحث في تصرف الصبي و من له الولاية عليه وترتيبها .

## غیر ولی یتیم کی جائیداد فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۰۵۸) ایک زمین میں یتیم کا چالیسواں حصہ ہے، ایک معلم اس میں کوٹھی بنانا چاہتا ہے، تو جب کہ یتیم کا باپ دادا نہیں ہے تو اس کا حصہ کسی طرح خریدا جاسکتا ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۵ھ/۱۱۲۳ھ)

الجواب: ایسی ضرورت میں بعض روایات سے یتیم کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے جب کہ یتیم کا نفع اسی میں ہو، اور یتیم کی زمین کی بیع کے جواز میں یہ بھی شرط لکھی ہے کہ دو چند قیمت پر فروخت کی جاوے۔ و إن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب الخ (۱) (درمختار) و جاز بیعہ عقار صغیر من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته الخ (۲) وصي القاضي كوصي الميت الخ (۳) (درمختار) فقط

سوال: (۱۰۵۹)..... (الف) ایک اراضی میں بہت شرکاء ہیں جن میں سے ایک شریک یتیم ہے اس کا چالیسواں حصہ ہے، اراضی مذکورہ میں ایک کوٹھی واسطے رہائش طلباء و معلم بنوانا چاہتے ہیں، یتیم کے اب و جد وغیرہ کوئی ولی نہیں ہے، اگر حاکم وصی مقرر کر کے یتیم کا حصہ بیع کر اے تو بیع نافذ ہوگی یا نہیں؟

(ب) حاکم کا وصی مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۱۲۲ھ)

الجواب: (الف) وہ بیع نافذ ہوگی۔

(ب) ضرورت میں غیر وصی کے تصرف کو بھی جائز لکھا ہے (۴) (درمختار) اور جو حاکم مسلم

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۳۵۴/۱۰، کتاب الوصایا - باب الوصي .

(۲) رد المحتار: ۲۲۲/۶، کتاب الجہاد - باب العشر والخراج والعزبة - مطلب في بيع السلطان وشرائه أراضی بیت المال — وأيضاً في الدر المختار مع الشامی: ۳۵۱/۱۰، کتاب الوصایا - باب الوصي .

(۳) الشامی: ۴۹۶/۶، کتاب الوقف - مطلب: الوصي يصير متولياً بلا نص — وأيضاً في الدر مع الرد: ۳۶۳/۱۰، کتاب الوصایا - باب الوصي - فصل في شهادة الأوصياء .

(۴) و جاز بیعہ عقار صغیر من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته الخ (الدر المختار مع الشامی: ۳۵۱/۱۰، کتاب الوصایا - باب الوصي )



بہ ضرورت وصی مقرر کر دے جائز ہے۔ فقط

### ثمنِ مثل لے کر یتیم کی زمین مسجد میں دینا

سوال: (۱۰۶۰) یتیم کے جد غیر حقیقی نے جو کہ یتیم کا وصی نہیں ہے ثمنِ مثل لے کر یتیم کی زمین بہ غرض توسیع؛ مسجد میں داخل کر دیا ہے یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ/۱۱۹۸)

الجواب: درمختار میں ہے: وجاز بیعہ عقار صغیر من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته (۱) اس سے معلوم ہوا کہ وصی کو زمین یتیم کی دو چند قیمت کو فروخت کرنا درست ہے اور جب کہ وہ وصی نہیں ہے تو اس کے لیے فعل مذکور جائز نہیں ہے۔ فقط

### یتیم بچوں کے مال سے مدرسہ جاری رکھنا

سوال: (۱۰۶۱) ایک شخص فوت ہو گیا، اولاد صغار چھوڑ گیا، اس نے مدرسہ جاری کیا تھا، اس وقت یتیم بچوں کے مال سے مدرسہ جاری رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کوئی مال یا زمین مدرسہ کے لیے علیحدہ مقرر نہیں کی تھی؟ (۱۳۳۵ھ/۱۱۹۸)

الجواب: یہ جائز نہیں ہے۔ كما في الدر المختار: وإن صارًا كالطلاق والعناق والصدقة والقرض لا - أي لا يصح - وإن أذن به وليهما الخ (۲) فقط

### یتیموں کی روٹی یا کوئی چیز کھانی جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۰۶۲) یتیم کچھ بالغ اور کچھ نابالغ ہیں ان کی روٹی یا کوئی چیز کھانی جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۲۳۸ھ)

الجواب: بالغوں کے حصہ میں سے کھانا ان کی اجازت سے درست ہے، اور نابالغوں کے

(۱) رد المحتار: ۲۲۴/۶، کتاب الجہاد - باب العشر والخراج والجزية - مطلب في بيع السلطان وشرائه أراضی بیت المال - وأيضًا في الدر المختار مع الشامي: ۳۵۱/۱۰، کتاب الوصایا - باب الوصي .

(۲) الدر مع الشامي: ۲۰۸/۹، کتاب المأذون - مبحث في تصرف الصبي الخ .

حصہ میں سے کھانا درست نہیں ہے۔

### یتیم کی ماں کا تحفہ اور دعوت قبول کرنا

سوال: (۱۰۶۳) ایک یتیم لڑکا پڑھتا ہے، اس کی والدہ کبھی کوئی تحفہ ہدیہ دیتی ہے اور کبھی دعوت کرتی ہے، اس کا تحفہ اور دعوت اکل مال یتیم تو نہیں ہوگا؟ (۱۳۳۵ھ - ۲۴/۱۳۷۹ھ)

الجواب: اگر وہ عورت اپنے مملوکہ روپیہ میں سے ہدیہ دے یا دعوت کرے تو اس کو قبول کر لیں کچھ حرج نہیں ہے، یہ ”اکل مال یتیم“ میں داخل نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### یتیم کے مال میں سے کسی کو کھانا دینا اور خیرات کرنا

سوال: (۱۰۶۴) دعوت یتیم نابالغ کی قبول کرنا اور اس کے گھر سے روٹی خدا واسطے طالب علم و مسافر کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس یتیم نابالغ کے ساتھ دوسرا بھائی بڑا ہو اور دونوں کا مال مشترک ہو، اگر بڑا بھائی مشترک مال سے طالب علم کو کھانا روزانہ دے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸ھ / ۲۰۵)

الجواب: یتیم نابالغ کے مال میں سے کسی کو کھانا دینا اور صدقہ خیرات کرنا درست نہیں ہے، اور اگر بڑا بھائی بالغ اپنے مال میں سے اور اپنے حصے میں سے صدقہ خیرات کرے یا کسی کو روٹی کپڑا دے تو یہ درست ہے، مگر اس کا حساب لکھتا رہے، تاکہ اس قسم کے اخراجات اپنی طرف لگا لے، یتیم کی طرف نہ لگائے۔ فقط

### یتیم کی تعلیم کے اخراجات اس کے مال سے وصول کرنا

سوال: (۱۰۶۵) ایک شخص کا انتقال ہوا، اور اس کے والد نے اپنے بیٹے متوفی کے لڑکے کے حصہ کو جس میں ایک مکان اور کچھ نقد آیا نابالغ کے تائے کے سپرد کر دیا، وہ بارہ برس تک نان و نفقہ و جملہ اخراجات تعلیم وغیرہ کا متکفل رہا، اور ہمیشہ مکان کی مرمت کرائی اور مکان کو خود بھی استعمال کیا، اب بالغ ہونے پر وہ لڑکا اور اس کے دیگر ورثاء تائے مذکور سے مکان کا کرایہ لینا چاہتے ہیں؛ آیا ولی کو کرایہ مکان کا دینا ہوگا یا نہ؟ نیز جو نقد کہ اس ولی کے سپرد کیا گیا تھا اور منافع کی شرط نہیں کی تھی تو اس

کا منافع بھی اس کو دینا ہوگا یا نہیں؟ اور لڑکے کے نان و نفقہ و تعلیم وغیرہ میں جو کچھ صرف ہوا اس کو نقد میں سے ولی مجرا کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۵/۲۵۲)

الجواب: اس صورت میں بالغ اور اس کے ورثاء کو اس کے تائے ولی سے مکان کا کرایہ لینے کا حق نہیں، اور بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو اخراجات ہوئے ہیں وہ سب اسی روپیہ سے مجرا ہوں گے یعنی نابالغ کے تائے کو شرعاً حق ہے کہ اس رقم سے یہ اخراجات وصول کرے۔

اور اس روپیہ پر جو منافع ہوئے ہیں وہ سب لڑکے کے ہیں، اس میں اس کے تائے کا کوئی حق نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر یہ روپیہ تجارت وغیرہ میں لگا دیا تھا تو اس کا جو نفع ہو وہ سب لڑکے کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### یتیم کو اس کا مال کب سپرد کیا جائے؟

سوال: (۱۰۶۶) صبی عاقل یتیم اپنے اموال کا خود مالک ہوگا یا ولی؟ ان کے اموال کو اپنے پاس رکھنے پر انہیں تا بلوغ مجبور کرے گا؟ (۱۳۴۵/۱۳۸۷)

الجواب: صبی عاقل اپنے مال کا مالک تو ہر حال ہے، لیکن قبل از بلوغ بلکہ قبل از رشد اس کا ولی وصی اس کے مال کو اس کے حوالے نہ کریں۔ درمختار میں ہے: فبان بلغ الصبی غیر رشید لم یسلم إلیہ ماله حتی یبلغ خمسة وعشرين سنة الخ (۱) فقط

### یتیم کا مال تجارت میں لگانا یا سرمایہ کے

#### بغیر اپنی تجارت میں یتیم کو شریک کرنا

سوال: (۱۰۶۷)..... (الف) ایک یتیم کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے جس میں نفع و نقصان کا احتمال ہے، ایسی تجارت میں یتیم کا روپیہ لگائے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

(ب) زید بہ طور صلہ رحمی اپنی دکان تجارت اشیائے خوردنی میں جس میں نفع و نقصان کا احتمال

ہے، یتیم کے بغیر کسی سرمایہ کے صرف منافع میں اس کو شریک کرنا چاہتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟  
(۱۳۳۱/۱۳۰۷ھ)

الجواب: (الف) اگر نفع و نقصان کا ایسا احتمال ہے جو کہ ہر تجارت میں ہوا کرتا ہے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نقصان کا احتمال غالب ہے تو جائز نہیں۔ کما فی الدر المختار: وصح بیعہ — أي الوصی — و شراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية إلخ (۱) و جاز لو اتجر — أي الوصی — من مال الیتیم للیتیم إلخ (۲) (در مختار)

(ب) چونکہ یتیم کا کچھ مال نہیں، لہذا اگر اس سے کام لیا جاوے تو وہ اجر مثل کا مستحق ہے، اور اگر ربح سے اس کو کسی حصہ کا حصہ دار بنایا جاوے تو محض تبرع ہے شرکت نہیں، اس لیے کہ یتیم کا کوئی مال نہیں۔ فقط

### یتیموں کا مال تجارت میں لگا ہوا ہو تو کیا کرے؟

سوال: (۱۰۶۸) زید عمر دونوں بھائی تجارت کرتے تھے، زید نے انتقال کیا اور دونوں بالغ لڑکوں کو چھوڑا تو زید متوفی کا مال شرعاً تقسیم کر کے نابالغ فرزند ان علیحدہ کر دیا جائے گا یا اس کے مال کو تجارت میں لگائے رکھنا چاہیے؟ عمر کے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے۔ (۱۳۳۳/۸۷۷ھ)

الجواب: تجارت میں لگائے رکھنا نابالغوں کے مال کو اُس صورت میں جائز ہے کہ زید نے اپنے بھائی عمر کو اس کی وصیت کی ہو یا مطلقاً اس کو وصی بنایا ہو۔ در مختار میں ہے: ولا يتجر الوصی فی مالہ أي الیتیم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح، و جاز لو اتجر من مال الیتیم للیتیم إلخ (۳)

### یتیم خانہ کے نام سے کیا ہوا چندہ دیگر مصارف میں صرف کرنا

سوال: (۱۰۶۹) ایک یتیم خانہ قائم ہے اور محض یتیم خانہ کے نام سے چندہ ہوتا ہے، اس چندہ

(۱) الدر المختار مع الرد: ۱۰/۳۳۸-۳۳۹، کتاب الوصایا - باب الوصی .

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۱۰/۳۵۲، کتاب الوصایا - باب الوصی .


(۳) الدر مع رد المحتار: ۱۰/۳۵۱-۳۵۲، کتاب الوصایا - باب الوصی .

میں سے دیگر خرچ یعنی بیوگان و مسافران و واعظان وغیرہ کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳ھ/۲۳۶۵-۳۲/۱۳۳۳ھ)  
 الجواب: سوائے یتیموں کے خرچ کے یا جو ان کے لوازمات ہیں جیسے ان کے معلم کی تنخواہ،  
 دیگر مصارف میں مثل مسافروں و واعظ و بیوگان وغیرہ صرف کرنا اس چندہ کو درست نہیں ہے۔ فقط

یتیم کا مال جو استعمال کیے بغیر خراب ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۷۰) یتیم کا مال جو بغیر استعمال کیے خراب ہو جاتا ہے فروخت کرنا و عاریت پر  
 دینا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷ھ/۲۱۵۴)

الجواب: فروخت کرنا درست ہے (اور اجرت پر دینا بھی جائز ہے) عاریت نہ دیا جائے  
 (کہ اس میں یتیم کا کوئی فائدہ نہیں) فقط واللہ تعالیٰ اعلم



## احباب و اقرباء کے حقوق و احکام

### چچا کے برے افعال ظاہر کرنا بے ادبی نہیں

سوال: (۱۰۷۱) چچا بھتیجے میں جھگڑا ہوا، بھتیجے نے وجہ خاصیت یہ بیان کی کہ ہمارے چچا نے ایک عورت داشتہ اپنے مکان میں رکھی ہے، نہ مسلمان کرتا ہے نہ اس سے نکاح پڑھاتا ہے، بھتیجے کو چچا کے برے افعال خلاف شرع ظاہر کرنا کیسا ہے؟ کچھ بے ادبی تو نہیں ہے؟ اور جو شخص اپنے گھر میں داشتہ عورت رکھے بغیر نکاح کے، تو مسلمانوں کو اس سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ (۱۰۸۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: چچا کے برے افعال بھتیجا کو ظاہر کرنا بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ عین ادب ہے اور حکم شریعت ہے کہ امر بالمعروف کرو اور منکر اور معصیت سے منع کرو، اور یہ بھی حکم شریعت ہے کہ مسائل شرعیہ و احکام دین میں کسی کی رعایت نہ کی جاوے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور دوستی نہ کی جاوے ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (سورہ مجادلہ، آیت: ۲۲) بغیر نکاح کے کسی عورت کو رکھنا اور اس سے برافعل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، مرتکب اس فعل کا فاسق، بدکار دین و دنیا میں روسیہا ہے، مسلمانوں کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### باہمی رنجش کی وجہ سے سلام و کلام ترک کرنا

سوال: (۱۰۷۲) سنا ہے کہ اگر دو مسلمان باہمی تنازعہ کے سبب ترک سلام کر دیں تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، میرے اور میرے ایک دوست کے درمیان نفاق ہو گیا ہے، میں توبہ سبب

مندرجہ بالا سلام وکلام کا خواہش مند رہا، لیکن وہ راضی نہ ہوا تو میں نے بھی ترک سلام و گفتگو کر دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں میرے ذمے تو کچھ مواخذہ نہیں ہے؟ (۱۳۳۵ھ/۸۶۲)

الجواب: اگر دنیوی تنازعہ کی وجہ سے ترک سلام وکلام کریں تو یہ گناہ ہے (مگر) اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اور جب کہ ابتدا بہ ترک سلام وکلام دوسرے شخص کی طرف سے ہوئی تو تم پر کچھ مواخذہ نہ ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ تم اپنی طرف سے ترک سلام وکلام نہ کرو، اگر وہ کسی طرح سے راضی نہ ہو اور سلام وکلام نہ کرے تو پھر تم بھی چھوڑ دو معذور ہو۔

### باہمی رنجش ختم کر کے صلہ رحمی کرنا بہتر ہے

سوال: (۱۰۷۳) درمیان دو برادر حقیقی کے رنجش ہے، ہر دو کے اولاد بھی ہے، عورتوں اور اولاد میں بھی رنجش ہے، اس صورت میں قطع رحمی کرے یا صلہ رحمی کرے؟ (۱۳۳۵ھ-۲۴/۷۹)

الجواب: ان ہر دو برادران و اولاد کو چاہیے کہ آپس میں مصالحت کر لیں، اور صلہ رحمی کے تعلقات کرتے رہیں (۱) فقط

### قصور معاف کر کے باہمی رنجش کو ختم کرنے میں بہت ثواب ہے

سوال: (۱۰۷۴) بکر و عمر میں کسی وجہ سے رنجش ہوئی، اور بکر نے عمر سے معافی چاہی، عمر نے معافی نہیں دی اور نہ وہ بکر سے بولتا ہے، اور سامنا ہونے پر منہ پھیر کر چلتا ہے، عمر کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳ھ/۸۱۹)

الجواب: جب کہ بکر نے اپنے قصور کی معافی مانگ لی اور وہ عمر سے معافی چاہتا ہے تو عمر کو چاہیے کہ معاف کر دے اور ترک کلام و سلام نہ کرے اگر کوئی محظور شرعی اس سے لازم نہ آتا ہو،

(۱) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ..... عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس الواصل بالمکافیء ولكن الواصل الذي إذا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا (صحيح البخاري: ۸۸۶/۲، کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمکافیء)

حدیث شریف میں اس کا بہت ثواب وارد ہوا ہے (۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (سورہ آل عمران: آیت: ۱۳۴) فقط

### بہنوئی کے جرم کی وجہ سے بہن سے قطع رحمی کرنا درست نہیں

سوال: (۱۰۷۵) میری ہمشیرہ کی شادی میرے ماموں زاد بھائی سے ہوئی ہے، بعد نکاح ہونے کے وہ بیاج لینے لگا اور میری ہمشیرہ کو معلوم ہے، مگر وہ اپنے شوہر کو منع نہیں کرتی، اسی وجہ سے میں نے اس کو یعنی ہمشیرہ کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۰/۸۱۹)

الجواب: اپنی بہن سے اس کے شوہر کے جرم کی وجہ سے قطع رحم نہ کرنا چاہیے، اور صلہ رحمی جس طریق سے ممکن ہو کرتے رہنا چاہیے۔ فقط

### بڑے بھائی کو مارنا اور ان کے ساتھ گستاخی کرنا سخت گناہ اور ظلم ہے

سوال: (۱۰۷۶) اگر برادر خورد کلاں کو زد و کوب کرے (اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارے) اور مقابلہ و گستاخی سے پیش آئے تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۸/۲۲۱۳)

الجواب: اس صورت میں برادر خورد سخت گنہگار اور ظالم ہے، عند اللہ وہ ماخوذ ہوگا، اس کو لازم ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے قصور معاف کراوے اور اس کا ادب مثل باپ کے کرے (۲)

(۱) عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا: بلى! قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۸، كتاب الآداب، باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه فليسلم عليه، فإن ردّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة (سنن أبي داود، ص: ۶۷۳، كتاب الأدب، باب في هجرة الرجل أخاه)

(۲) عن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده (مشكاة المصابيح، ص: ۴۲۱، كتاب الآداب، باب البر والصلة، الفصل الثالث)



جن رشتہ داروں کی شادیوں میں منکر باتیں ہوتی ہیں

ان سے تعلقات قطع کرنے میں جلدی نہ کرنی چاہیے

سوال: (۱۰۷۷) اگر اقرباء رشتہ دار نماز روزہ بھی ادا کرتے ہیں اور عقائد بھی اچھے رکھتے ہیں، لیکن ان کی شادیوں میں منہیات و بدعات مثل تقارہ ڈھولک وغیرہ ہوا کرتے ہیں کیا اسی وجہ سے ان سے انقطاع شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۶۰۲/۱۳۳۹ھ)

الجواب: انقطاع اور مقاطعت میں جلدی نہ کرنی چاہیے، بلکہ حتی الوسع منکرات کے بند کرنے میں اور سمجھانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْآيَةَ﴾ (سورہ نحل، آیت: ۱۲۵)

اہل علم کے فعل کو کبر و غرور پر محمول کرنا مناسب نہیں

سوال: (۱۰۷۸) چند اشخاص جو ایک ہی خاندان میں ہیں، اور انہوں نے کچھ علم دین بھی حاصل کیا ہے اور ان کو اپنے علم پر اس قدر غرور ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے اعزاء و خاندان میں جانا اور ان کو کسی قسم کی تعلیم و تلقین کرنا یا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا حقارت سمجھتے ہیں، اور ان کو کلمات حقارت آمیز کہتے ہیں حتیٰ کہ اب چند مدت سے اپنے عزیزوں کی غمی و شادی نیز تجہیز و تکفین میں بھی بہ وجہ اپنی کبر و نخوت شریک نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۹۲/۱۳۳۲ھ)

الجواب: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِفْكٌ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۲) ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے برے گمانوں سے بچو، کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، پس عام لوگوں کو ان اہل علم پر یہ گمان کرنا کہ یہ بوجہ کبر و نخوت و غرور کے برادری سے اور ان کی مجالس و مجامع میں شرکت سے علیحدہ رہتے ہیں نہیں چاہیے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے علیحدہ رہتے ہوں کہ اہل برادری میں رسوم غیر مشروعہ جاری ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا کہنا کوئی نہ سنے گا جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رسوم غیر مشروعہ کا ترک ہونا سخت دشوار ہے، پس باوجود اس احتمال کے ان کے فعل کو کبر و غرور پر محمول کرنا مناسب نہیں ہے، شان ایمان

کے خلاف ہے۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ کبر و غرور بری چیز ہے جس میں یہ ہو اس کو ان قبائح کو نکال دینا چاہیے، اور ضروری امور مثل تجہیز و تکفین و نماز جنازہ اہل اسلام میں شرکت حتی الوسع کرنی چاہیے، اور جو وجہ علیحدگی کی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ جس میں جو خرابی ہو وہ اس کے ازالہ کی فکر کرے، اور جہاں تک ہو سکے اتفاق و اتحاد باہمی قائم کرنا اور رکھنا چاہیے، نا اتفاقی بہت برا کام ہے۔ فقط

### خلاف شرع معاہدہ کی پابندی جائز نہیں

سوال: (۱۰۷۹) قوم مبین نے اپنی جماعت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ قوم مبین میں اگر کوئی تقریب ہو تو پیر و مرشد صاحب کو ضرور دعوت دیں گے، جو شخص ان کو دعوت نہ دے وہ مجرم ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، اور سلام و کلام اس سے کرنا ممنوع ہے، اور جو شخص اس دعوت میں شریک ہوگا وہ بھی اس جرم کا مرتکب اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ آیا اس معاہدہ کی پابندی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۲۳۲۲ھ)

الجواب: جماعت مسلمین کو اس قسم کا معاہدہ خلاف شرع اور اس کی پابندی جائز نہیں ہے، کیونکہ پیر صاحب کو شریک کسی دعوت میں نہ کرنا کوئی شرعی جرم نہیں ہے، لہذا اس پر امور مذکورہ مرتب کرنا ناجائز ہے، اور مرتکب اس کا فاسق مرتکب کبیرہ کا ہے۔ فقط

### عرصہ دراز تک بہن اپنا حصہ طلب نہ کرے تو اس کا حق ساقط نہیں ہوتا

سوال: (۱۰۸۰) عرصہ ساٹھ ستر سال کا ہوا کہ زید نے ایک کچا مکان مبلغ ۱۲ روپیہ کو خرید کیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس نے اس کو مبلغ ۳۲ روپیہ مہر کے عوض میں اپنی بیوی کے نام لکھ دیا، اس کے بعد زید کی بیوی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑ کر مر گئی، جس کو عرصہ دراز ہوا، پس اس عرصہ میں تینوں بیٹیوں میں سے کوئی خواہاں اپنے حصہ کی نہ ہوئی، اور اس عرصہ میں خالد نے اپنی ذاتی کمائی سے تینوں بہنوں کی شادی بھی کی، اور اس مکان کو بھی از سر نو تعمیر کرایا جو کہ اب ہزار بارہ سو روپیہ کی مالیت کا ہو گیا، پس اب ہزار بارہ سو روپیہ کی مالیت ہو جانے کے بعد خالد کی ایک بہن حصہ کی خواہاں ہوئی، اب اتنی مدت تک حصہ نہ لینے سے وہ حق دار ہے یا نہ؟ اگر ملے گا تو اصل سے یا حالت موجودہ

سے؟ (۱۸۶۱/۳۳-۱۳۳۴ھ)

الجواب: عرصہ دراز تک حصہ اپنا طلب نہ کرنے سے حق اس کا ساقط نہیں ہوا، کذا فی الشافی (۱) مگر اصلی قیمت مکان (یعنی بلا تعمیر صرف مکان کی موجودہ قیمت) کے اعتبار سے اس کو حصہ ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### کسی کی جائیداد جبراً ادبالینا

سوال: (۱۰۸۱) زید نے عمر کی پچاس بیگھہ جائیداد جدی جبراً ادبارکھی ہے، کسی طرح سے دینا نہیں چاہتا، عمر و زید کے لیے کیا حکم ہے؟ عمر کہتا ہے موقع ملا تو زید کو جان سے ماروں گا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۳۹۲ھ)

الجواب: زید اگر عمر کا حق نہ دے گا تو عند اللہ اس پر گناہ حق العباد کے دبانے کا ہوگا، اور وہ معذب ہوگا، اور اس کی نیکیاں دن قیامت کے عمر کو ملیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو عمر کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے (۲) بہر حال عمر کو صبر کرنا چاہیے، اس میں بڑے بڑے درجات عمر کو ملیں گے، اور جان سے مار ڈالنا زید کو جائز نہیں ہے، اگر عمر نے ایسا کیا تو وہ ظالم و عاصی ہوگا۔ فقط

### دفع فساد کے لیے کسی کا حق دبا دینا

سوال: (۱۰۸۲) خالد کچھ زمین کا حصہ دار ہے، اس کے حصہ میں زید، بکر، عمر تینوں حق دار ہیں، خالد سب کا حق دینا چاہتا ہے، مگر اس کی برادری کے لوگ زید کا حق دینے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زید کا حق اپنے قبضہ میں رکھو، خواہ تینوں کا حق دو ہی کو دے دو، کیونکہ زید مفسد ہے،

(۱) إِنَّ الْحَقَّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ (الشامی: ۳۸۸/۱۰، کتاب الخنثی، مسائل شتی)

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (مشكاة المصابيح، ص: ۴۳۵، باب الظلم، الفصل الأول)

جب حصہ دار ہوگا تو فساد کر کے لوگوں کو تنگ کرے گا، لہذا بہ غرض دفع فساد زید کا حق خالد کو اپنے قبضہ میں رکھنا یا بکر عمر کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۶۵۳ھ)


الجواب: زید کا حق زید کو ہی دینا چاہیے، نہ خالد کو خود رکھنا چاہیے نہ بکر، عمر کو دینا چاہیے، کسی کا حق رکھنا بڑا ظلم ہے، اور حق عباد کا مواخذہ سخت ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### سسرال، ہمسایہ اور محلّہ والوں کے حقوق کیا ہیں؟

سوال: (۱۰۸۳) سسرال اور ہمسایہ و محلّہ والوں کے کیا حقوق ہیں؟ (۱۳۳۲/۲۰۵۵ھ)  
الجواب: جو سب مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کے بھی ہیں (یعنی ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک کرنا) اور درجہ بہ درجہ ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا چاہیے۔

### پڑوسی کی دیوار میں کھوٹی گاڑنا

سوال: (۱۰۸۴) دیوارِ ہم سایہ میں کھوٹی گاڑنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۳-۳۳/۲۳۹ھ)  
الجواب: یہ امر اجازتِ ہم سایہ پر موقوف ہے بلا اجازت درست نہیں ہے، یعنی جو دیوار ہمسایہ کی ہے اس میں اجازت کی ضرورت ہے، باقی تفصیل اس بحث کی دیکھنے پر موقوف ہے، بعد مشاہدہ حال کے جیسا کوئی عالم حکم کرے اس پر کاربند ہوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم



(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدّواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله الإشراف بالله يقول الله عزّ وجلّ : إن الله لا يغفر أن يشرك به ، و ديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتّى يقتصّ بعضهم من بعض الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ۴۳۵، كتاب الآداب ، باب الظلم)

## اسماء والقاب کے احکام

ساتویں دن عقیقہ ہو تو عقیقہ کے دن نام رکھنا مستحب ہے

سوال: (۱۰۸۵) بچہ تولد ہونے کے بعد نام رکھنا چاہیے یا عقیقہ کے روز نام رکھا جاوے؟  
(۱۳۴۵ھ/۲۷۱-۲۷۲)

الجواب: نام ساتویں روز عقیقہ کے دن رکھنا مستحب ہے (۱) فقط

بچہ نام رکھنے سے پہلے مر جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۰۸۶) زید کے فرزند پیدا ہوا، ایک ماہ کے بعد انتقال کر گیا، اس کے باپ نے بہ وجہ ناواقفی کے نام نہیں رکھا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۳ھ/۲۹۰-۲۹۱)  
الجواب: بہتر یہ ہے کہ اب اس کا نام کچھ رکھ دیا جائے، مثلاً عبد اللہ یا عبد الرحمن وغیرہ۔ فقط

### منظور الحسن نام رکھنا

سوال: (۱۰۸۷) تاریخی نام منظور الحسن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں شرک و کفر تو نہیں؟  
(۱۳۴۵ھ/۲۹۱)

(۱) یستحب لمن ولد له ولد أن یسمیہ یوم أسبوعہ (رد المحتار: ۹/۴۰۷، آخر کتاب الأضحیۃ)

اور پیدائش کے بعد فوراً نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں، بہ اس طور کہ لڑکا ہوگا تو عبد الرحمن نام رکھوں گا۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

الجواب: منظور الحسن نام رکھنا درست ہے اس میں شرک و کفر نہیں ہے۔ فقط

### مخزن الرشید نام رکھنا

سوال: (۱۰۸۸) محمد مخزن الرشید نام رکھنا کیسا ہے؟ یا مولوی مخزن الرشید؟ ان ناموں میں مادہ تاریخی نکلتا ہے، اس لیے دریافت طلب ہے کہ موزوں ہیں یا غیر موزوں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۸۴۷ھ)

الجواب: یہ نام اچھے ناموں میں سے نہیں ہے اگرچہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے یعنی خزانہ رشد و ہدایت۔ فقط

### محمد بخش، میر بخش، رسول بخش اور عبدالرسول نام رکھنا

سوال: (۱۰۸۹) محمد بخش، میر بخش، رسول بخش، عبدالرسول وغیرہ اس قسم کے نام رکھنا درست ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۰-۳۳/۱۳۳۵ھ)

الجواب: درست نہیں ہے (۱) فقط

### ارشاد احمد، رشاد احمد، مشہود احمد اور فضل الرحمن نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۰) ارشاد احمد، رشاد احمد، مشہود احمد، فضل الرحمن، اگر ان میں سے کوئی شرعاً ناجائز و ناپسند ہو تو اس سے مطلع فرمادیں، اور جو سب سے اچھا نام ہو اس سے بھی مطلع کیجئے۔

(۱۳۳۲-۳۳/۲۰۸۲ھ)

(۱) یعنی یہ نام رکھنا ناجائز اور حرام ہے، متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن صحابہ کرامؓ کے نام عبد العزی، عبد الشمس وغیرہ تھے، حضور اکرم ﷺ نے ان کے نام بدل دیے تھے، کسی کا نام عبدالرحمن رکھا تھا تو کسی کا عبداللہ، لہذا جن مسلمانوں کے والدین نے ایسے مشرکانہ نام رکھے ہوں ان کو بدل دینا ضروری ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حجۃ اللہ البالغہ میں ارقام فرماتے ہیں: وقد ثبت فی احادیث لا تُحصى: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غَیَّرَ أَسْمَاءَ أَصْحَابِهِ: عبد العزی و عبد الشمس و نحوهما إلى عبد اللہ و عبد الرحمن و ما أشبههما، فهذه أشباح و قوالب للشرک، نهی الشارع عنها لكونها قوالب له، واللہ أعلم (رحمۃ اللہ الواسعہ، اردو شرح حجۃ اللہ البالغہ: ۱/۶۳۲، مطبوعہ: مکتبہ حجاز)

الجواب: یہ چاروں نام جو آپ نے لکھے ہیں صحیح ہیں، اور بہ اعتبار معنی کے اچھے ہیں، جو نام مناسب سمجھیں رکھیں، مشہود آنحضرت ﷺ کے مبارک ناموں میں سے ہے، اس لیے مشہود احمد ان ناموں میں بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### محمد نبی یا سبط نبی نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۱) محمد نبی یا سبط نبی نام رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۴۳۲/۳۶ - ۱۴۳۷ھ)

الجواب: سبط نبی نام تو ایسا ہے جیسا آل نبی یا آل حسن یا اولاد حسن یا سبط حسن وغیرہ، لہذا اس میں تو کچھ اشکال نہیں ہے، البتہ محمد نبی نام رکھنا نہ چاہیے، اس کو بدل دینا چاہیے، اگر تبدیل دوسرے نام سے دشوار ہو تو اس کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ بجائے نبی کے نبیہ کہا جاوے اور لکھا جاوے، کیوں کہ نبیہ بہ معنی عظیم وغیرہ ہے، پس اب یہ ایسا ہو جائے گا جیسا محمد شریف محمد عظیم وغیرہ۔ فقط

### غلام مرتضیٰ، غلام رسول اور غلام علی نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۲) غلام مرتضیٰ، غلام رسول، غلام علی وغیرہ، ایسے نام رکھنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ (۱۴۳۵/۷۰ھ)

الجواب: ایسے نام رکھنا اچھا نہیں (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### نبی بخش، سالار بخش، اور رسول بخش نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۳) نبی بخش، سالار بخش، رسول بخش نام رکھنا کیسا ہے؟ اور جو شخص ایسے نام رکھنا

(۱) شارح حجۃ اللہ البالغہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم ارقام فرماتے ہیں: جن لوگوں کے نام عبدالنبی، عبدالرسول، غلام محمد، غلام نبی، غلام رسول، نبی بخش، ولی بخش وغیرہ ہیں، ان کو اپنے نام بدل دینے چاہئیں، اور اس تاویل کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ غلام بہ معنی خادم ہے، اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے تو ان کا کوئی خادم ہوتا، مگر جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو اب کوئی خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تاویل عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ آمین (رحمۃ اللہ الواسعہ: ۱/۶۳۱)

پسند کرے، اور ترغیب دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۳۲/۲۱۱۸-۱۳۳۳ھ)

الجواب: نبی بخش، سالار بخش، رسول بخش وغیرہ نام ایسے ہیں جن میں شرک کا وہم ہوتا ہے، لہذا ایسے نام رکھنا ناجائز اور مذموم ہے، اور جو شخص ایسے نام رکھنے کی ترغیب دیوے وہ جاہل عن الشریعت ہے۔ فقط

محمد نبی، احمد نبی اور عبد النبی، عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۴) عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ (۲۲۵۹/۱۳۳۸ھ)

الجواب: ایسے نام رکھنا اچھا نہیں ہے، بلکہ عبد اللہ اور عبد الرحمن وغیرہ جس میں اسمائے الہی کی طرف عبد کی اضافت ہونا نام رکھنا بہتر و مستحب ہے، یا انبیاء کے نام پر نام رکھے (۱) فقط

سوال: (۱۰۹۵) محمد نبی، احمد نبی، عبد النبی یہ نام رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ (۲۲۴۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: یہ نام رکھنا اچھا نہیں ہے، محمد، احمد بلا وصف نبی کے نام رکھنا چاہیے، یا عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ اسماء رکھنے چاہئیں (۲) فقط

مناف یا عبد مناف نام رکھنا

سوال: (۱۰۹۶) ایک شخص کا نام مناف ہے، زید کہتا ہے کہ اس شخص کو عبد المناف کہنا درست ہے، مگر کہتا ہے کہ عبد المناف کہنا شرک ہے؟ (۲۱۵۴/۱۳۴۲ھ)

الجواب: قاموس میں ہے: و مناف صنم (۳) یعنی مناف ایک بت کا نام تھا، پس مناف یا عبد مناف نام رکھنا ممنوع اور حرام ہے، اور عبد مناف نام رکھنا شرک فی التسمیۃ ہے۔ فقط

(۱) عن أبي وهب الجُشَمِيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْحَدِيثِ (مشكاة المصابيح، ص: ۴۰۹، كتاب الآداب، باب الأسامي، الفصل الثالث)

(۲) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ۴۰۷، كتاب الآداب، باب الأسامي، الفصل الأول)

(۳) القاموس المحيط: ۲/۷۰، باب الفاء، قبيل فصل الواو، المطبوعة: بولاق، مصر.



جس کا نام عبدالرزاق، عبدالحق ہے اس کو رزاق، خالق کہہ کر پکارنا

سوال: (۱۰۹۷) یہ جو نام عبدالرزاق، عبدالحق، عبدالقادر، عبدالکریم رکھے جاتے ہیں اور پھر ان کو نصف نام سے پکارنے سے یعنی رزاق، خالق، قادر، کریم کہنے سے عرفاً گنہ گار ہوتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۳۲۰ھ)

الجواب: گنہ گار نہیں ہوتے (۱) کیوں کہ نیت ان کی عرف سے ظاہر ہے کہ مراد ان کے مسمیٰ عبدالرزاق وغیرہ ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کسی کو برے لقب سے پکارنا

سوال: (۱۰۹۸) ایک شخص ہندو سے مسلمان ہوا، یا اس کے باپ دادا ہندو سے مسلمان ہوئے، اور اس نے لڑکوں کو ہندی پڑھانا شروع کیا، لوگ اس کو پادہ جی کہتے ہیں یعنی ہندو برہمن، وہ اس نام سے نفرت کرتا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو تم مجھے شیخ جی کہو، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ (۱۳۳۲/۱۶۵۱ھ)

الجواب: ایسے لقب سے جو کہ ہندوؤں کا لقب ہو اور وہ خود بھی اس لقب کے ساتھ پکارنے سے کراہت کرتا ہو، تو اس کو اس لقب سے پکارنا ممنوع ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ (سورہ حجرات، آیت: ۱۱) پس جس لقب کو وہ اپنے لیے پسند کرے مثلاً منشی جی یا میاں جی یا شیخ جی اسی لقب سے اس کو پکارنا چاہیے۔ فقط

(۱) مگر اس طرح پکارنا اچھا نہیں، پورا نام لے کر پکارنا چاہیے۔ احسن الفتاویٰ میں ہے:

سوال: عبدالرحمن یا عبدالرحیم جیسے اسماء سے مضاف حذف کر کے صرف رحمن یا رحیم پکارنے کا عام دستور ہو گیا ہے؛ کیا یہ جائز ہے: بینوا تو جروا۔

الجواب باسم ملہم الصواب: چون کہ ایسے اسماء میں مضاف محذوف معنوی ہوتا ہے، اس لیے جائز تو ہے، مگر کراہت سے خالی نہیں بالخصوص ان اسماء میں جو صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، جیسے غفار، رحمن وغیرہ۔ ان میں حذف مضاف زیادہ قبیح ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ: ۸/۱۷۶، کتاب الحظر والإباحہ - متفرقات کتاب الحظر والإباحہ، مطبوعہ: زکریا بک ڈپو دیوبند)

فتاویٰ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانیؒ  
مرتب: حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مفتاحیؒ

الطَّهارة	جلد: ۱	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
الصَّلَاة	جلد: ۲	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة الصَّلَاة	جلد: ۳	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة الصَّلَاة	جلد: ۴	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة الصَّلَاة	جلد: ۵	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
الزَّكَاة - الصَّوْم - الْحَجَّ	جلد: ۶	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
النِّكَاح	جلد: ۷	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة النِّكَاح	جلد: ۸	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
الطَّلَاق	جلد: ۹	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة الطَّلَاق	جلد: ۱۰	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
ثبوت النَّسَب - حضانة - نفقة	جلد: ۱۱	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
الأیمان والنَّذور - تَا - اللَّقْطَة	جلد: ۱۲	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

مرتب: حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم

الشَّرْکَة - تَا - الوقف	جلد: ۱۳	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
بقیة الوقف - تَا - القمار والتَّأْمِین	جلد: ۱۴	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
القرض - تَا - الأضحیة والعقیقة	جلد: ۱۵	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
الحظر والإباحة	جلد: ۱۶	مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند